

سیدنا زائل آمدہ نام او سعادت بود اولین گام او

# حیاتِ سعیدیہ

۱۰۷

سوانح حیات حضرت خواجہ محمد سعید قریشی ہاشمی نقشبندی

مجددی فضلی احمد پوری قدس سرہ العزیز

مؤلف

حضرت مولانا الحاج سید زوار حسین شاہ صاحب نقشبندی مجددی سعیدی

قدس سرہ

مؤلف، عمدۃ الفقہ، زبدۃ الفقہ، عمدۃ السلوک، حضرت مجدد الف ثانی،

انوارِ معصومیہ، مقالاتِ فضلیہ وغیرہ

باہتمام

ادارہ مجددیہ، ۲/۵، ایچ، ناظم آباد ۳، کراچی

الآن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون

سعد از ازل آید نام او  
سعادت بود اولین گام او

# حیات سعیدی

لحنه

سوانح حیات حضرت خواجہ محمد سعید صاحب قریشی ہاشمی نقشبندی

مجددی فضلی احمد پوری قدس سرہ العزیز

مؤلف

حضرت مولانا الحاج سید ار حسین شاہ صاحب نقشبندی مجذبی سعیدی

مؤلف عمدة السلوك وعمدة الفقه وغيره

ملفہ کاپتہ: ادارہ مجذبیہ۔ ناظم آباد کراچی ۱۸

مطبوعہ احمد برادر س پرنٹرز۔ ناظم آباد کراچی قیمت

## فہرستِ مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۰	دوسرے سلاسل میں اجازت	۵	دیباچہ
۳۱	تبلیغِ سلسلہ و سفرِ دہلی	۹	حیاتِ سعیدیہ
۳۳	مولوی امیر اللہ خاں کی بیعت	=	اسمِ شریف
۳۶	بعض حضرات کا ذکر دریافت کرنا	=	پیدائش
۴۷	دہلی کا دوسرا سفر	۱۰	نسبِ شریف
۴۸	دہلی کا تیسرا سفر	۱۲	تعلیم و تربیت
=	حاجی محمد شفیع صاحب کا بیعت ہونا	۱۳	ذریعہٴ معاش
۵۰	رہنگ میں تبلیغ کا سلسلہ	۱۵	حالات قبل از بیعت
=	حاجی عبد المجید صاحب کا بیعت ہونا	۱۶	بیعت
۵۱	مولانا گوہانوی صاحب کا بیعت ہونا	۱۷	تاریخِ بیعت
=	کرناٹ میں تبلیغ	۱۷	آپ کے پیرو مشد کے مختلف حالات
۵۲	پانی پت کا سفر		سلسلہٴ بیعت
۵۴	کیتھل کا تبلیغی سفر	۲۵	آداب و محبتِ شیخ
۵۷	تھانیسر کا سفر	۲۹	اجازتِ بیعت و نقلِ سند

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۱	تسلیم و رضا	۹۲	علم لدنی	۵۷	دیگر مقامات میں تبلیغ
۱۸۳	دعا و تصرفات و کرامات	۹۳	تعبیر خواب	۶۰	بیعت فرما نے کا طریق
۱۹۸	کشف و کرامات	۹۴	باہم مشورہ کرنا	۶۲	اجتہاد کا بیعت ہونا
۲۲۷	وصال	۹۷	قیام مساجد و مدارس	۶۳	مراقبہ کا طریق
۲۳۳	اولادِ امجاد	۹۷	سالانہ جلسہ کا انعقاد	۶۶	روز و شب کے معمولات
۲۳۴	خلفائے عظام	۹۹	تعویذات و عملیات	۷۵	حقیقتِ طریقت
۲۴۶	نظم بیادگارِ مرشدی	۱۰۲	تقویٰ	۷۷	حقوقِ طریقت
۲۴۸	دیگر نظم بیادِ مرشد	۱۲۱	تربیتِ مریدین	۸۰	ہر وقت با وضو رہنا
۲۵۰	قطعات وصال	۱۵۳	آدابِ مجلس	۸۲	افشائے سلام
۲۵۲	شجرہ مبارکہ	۱۵۶	ملفوظات	۸۳	حج بیت اللہ شریف
۲۵۴	ختم شریف	۱۶۴	چند ناصحانہ حکایات	۸۴	حلیہ مبارک
		۱۶۹	حسنِ سلوک		لباس
		۱۷۲	ایثار و سخاوت	۸۵	خوراک وغیرہ
۲۵۶	تَمَّتْ	۱۷۵	لنگر	۸۷	رقار
			مہمان نوازی	۸۸	اخلاق و عادات
		۱۷۸	اکھب اللہ و ابغض اللہ	۹۰	حقوقِ ہمسائیگی
		۱۷۹	توکل	۹۱	زہد کی
		۱۸۰	اخلاص	۹۱	خلوت گزینی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## دیباچہ

نازہ خواہی داشتین گردا غمہائے سینہ را ۛ گاہے گاہے باز خوان این قصہ پارینہ را  
 مُحَمَّدًا وَنُصَّیَّی عَلَی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ اَمَّا بَعْدُ بِنَدْوَةِ تَاجِزِ سَچْمِیْرِ سَچْمِدَانِ  
 خاکسار ذرہ بمقدار احقر الانام زوار حسین بن سید احمد حسین عفی اللہ تعالیٰ عنہما و  
 غفر لہما عرض پرداز ہے کہ سوانح عمری کی تالیف اور وہ بھی کسی تتبع سنت جامع شریعت و  
 طریقت بزرگ کی درآئیں ایک وہ مؤلف کا روحانی باپ بھی ہو حقیقت میں ایسے شخص کو  
 شاہاں ہے جو صاحب سوانح کے ظاہری و باطنی احوال سے پوری طرح واقفیت و مناسبت  
 رکھتا ہو اور سفر و حضر میں اکثر ان کی خدمت و بلازمت میں رہا ہو۔ جو لوگ اس کے اہل  
 ہوتے ہیں وہ اُس بزرگ کی حیات مبارکہ میں ہی ان واقعات و حالات کو قلمبند کرتے  
 رہتے ہیں تاکہ افراط و تفریط سے محفوظ رہیں لیکن یہ عاجز اپنی علمی بے بضاعتی و کمزوری  
 حافظہ کے باعث حالات کے استحضار سے قاصر ہے اور کم عمری اور نا سمجھی کی وجہ سے  
 اُس وقت اتنی سمجھ بھی نہیں تھی کہ کچھ نہ کچھ حالات ساتھ ساتھ قلمبند کرتا رہتا اور یہ بھی  
 کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ یہ قرعہ فال اس عاجز و سچمیدان کے نام پڑے گا، بلکہ مدت تک  
 تو یہی خیال رہا کہ نسبی خاندان یا روحانی سلسلہ کے کوئی اور بزرگ اس خدمت کو انجام دیں گے

اور ہمارے حضرت خواجہ خواجگان پیر پیراں قطب العارفین زبدۃ السالکین مخدومنا و مولانا  
 شیخنا و سدا حضرت خواجہ محمد سعید قریشی ہاشمی احمد پوری انار اللہ تعالیٰ برہانہ و قدس  
 سرہ العزیز کے حالات و سوانح مبارکہ جمع کر کے شائع کرادیں گے مگر امید ہے کہ آئی بلکہ حضرت  
 قدس سرہ کے وصال کے کچھ عرصہ بعد سے ہی اس خدمت کیلئے بعض اجاب و اکابر کا ارشاد گرامی  
 اس عاجز کے متعلق صادر ہوا چنانچہ جب اجاب سے مدد چاہی کہ اپنی معلومات قلمبند فرما کر اس  
 عاجز کو بھجوادیں تو بعض حضرات نے اگرچہ کچھ قلمبند فرمایا لیکن وہ اس عاجز کے پاس نہ  
 بھجوا سکے اور اس کی تالیف کا اہتمام التوا میں پڑتا رہا حتیٰ کہ انقلاب آیا اور مشرقی  
 پنجاب اور دہلی وغیرہ کے مسلمان ہجرت پر مجبور ہو کر پاکستان کے مختلف علاقوں  
 میں آباد ہو گئے اور بعض قابل قدر اجاب ہم سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے، اور  
 حضرت صاحب موصوف رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کا بہت سا حصہ جو ان حضرات  
 و حال ہونا ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔

پھر پاکستان میں آباد ہونے پر کئی سال تک ہجرت کے اثرات آباد کاری  
 کی پریشانیوں اور کاغذ و طباعت کی پابندیوں کی وجہ سے اس خدمت جلیلہ  
 کی طرف کسی نے خاص توجہ نہیں کی بالآخر حضرت مخدومنا و مکرنا قبلہ عموی صاحب  
 عزیز محمد قریشی مدظلہ العالی (برادر خور و حضرت موصوف رحمۃ اللہ علیہ)  
 و حضرت مولانا خواجہ محمد سعید صاحب گوہانوی مد لطفہ اور مخدوم زادگان عالی نشان  
 کی تحریک و تائید مکرر اس مقصد کی ترغیب و تائید کا باعث ہوئی اور ان حضرات کے  
 ارشاد کی تعمیل سے انکار کو سوہا دہ سمجھ کر اس عاجز نے اپنی بے بضاعتی اور کم علمی  
 کے باوجود ان حضرات اور دیگر اجاب سلسلہ کے ہیما کے ہوئے مضامین اور بعض

اپنی ناقص معلومات کو ترتیب و تالیف میں لانے کی سعی کی تاکہ مال الایدارہ  
 کلہ لایترک کلہ (جو چیز سب نہ مل سکے اس کو بالکل چھوڑا بھی نہیں جاسکتا) پر عمل  
 ورنہ کسی کے سوانح حیات میں تمام عمر کے حالات کو احاطہ کر کے تحریر میں لانا  
 سخت دشوار امر ہے کہ اول تو وہ تمام حالات کسی کو محفوظ نہیں رہتے اور پھر  
 اس قدر زمانہ گزرنے کے بعد اگر ان کو سوچ کر لکھا بھی جائے تو غلطی کا احتمال  
 قوی مانع تحریر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اجاب سلسلہ نے بھی تفصیر یادداشت کا عند  
 کر کے بہت مختصر معلومات بہم پہنچائی ہیں تاہم زیادہ تر حصہ حضرت مولانا محمد سعید  
 صاحب گوہانوی مدظلہ العالی نے مہیا فرمایا ہے جس کا ان کو حق بھی پہنچتا ہے۔  
 بہر حال جو کچھ بن پڑا معذرت کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پیش خدمت ہے  
 اور ساتھ ہی یہ بھی استدعا ہے کہ چونکہ اس میں روایات بالمعنی ہیں یعنی وہی الفاظ  
 و کیفیات لفظ بلفظ تو کس کو یاد رہی ہیں البتہ حسب یادداشت ان کو اپنے الفاظ  
 میں ادا کیا گیا ہے اس لئے غلطیوں کو راویوں کی طرف منسوب فرماتے ہوئے  
 تحریری و تالیفی خامیوں پر خاکسار مولف کی کم علمی کے پیش نظر مسامحت و چشم پوشی  
 سے کام لیں اور دعائے خیر و مغفرت سے یاد فرمائیں۔

حضرت صاحب موصوف قدس سرہ کی ذات ستودہ صفات ہماری ان  
 لغزشوں اور غلطیوں سے بری ہے اس لئے کہ حضرت موصوف رحمۃ اللہ علیہ تمام  
 حالات و معاملات میں شریعت مقدسہ کے اتباع کلبے حد خیال فرماتے اور ہر مسئلہ  
 کی تحقیق کر کے اس کو اپنا معمول بناتے تھے۔ معہذا اگرچہ اولیا معصوم نہیں ہوتے  
 تاہم محفوظ ہیں۔ غرض اس تالیف کی یہ ہے کہ ان حالات سے سبق حاصل کیا جائے

اور صاحبِ سوانح کی تقلید میں سنتِ نبوی پر حتی الامکان پوری طرح عمل کر کے  
فلاحِ دایین کا وسیلہ بنایا جائے۔ اللہ پاک اس خاکسار کی نیت کو خالص فرما کر  
شرفِ قبولیت بخشے اور حضرت صاحبِ موصوف کے اس حق کو جو ہم خاکساروں پر  
واجب تھا مقبول فرمائے اور حضرت موصوف قدس سرہ کے نقشِ قدم پر چلنے کی  
بیش از بیش توفیق رفیقِ حال فرمائے۔

احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحاً

وما توثق الا بالله عليه توكلت واليه ائيب. وصلى الله على رسول الكريم واله واصحابه اجمعين

من آں خاتم کہ ابر تو بہاری کند از لطف بر من قطرہ باری

اگر بر روید از تن صدر زبائتم چو سوسن شکر لطفش کے تو انم

حضرت اقدس قدس سرہ کی پیش نظر سوانح جیات ۱۹۵۵ء میں پہلی بار شائع  
ہوئی تھی لیکن ایک عرصہ سے نایاب ہو چکی تھی اب بعض اجاب کے اصرار پر ترمیم و  
تصحیح و مزید اضافات کے ساتھ بفضلہ تعالیٰ دوبارہ شائع ہو کر ہدیہ ناظرین ہے۔

احقر زوار حسین عفی عنہ

غفر اللہ له وعقاعنه

۱۳۹۰ھ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

## حیات سعیدیہ

یعنی سوانح حیات حضرت پیروم شرف قدوة السالکین زبدة العارفين، قطبِ دُورانِ  
غوثِ زماں حضرت مولانا الشاہ محمد سعید قریشی ہاشمی قدس سرہ  
و طاب ثراہ و جعل الجنة مثواه۔

زباں پہ بارِ خدا یا یہ کس کا نام آیا کہ میرے لفظ نے بوسے مری زباں کے لئے  
آپ کا اسم شریف والدین نے سعید محمد رکھا تھا جس کو آپ نے اپنے  
انتقال سے چند سال قبل لفظوں کو مقدم مؤخر کر کے محمد سعید کر لیا  
تھا اور فرماتے تھے کہ مجھے یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا  
ذاتی اسم مبارک بعد میں لیا جائے اور صفاتی نام پہلے بیان کیا جائے۔ آپ منشی کے لقب  
سے مشہور اور بڑے زمیندار و رؤسائے شہر میں سے تھے۔

سعید از ازل آندہ نام او سعادت بود اوّلین گام او  
پیدائش | آپ ۱۳۱۶ھ (مطابق ۱۸۹۹ء) میں بمقام احمد پور شرقیہ ریاست  
بھاو لپور پیدا ہوئے۔

مبارک منزلی کاں خانہ رام ہے چنیں باشد ہمایوں کشورے کاں عرصہ راشاہے چنیں باشد  
احمد پور شرقیہ، ریاست بھاو لپور کے مشہور اور قدیم شہروں میں سے ہے اور  
یہ ریاست پرانی اسلامی ریاستوں میں ایک بہت بڑی ریاست تھی جس میں اسلامی

ثقافت و تہذیب اب بھی ہندوستان کے دوسرے شہروں اور علاقوں کی یہ نسبت بہت بہتر حالت میں موجود ہے۔ اسی شہر کے قریب (یعنی تقریباً دو میل کے فاصلے پر) نواب صاحب کے محلات ہیں جس کی وجہ سے ان کے قریب کی آبادی ڈیرہ نواب صاحب

کے نام سے مشہور ہے۔ اس شہر کے اسٹیشن کا نام بھی ڈیرہ نواب صاحب ہی ہے جو لاہور تا کراچی ریلوے لائن پر ایک مشہور اسٹیشن ہے، یہ شہر کافی بارونق اور تجارتی مقام ہے اور ضلع بھاو لپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کا صدر مقام ہے، آموں اور کھجور کے باغات بکثرت ہیں، یہاں کے مٹی کے برتن نہایت خوبصورت اور سبک ہوتے ہیں جو دور دور تک تحفہ کے طور پر جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت صاحب پہلے احمد پور شرقیہ کے محلہ شکاری میں سکونت پذیر رہے ہیں بعد میں محلہ کڑواہ احمد خاں میں سکونت اختیار فرمائی۔

آپ کے والد ماجد کا اسم شریف حضرت محمد صادق ہے اور دادا کا نسب شریف | میاں غلام قادر صاحب جو نہایت بہادر و جری اور بیٹوٹ و گتکا وغیرہ فنون حرب میں بہت ماہر تھے۔ اس فن میں شہر کے بہت سے لوگ ان کے شاگرد تھے ہمارے حضرت قدس سرہ صحیح النسب نجیب الطریقین قریشی ہاشمی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت بہاؤ الحق والدین خواجہ بہاؤ الحق زکریا ملتانی قدس سرہ العزیز سے ملتا ہے۔

سہ اقلیم طریقت کے تاجدار اور دیانے نقوی کے شہریار حضرت خواجہ بہاؤ الحق والدین ابو محمد زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ <sup>۱۱۶۴</sup> ۵۶۰ھ میں بمقام کوٹ کروڑ پیدا ہوئے آپ پیدائشی ولی تھے اس سلسلہ میں یہ روایت مشہور ہے کہ جب آپ کے والد ماجد بزرگوار قرآن مجید پڑھنے لگے تو آپ دودھ پینا ترک کر دیتے اور نہایت انہماک سے فاسم صحواد کی تعمیل کرتے بچپن ہی میں آپ کے والد بزرگوار نے وفات پائی۔ آپ نے جب ہوش و حواس سمجھالے تو والدہ ماجدہ اور عم بزرگ کی اجازت ملتان میں جا کر ابتدائی تعلیم حاصل کی کچھ عرصہ بعد بخارا شریف لے گئے اور وہاں اساتذہ بالکمال کے سامنے زاوئے تلمذ کر کے سند فضیلت حاصل کی، ان کی ریاضت و عبادت کے متعلق یہ مشہور ہے کہ بیس سال تک

(باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

ہمارے حضرت کے اجداد عرب سے پنجاب تشریف لائے تھے اور وہاں سے ابتدا میں ریاست کے علاقہ بھاو لنگر منچن آباد کی طرف سکونت اختیار کی جہاں سے اس زمانہ کے نواب صاحب شہراحمد پور شرقیہ کی آبادی کے لئے دوسرے لوگوں کے ہمراہ ان کو بھی لے آئے۔ اس وقت سے یہیں مقیم ہو گئے اور یہیں ان کا سلسلہ نسب جاری ہو گیا۔ آپ کے حقیقی ماموں کوئی نہ تھے البتہ رشتہ کے ماموں تھے۔ نانا صاحب کا نام سلطان خاں تھا جو فوج کے بڑے عہدہ دار تھے غالباً ایڈجوٹنٹ (میجر کے درجہ کے) تھے اور بہت آفسیر یعنی کمانڈر و کپتان وغیرہ ان کے ماتحت تھے۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ) ایک چھٹانک پانی اور ایک چھٹانک روٹی پر روزہ افطار کرتے رہے، اس کے بعد جب آپ حج بیت اللہ شریف کے لئے تشریف لے گئے تو ہر قدم پر دو گنا ادا کیا۔ تعلیم و تعلم اور تزکیہ نفس کے بعد حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ خلافت حاصل کیا اور ملتان تشریف لائے۔ یہ اس زمانہ کا ذکر ہے جب دنیا غزنوی فتوحات کی یاد دہن سے بھلا چکی تھی اور شمالی ہندوستان اور راجپوتانہ کے چاروں طرف پھر کفر و الحاد کی گھٹائیں چھلنے لگی تھیں آپ اس وقت آسمان معرفت پر آفتاب ہدایت بن کر چلے اور کراچی سے کشمیر اور قندھار سے دہلی تک تبلیغی دورے کئے۔ دریلے سندھ، پنجاب اور سلج کی موجوں کے تلاطم خیز تھپڑے سے، ملتان اور سندھ کی تمازت اور کابل و کشمیر کی باد زہری کے جھونکوں کو بردا کیا اور نصف صدی میں ایک انقلاب برپا کر دکھلایا کہ آج تک تصوف و تاریخ کی کتابیں آپ کے تبلیغی تذکروں سے معمور ہیں، آپ کا تصوف کے رنگ میں ڈوبا ہوا ایک فقہی رسالہ جس کی شرح مولانا علی بن احمد غوری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سو صفحات میں لکھی تھی کتزلعباد کے نام سے موسوم ہے اور اس کا ایک نسخہ حال ہی میں سجادہ نشین کوچکوال سے دستیاب ہوا ہے۔ پنجشنبہ، صفر ۱۱۶۱ھ (۲۱ دسمبر ۱۷۴۷ء) کو علم و ادب اور طریقت و معرفت کا یہ آفتاب ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ آپ کا مزار مبارک ملتان کے قلعہ پر جو سکندر سے سرتہ ہوا تھا اور مرور زمانہ کی آندھیوں سے کھنڈر بن کر رہ گیا ہے قبہ ابیض کے اندر باشوکت و عظمت جیات جاودانی عاشقانِ الہی کا ثبوت دے رہا ہے جہاں ہر سال ۵ اکتوبر کو بڑے اہتمام سے آپ کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق  
ثبت ست بر جریدہ عالم دوام ما

تعلیم و تربیت | آپ نے ابتدائی تعلیم یعنی ناظرہ قرآن شریف مسجد میں حافظ

صاحبان سے پڑھا اس کے بعد سرکاری مدرسہ میں چھ جماعت تک تعلیم پائی۔ درسی کتب بھی مساجد میں پڑھیں خصوصاً فارسی میں کافی مہارت حاصل کی اور گلستان بوستاں، سکندر نامہ وغیرہ اس زمانہ کی متداولہ و مروجہ کتب فارسی کو باقاعدہ پڑھا اور کافی دسترس حاصل کی چنانچہ ان کے بیشتر اشعار و مضامین آپ کو ازبہ تھے۔ آپ بہترین مضمون نگار اور خوش نویس بھی تھے۔ آپ کی نہایت پاکیزہ تحریرات و کتبات اب بھی موجود ہیں جو دیدہ زیب اور بصیرت افروز ہیں۔

جب آپ کی عمر دس سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ابھی عمر کے چودہویں سال میں قدم رکھا ہی تھا کہ والد ماجد بھی داغ مفارقت دیکر اس دارِ فانی سے رحلت فرما گئے چنانچہ اپنی تعلیم و تربیت کے علاوہ ایک خرد سال بھائی اور دو بہنوں کی تربیت و خدمت کا سارا بوجھ بھی آپ ہی کے کندھوں پر آ پڑا۔ آخر کار پندرہ سال کی عمر میں سلسلہ تعلیم ختم کر کے گھر کے کاروبار اور بھائی بہنوں کی تربیت میں مشغول ہو گئے۔ فطرۃً آپ بہت ذہین اور ذکی تھے اور ابتداء سے ہی طبیعت مذہبی رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی اس لئے ذاتی مطالعہ سے عربی میں کافی دسترس حاصل کر لی تھی اور مذہبی کتب اردو و فارسی اور خصوصاً کتب تصوف کا بہت مطالعہ کیا اور چونکہ سن شعور سے ہی طبیعت شریعت مقدسہ کی پابند اور اتباع سنت کی شیدا تھی اس لئے جو مسائل پڑھتے ان پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے یاد رہتے اور ہر کام اور عمل کے وقت شریعت کا حکم معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس قدر جزئیات مسائل اور ادعیہ مستونہ وغیرہ یاد تھیں کہ بڑے بڑے علماء کو بھی وہ بہت کم یاد ہوتی ہیں جس موضوع پر آپ کبھی گفتگو فرماتے وہ نہایت

سیر حاصل اور جامع و مانع ہوتی تھی، بسا اوقات وہ مضامین مسکات بیان فرماتے جو کتبِ فہم میں بھی نہیں ملتے اور کبھی کبھی کسی خاص مصاحب کو فرمایا دیتے تھے کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے القا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا، لوگوں نے بارہا اس کا مشاہدہ کیا ہے۔

**ذریعہ معاش** | آپ کی بہت سی جدی زمینیں تھیں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھنے پر زمینوں پر ناجائز تصرف کرنے لگے اس لئے آپ کو اپنی ساری توجہ زمینوں کی دیکھ بھال اور نگرانی میں صرف کرنی پڑی، کچھ عرصہ ملازمت بھی کی مگر ملازمت کے گندے حالات اور ملازمت کی رشوت ستانی و بے ایمانی وغیرہ کو دیکھ کر ترک کر دیا اور مہنت اپنے زمیندارہ کے کام میں مصروف ہو گئے، اخیر عمر تک زمینداری ہی آپ کا ذریعہ معاش رہی۔ خود بھی مزارعین کے ساتھ کام کرتے اور بڑی جفاکشی کے ساتھ تمام دن کام میں لگے رہتے، جنگلات کی زمینوں کو ہموار کرنے اور پانی لگانے وغیرہ زراعت کے تمام امور میں ایسے باہمت اور انتھک تھے کہ مزارعین کو بھی ان کی جفاکشی اور مہنت کا ہر طرح سے قائل ہونا پڑتا۔ مزارعین کے گھروں پر آمدورفت رکھنے اور کاروباری ضروریات میں ان سے اس قدر گھل مل کر رہنے کے باوجود آپ کی عصمت و عفت پر کبھی کوئی حرف نہیں آیا، ہر شخص آپ کی پاکدامنی کا قائل تھا، آپ کے اس زمانے کے ساتھی اب تک اس کے شاہد ہیں کہ آپ نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور بچپن سے لے کر دمِ آخر تک کبھی کسی کو آپ کی عفت پر شبہ بھی پیدا نہیں ہوا۔

صاحبزادہ مولانا محمد صادق صاحب مدظلہ العالی نے فرمایا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

پہلے احمد پور شرقیہ کے محلہ شکاری میں سکونت پذیر رہے ہیں بعد میں محلہ کٹڑہ احمد خاں میں سکونت اختیار فرمائی۔ بچپن کا زمانہ جس محلہ میں گذرا ہے وہاں کے باشندگان آپ کی اتنی تعریف فرماتے کہ زبان بیان سے قاصر ہے۔ وہ اکثر فرماتے کہ تو جوانی میں ہم اس قریشی کو سیر و تفریح کے لئے بلاتے کہ فلاں جگہ تماشہ ہے، آج اس مقام پر ڈنگل و کشتی ہر بڑے بڑے پہوان باہر سے آئے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ قریشی ہمارے ساتھ نہ جاتا بلکہ ٹال مٹول رکھتا۔ ہم حیران رہتے کہ کیوں یہ ہمارے ساتھ کھیل کود میں شامل نہیں ہوتا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کے اندر بزرگی کا جوہر طفولیت سے ودیعت تھا جس کے باعث یہ جوانی میں ستودہ صفات کا مالک تھا۔ اس قریشی سے جوانی کے اندر کوئی ایسی حرکات سرزد نہیں ہوئیں جو تازہ بیباہوں بلکہ مجسم پارسا اور قابلِ عزت انسان تھا۔ در جوانی توبہ کر دینا شیوہ پیغمبری کا پورا مصداق تھا۔

زمینیں اکثر غیر آباد بنجرا اور جنگلات والی تھیں یا اونچے ٹیلے تھے، آپ نے سب کو ہموار کر کے قابلِ زراعت بنایا یہاں تک کہ وہ بہترین پیداوار والی زمینیں بن گئیں، آپ زراعت کے جملہ امور سے نہایت واقف و ماہر تھے، زمین کی قیمت و قابلیت، موسم و بیج وغیرہ کی شرائط اور خوبیوں سے پوری طرح واقف تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت کی داد دی اور اس آدنی میں اس قدر برکت ہوئی کہ اپنے بہن بھائیوں کی پرورش بھی خاطر خواہ کرنے لگے اور اپنے اخراجات سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خوب دیتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ والدین کے انتقال کے بعد ابتداء میں تو یہ حالت تھی کہ اپنے ایک عزیز کو ۱۰۰ پیسے دیتا تھا اور بڑے گوشت میں اس کے ساتھ حصہ شامل کر کے صبح و شام اس سے گزارا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب فارغ البالی حاصل ہوئی۔

حالات قبل از بیعت | آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ابتداء سے ہی اس عاجز کے شامل حال رہا کہ بیعت ہونے سے پہلے بھی اس

عاجز پر عجیب و غریب حالات وارد ہوتے رہتے تھے اور طبیعت ابتدائے سن شعور سے ہی نیکی کی طرف راغب برائی سے متنفر، خلوت و صلح پسند تھی جب کبھی جنگل سے گذرتا تو فضا

میں اللہ اللہ کی آواز سنائی دیتی جس سے اس عاجز پر جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی اور اللہ اللہ کرتا پھرتا رہتا۔ فرمایا، یہ عاجز ایک جگہ منشی کے کام پر ملازم تھا اکثر کاموں

میں متجاذب اللہ غائبانہ امداد حاصل ہوتی اور عاجز پر عجیب و غریب کیفیات طاری رہتی تھیں چنانچہ ایک روز ایک جگہ ٹلانی وغیرہ کے کام پر حساب لکھنے کے لئے گیا جب وہاں جا کر

بیٹھا تو عجیب کیفیت طاری ہوئی، یہ عاجز مراقب ہو گیا ٹلانی کرنے والوں میں سے ایک شخص نے جو لکھا پڑھا تھا کہا، منشی جی تم کو میندار ہی ہے تم سو جاؤ میں تمہارا کام کئے دیتا ہوں، عاجز نے

کافذات اُس کو دیدیئے اور اسی حالت میں مراقب ہو گیا جب وہ حالت دور ہوئی تو دیکھا کہ کام ختم ہو چکا ہے اب جو حساب لکھا تو بالکل صحیح تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے۔ سچ ہے کہ

کار سازِ با فکرِ کارِ با فکرِ با در کارِ با آزارِ با

دعا لبا یہ واقعہ قبل از بیعت کا ہے، آپ نے بیعت سے پہلے کے اور بھی بہت سے واقعات بفرص اظہار و تحدیثِ نعمائے الہی بیان فرمائے جو اس وقت یاد سے اتر گئے ہیں۔ مؤلف

حق تعالیٰ شانہ، ارشاد فرماتا ہے: اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَىٰ

مَنْ يُنِيبُ اس آیت شریفہ سے وصول الی اللہ یعنی نسبت کی دو قسمیں ظاہر ہوئیں ایک اجتنابی کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشش ہو اور بندہ سالک کو مطلوب بنایا جائے اور

دوسری انابتی کہ ادھر (بندہ کی طرف) سے طلب ہو اور سالک محبت و شیدا بنے۔ ہمارے

حضرت صاحب قدس سرہ کی نسبت اجنبائی تھی اور پیدائش سے ہی اس سعادت کا نور آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا، چنانچہ حضرت حاجی محمد شفیع صاحب و حضرت صوفی محمد احمد صاحب اس واقعہ کے راوی ہیں کہ حضرت والائے فرمایا کہ احمد پور شرقیہ میں ایک مست درویش رہتے تھے جو کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے لیکن جب یہ عاجز مدرسہ جانا تو مجھے پکڑ لیتے اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں ان سے خوف کھانا اور اس خوف کی وجہ سے مدرسہ کا راستہ بدل لینا مگر وہ مجذوب درویش پہلے ہی سے اس عاجز پرستے پر کھڑے رہتے۔ آخر میں نے اس ڈر کی وجہ سے کچھ دن تک مدرسہ جانا چھوڑ دیا۔ ایک روز جبکہ یہ عاجز مکان کی چھت پر کھڑا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ وہی مجذوب مکان کی طرف تشریف لارہے ہیں، مجھے اُن پر بہت غصہ آیا اور چاہا کہ نیچے اتر کر اُن کو ڈانٹوں، جب ان کے پاس گیا تو فرمانے لگے بیٹا میری طرف سے بدگمانی نہ کرو میں تو تمہارے اس نور کو بوسہ دیتا ہوں جس سے بہت سے لوگوں کے سینے منور ہوں گے اور اس کے بعد اس بزرگ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، میں اُن کے یہ الفاظ اس زمانے میں نہیں سمجھ سکا۔

بیعت | نفس نیتواں کشت الازات پیر دامن آں نفس کش محکم بگیر  
چوں تو کردی ذاتِ مرشد را قبول ہم خدا آند ز ذاتش ہم رسول

آپ نے فرمایا کہ بیعت سے قبل اکثر لوگ اس عاجز کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ قریشی تم بہت نیک آدمی ہو تمہارے لئے مناسب ہے کہ کسی بزرگ سے بیعت ہو جاؤ۔ یہ عاجز جواب دیتا کہ میں تو خود ہی فقیر اور درویش ہوں اور نماز روزہ و ذکر و اشغال کرتا رہتا ہوں مجھے بیعت کی کیا ضرورت ہے اور اپنے دل میں یہ سمجھتا کہ بیعت سے جو مقصود ہے وہ تو حاصل ہی ہے، حالات و واردات بھی بہت ہوتے رہتے ہیں اس لئے کسی سے بیعت ہونے کی حاجت نہیں۔



آخر اس عاجز نے بارہا خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کسی بزرگ سے بیعت ہو جاؤ ورنہ  
 تمہاری اس نعمت کو قیام نہیں رہے گا۔ میں نے کہنے والے سے خواب ہی میں عرس کیا کہ پھر میں  
 کس بزرگ کی بیعت کروں؟ اس پر مجھے خواب میں حضرت خواجہ غریب نواز محمد فضل علی قریشی  
 (رحمۃ اللہ علیہ) کی شکل دکھائی گئی۔ چنانچہ اس کے بعد رجب حضرت احمد پور شرقیہ تشریف  
 لائے اور اس عاجز نے زیارت کی تو سمجھ گیا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جن سے بیعت کے لئے اس عاجز  
 کو اشارہ کیا گیا ہے اور شکل دکھائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت موصوف سے بیعت ہو کر سعادت  
 دارین حاصل کی۔

**تاریخ بیعت** | آپ کی دستی بیاض میں مرقوم ہے: "تاریخ بیعت سعید محمد از حضرت  
 پیر دستگیر قیوم زماں حضرت فضل علی شاہ صاحب قریشی ہاشمی مورخہ یکم فروری ۱۹۲۴ء  
 مطابق رجب المرجب ۱۳۴۲ھ"۔

آپ کے پیر و مرشد کے مختصر حالات | آنا کہ خاک را بنظر کیا کنند آیا بود کہ گوشہ چشمے بما کنند۔  
**سلسلہ بیعت** | آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ المشائخ

غریب نواز خواجہ محمد فضل علی شاہ صاحب قریشی عباسی قدس سرہ العزیز سلسلہ نقشبندیہ  
 مجددیہ کے کامل ترین بزرگوں میں سے تھے اور حضرت مولانا سراج الاولیا خواجہ سراج الدین  
 قدس سرہ سے مجاز تھے۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند کہ برندا زرہ یہاں بحرم قافلہ را

خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد شیخ الشیوخ خواجہ محمد عثمان دامانی

سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے یہ یادداشت بعد میں تحریر فرمائی ہے کیونکہ حقیقت میں یکم فروری کو جمعہ  
 ۲۵ جمادی الثانی ۱۳۴۲ھ تھا رجب نہیں تھا۔ مؤلف۔

(موسیٰ زنی شریف) سے بیعت و مجازت تھے اور وہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ دوست محمد قندھاری قدس سرہ سے۔ ان ہر سہ حضرات کے مزارات پر انوار بمقام موسیٰ زنی شریف ضلع ڈیرہ اسماعیل خاں (صوبہ سرحد) واقع ہیں اور انشا اللہ تا قیام قیامت ان کے مزارات مقدس سے انوار طلوع ہو کر تمام عالم پر برستے رہیں گے۔ ان حضرات کے مزارات سے سالکین آج بھی فیضانِ الہی کی عجیب کیفیات حاصل کرتے ہیں۔ گویا کسی زندہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر انوار و کیفیات میں مستور و مستغرق ہیں۔

آنکھ والا ترے جلوے کا تماشا دیکھے      دیدہ کو رکھو کیا آئے نظر کیا دیکھے

حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت حضرت مولانا شاہ احمد سعید مجددی دہلوی ثم المدنی قدس سرہ سے ہے۔ آپ غدر دہلی ۸۵۷ھ کے بعد مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تھے اور آپ کا مزار مقدس جنت البقیع میں حضرت ذی النورین صاحب کجیہ والا پیمان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس کے متصل واقع ہے اور یہ اپنے والد ماجد شاہ ابوسعید مجددی قدس سرہ سے اور وہ مجدد ماہ ثانیہ ثالث و عشر حضرت مولانا شاہ غلام علی قدس سرہ سے اور وہ حضرت خواجہ خواجگان پیر پیراں مرزا منظر جان جاناں قدس سرہ سے بیعت تھے ان کا سلسلہ مشہور ہے مفصل شجرہ شریف اخیر میں درج ہے۔ ان تینوں حضرات کے مزارات مقدسہ خانقاہ منطریہ واقع محلہ چٹلی قبر دہلی میں مرجع خلافت ہیں اور اس خاندان کے سجادہ نشین حضرت شاہ ابوالخیر قدس سرہ کا مزار پر انوار بھی اسی چار دیواری میں واقع ہے اور اب خانقاہ شاہ ابوالخیر کے نام سے مشہور ہے۔

حضرت خواجہ محمد فضل علی شاہ قدس سرہ کا اصلی وطن ضلع میانوالی ہے۔ آپ کے آبا و اجداد عباسی بلغار کے ساتھ سندھ میں اور وہاں سے میانوالی کے ضلع میں آکر آباد

ہو گئے۔ داؤد پوترے ہونے کی وجہ سے اس بستی کا نام داؤد خیل ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہاں سے کالا بلغ میں مستقل رہائش اختیار کی۔ ہاشمی عباسی ہونے کی وجہ سے آپ کا خاندان عوام میں قریشی کے نام سے مشہور تھا اسی لئے لوگ آپ کو قریشی صاحب یا پیر قریشی کہا کرتے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام فرزند علی ہے۔

تقریباً ۱۸۹۶ء میں آپ نے مع اہل و عیال حجاز مقدس کی ہجرت کا ارادہ فرمایا اور مکان وزمین کا اپنا حصہ فروخت کر کے تیاری فرمائی۔ چونکہ اس وقت تک اس علاقہ میں ریل گاڑی نہ آئی تھی اس لئے کراچی تک دریائے سندھ میں سفر کرنے کے لئے ایک کشتی بنوائی گئی۔ اس میں سامان سفر اور اہل و عیال کو لے کر دریا کے راستہ سے روانہ ہو گئے۔ جب جنوبی ضلع مظفر گڑھ کے قریب پہنچے تو مولوی غوث بخش صاحب نے جو حضرت کے پرانے دوست اور ہم سبق تھے اتار لیا اور ایک دو روز قیام کرنے کیلئے اصرار فرمایا اس دوران قیام میں کشتی دریا سے گم ہو گئی اور تلاش کرنے پر بھی نہ ملی۔ اس پر مولوی صاحب نے اس جاگہ مستقل قیام کے لئے مجبور کیا۔ سلوک کی تعلیم بھی ابھی نا تمام تھی اس لئے یہی مناسب سمجھا کہ سرِ دست سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا جائے چنانچہ دریا کے کنارے کوئٹہ رحیم شاہ میں اقامت اختیار کی اور حجتہ ثلثہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ فارغ وقت میں کاشت یا مزدوری کر کے پیٹ بھرتے۔ کچھ عرصہ بعد جب مخلوق کا عام رجوع آپ کی طرف ہو گیا تو راستہ کی صعوبت اور دشواری کے پیش نظر دوستوں اور خادموں کے اصرار پر جنوبی کے قریب ایک جگہ منتخب فرمائی اور رفتہ رفتہ اس کی ملکیت حاصل کر کے فقیر پور کے نام سے وہ جگہ آباد کر لی مگر راستہ کی دشواریوں اور نووارد ہمانوں کی مشکلات کا مسئلہ یہاں بھی حل نہ ہوا ناچار وہ جگہ بھی

چھوڑ دی اور دریائے چناب کے قریب دریائے سندھ کے پرانے بہاؤ میں مظفر گڑھ سے  
 جتوئی کے راستہ پر شہر سلطان سے تقریباً ۳۱/۲ میل کے فاصلہ پر سڑک سے ذرا ہٹ کر نانا سعید  
 کے کماے کچھ زمین خرید لی اور وہاں مسکین پور کے نام سے اپنی بستی آباد کی اور باقی زمین کو جو بنجر و جنگلات  
 تھی صاف کر کے کاشتکاری شروع کر دی۔ بظاہر تو یہ کاشتکاری یا زمینداری کی صورت تھی لیکن حقیقت  
 میں تزکیہ نفس کا واحد درجہ اور تعلیم سلوک کا مدرسہ تھا جس میں سالکین کو مسکنت اور علو ہمتی سکھائی  
 جاتی تھی اور ریاضت اور نفس کشی کی تعلیم دی جاتی تھی خود سب سے پہلے اس میں شریک ہونے اپنے  
 ہاتھ سے ہل چلاتے لنگر کیلئے لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر اٹھا کر لاتے وغیرہ۔ آپ کا ابتدائی زمانہ کالاباغ  
 میں گذرا اور اسی علاقہ میں اردو فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ فارسی زبان پر اچھی دسترس تھی۔  
 (حضرت مولانا عبدالملک صاحب احمد پوری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ  
 سے خود سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ میں نے مولانا قمر الدین صاحب غیرہ سے عربی کی درسی کتابیں پڑھیں  
 اور دورہ حدیث کی تکمیل حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری سے کی ہے مولف)

آپ کا خط بہت عمدہ تھا۔ حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ اکثر اجازت نامے آپ ہی  
 سے لکھواتے اور بعض قلمی کتابوں کی نقلیں بھی کرایا کرتے تھے۔

جوانی ہی میں آپ کی آمد و رفت حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی کی خدمت میں شروع  
 ہو گئی تھی مگر چونکہ حضرت محمد عثمان صاحب اہل زبانہ میں بیعت کم فرمایا کرتے تھے اس لئے  
 جو اس نیت سے آنا اس کو خلیفہ اول حضرت لعل شاہ صاحب یا حضرت سراج الدین صاحب  
 کی طرف بھیجا کرتے تھے اس لئے اول آپ کی بیعت حضرت لعل شاہ دندوی سکسری  
 رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی لیکن ابھی سلوک نا تمام تھا، دائرہ لائقین تک نہیں پہنچے تھے کہ حضرت  
 سید لعل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا۔ قریب المرگ حضرت سید صاحب  
 موصوف نے آپ کو یاد بھی فرمایا تھا مگر آپ تشریف نہ رکھتے تھے۔ سید صاحب کے وصال  
 کے بعد شیخ کی جدائی اور اپنی ناکامی کا سخت رنج تھا۔ حضرت خواجہ سراج الدین صاحب

حضرت لعل شاہؒ کی تعزیت کے لئے دندان (دندہ) تشریف لائے تو آپ کی بیتابی و گریہ و زاری کو دیکھ کر رحم آگیا، شفقت اور مہربانی کا اظہار فرمایا اور موسیٰ زئی شریف حاضر ہونے کا حکم دیا۔ حاضری کے بعد غلامی میں داخل کر کے از سر نو ذکر کی تلقین کی اور تمام سلوک دائرہ لاتعین تک طے کرایا اور جب دہلی بغرض علاج تشریف لے گئے تو آپ کو خط بھیج کر دہلی بلا کر اجازت نامہ سے سرفراز فرمایا۔ ابتداء میں خلافت پچاس آدمیوں تک محدود تھی، جب یہ تعداد پوری ہو گئی تو اجازت مطلقہ مرحمت فرمائی۔

آپ زمانہ سلوک میں اپنے پیر صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضری کے لئے گھر سے پیادہ پاروانہ ہوتے اور اس ڈیڑھ دو سو میل کے سفر میں چند روٹیاں اور چند سیر بھنے ہوئے چنے اپنے ساتھ لیتے اور اسی پر گزارہ کرتے چلے جاتے مگر کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں فرماتے تھے۔ ایک روز اکل حلال اور طیب غذا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں زمانہ سلوک میں گھر سے دو روٹیاں پکوا کر قبلہ عالم حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانا اور دو ماہ تک اسی پر گزارا کرتا مگر مشکوک غذا نہ کھانا۔ آپ پاک زمین پر بیٹھ جاتے اور کپڑا وغیرہ نہ بچھاتے اور نہ اس تکلف کو پسند فرماتے۔ ایک روز خلفار کو جمع کر کے فرمایا کہ میں نم میں اس شخص پر سخت ناراض ہوں گا جو اپنے مریدوں اور عقیدتمندوں سے اشارہ یا کنایہ کوئی چیز طلب کرے یا ان سے طمع کی امید رکھے، جو شخص ایسا کرے گا اس سے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کھیت میں ہل چلاتے ہوئے اسم ذات کا ذکر بھی فرماتے جاتے تھے اور اس کا شمار تسبیح پر کرتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ کام کے ختم پر ذکر کا شمارا آستی ہزار ہوا۔ فرماتے ہم تو درویشوں کے نوکر ہیں مزدوری کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک درویش کا کرتہ پھٹا ہوا دیکھا فوراً اپنا کرتہ اتار کر اس کو پہنا دیا۔ ایک روز موجودہ زمانے

گی بے ذوقی اور کم ہمتی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ عاجز پیر صاحب کی خدمت میں حاضری گیلے  
دواڑھانی سو میل پیدل سفر طے کرتا تھا اور ایک ایک مہینہ دو چار سیردانوں پر قناعت  
کرتا تھا ایک دفعہ صرف دو آنے تھے تو گاجروں اور چنوں پر گزارہ کیا اور دن کو روزے  
رکھے پھر بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔

سفر میں یہ چیزیں ساتھ رکھا کرتے تھے: چاقو، استرا، مقراض، کٹورہ، لوٹا، عصا  
سرمہ دانی، کنگھا، مسواک، سوئی دھاگا، رومال، عطر، موحینہ، دیاسلانی، توا، چٹا، پنسل  
کاغذ، ضروری کپڑے۔ سخت سردیوں میں ایک کڑتے جس کا کلا کھلا ہوتا رہتا نہ لگاتے اور  
معمولی چادر زیب تن ہوتی تھی۔ کبیل وغیرہ بہت کم استعمال فرمایا کرتے تھے۔ عمامہ جس کے  
نیچے ٹوپی ہوتی تھی باندھتے اور نماز کے وقت امام کو باخصوص عمامہ باندھنے کی ہدایت فرمایا  
کرتے تھے۔ ہر امیر غریب کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جاتا۔ لشکر خانہ میں جو کچھ تیار ہوتا مہانوں  
کے آگے رکھ دیا جاتا البتہ کبھی کبھی علماء کی خاطر ملحوظ رکھتے اور لشکر خانہ کے علاوہ گھر میں  
کوئی چیز ان معزز مہانوں کے لئے دی جاتی یا بیٹنے کے لئے ان کو چار پائی عنایت فرمائی  
جاتی تھی۔ زمانہ قیام میں روزانہ صبح و شام بیس پچیس مہانوں سے کم نہ ہوتے تھے اور بعض  
مہان تو ہفتوں ٹھہرتے تھے مگر کبھی مہانوں کی کثرت اور ان کی آمد سے نہ گھبراتے اور  
نہ ٹھہرنے والوں سے اشارۃً یا کتایۃً اگتاتے۔ لوگ اپنی خوشی سے آنے اور اپنی خوشی سے

پہنچے جاتے تھے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔

ہر کہ خواہد گو سیا و ہر کہ خواہد گو برو دار و گیر حاجب دربان دریں درگاہ نیست

آپ نے اخیر عمر تک تبلیغ اسلام و سلسلہ کے لئے بہت زیادہ سفر کئے ہیں، آپ کے

رشد و ہدایت کا سلسلہ آپ کے اور آپ کے خلفاء کے ذریعہ سے دور دراز ملکوں میں پھیلا

اور پھیل رہا ہے اور انشاء اللہ العزیزاً قیام قیامت پھینٹا رہے گا۔ آپ نے تین نکلج کئے۔ پہلا نکلج کالا بارغ میں ہی کیا تھا ان سے چار لڑکیاں اور دو لڑکے پیدا ہوئے، لڑکے جوان ہو کر فوت ہو گئے۔ یہ بیوی بڑی صابرہ اور مہانوں کی خدمت گزار تھیں۔ ابتدا میں حضرت پر سخت افلاس تھا لیکن آپ کی ان اہلیہ محترمہ نے کبھی ناداری کی شکایت نہیں کی۔ افلاس کی تمام صعوبتیں اور مہانوں کی خدمت گزاری کی تکلیفیں خندہ پیشانی سے برداشت کیں۔ حضرت موصوف اکثر اوقات ان کی خدمت گزاری اور صبر و ضبط کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ لنگر کے لئے آٹا پینا روٹی پکانا اور اسی قسم کی دیگر خدمات میں دن رات لگی رہتیں۔

اس رفیقہ حیات کے انتقال کے بعد لڑکیوں کی تربیت اور مہانوں کی خدمت گزاری کے لئے حضرت نے قریشیوں ہی میں دوسرا عقد کر لیا ان کے بطن سے تین لڑکے اور دو لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ان بچوں کو عالم دین بنانے کا آپ کو بہت شوق تھا اکثر ان کے حق میں نیک ہونے کی دعا کرایا کرتے تھے اور جماعت کو ان کی دینی تعلیم اور نیکی کی وصیت فرمایا کرتے تھے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا چنانچہ آپ کے وصال کے کچھ عرصہ بعد یہ تینوں بچے بچے بعد دیگرے خدا کو پیارے ہوئے قضائے الہی میں کسی کو چارہ نہیں۔

مادر چہ خیالیم و فلک در چہ خیال در کار خداوند کسے را چہ مجال  
 اخیر زمانہ میں آپ کے مرید و خلیفہ حضرت مولانا عبد الغفار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے مہانوں کی خدمت کے لئے اپنی ایک صاحبزادی کو از خود اصرار کے ساتھ آپ کے عقد میں دیدیا اور آپ نے اس کو قبول فرمایا تھا۔

دہلی کے آخری تبلیغی سفر میں آپ کو فالج ہو گیا کئی دن علاج کرایا لیکن آرام

آیا، بیماری کی حالت میں آپ کو دہلی سے مسیحا پورے آئے۔ شعبان المعظم ۱۳۵۲ھ  
 کا مہینہ تھا تقریباً نصف ماہ بیمار رہ کر ۸۴ برس کی عمر میں رمضان المبارک کی  
 چاندرات کو جمعرات کے دن اس جہانِ فانی سے راہی عالم جاودانی ہوئے اور خادموں  
 کو یتیم و لاوارث چھوڑ گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار مقدس مسکین پور میں  
 واقع ہے نور اللہ تعالیٰ مرقده وبرد مضجعه وجعل الجنة الفردوس ماواہ۔

آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی قیامگاہ پر ایک سالانہ تبلیغی جلسہ کی طرح ڈالی  
 تھی جو پہلے فقیر پور میں منعقد ہوتا رہا پھر جب آپ نے مسکین پور آباد کر کے یہاں رہائش  
 اختیار کی تو یہ سالانہ جلسہ مسکین پور میں منعقد ہونے لگا۔ اس میں آپ کے مریدین  
 و خلفا اور خلفاء کے مریدین اور دیگر اہل ذوق و شوق حضرات شامل ہو کر علوم ظاہر  
 و باطنی کی زبانی و عملی تعلیم حاصل کرتے اور آپ کے فیوض و برکات جامعہ حاصل کرتے  
 رہتے تھے۔ بفضلہ تعالیٰ آپ کے وصال کے بعد اب بھی یہ جلسہ حسب دستور مقام  
 مذکور پر ۲۲ بیساکھ کو منعقد ہوتا ہے جس میں علماء کرام کے مواعظِ احسن، اذکار و اشغال  
 کی مجلس اور ختم قرآن پاک کر کے ایصالِ ثواب بار و اح حضرات سلسلہ و دعا خوانی  
 وغیرہ امور پر عمل کیا جاتا ہے اور کوئی امر خلاف شرع وہاں نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک  
 مسجد اور مدرسہ بھی بنایا اور لنگر بھی قائم کیا تھا اور کچھ زمین لنگر اور مدرسہ و مسجد کے  
 نام وقف کر دی تھی جو اب تک بدستور قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فیض کو تاقیام قیامت

سلسلہ۔ سالانہ جلسہ حضرت قدس سرہ کی حیات مبارکہ میں اسی تاریخ کو ہوتا تھا آپ کے وصال کے  
 بعد بھی کئی سال تک اسی تاریخ کو ہوتا رہا لیکن اب چند سال سے بعض مصلحتوں کی بنا پر  
 ہر سال خلفاء کے مشورہ سے ماہ و تاریخ و دن کا تعین ہو کر تمام احباب کو اطلاع دی جاتی ہے



جہاں رکھ اور پیش از پیش ترقی و مقبولیت مرحمت فرمائے۔ آمین  
 آپ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے اجل مشائخ میں سے ہوتے ہیں اور ممالک اسلام میں  
 ہیں آپ کا فیضان عام ہے اور آپ کے خلفاء کرام اس خدمت کو بدستور انجام دے رہے  
 ہیں اور تمام ممالک کے بڑے بڑے علماء و صلحا آپ کے خلفاء سے خصوصاً حضرت مولانا عبد  
 صاحب عباسی ہاجر مدنی سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ ہرزادہ فرزد۔

رملخص از حیات فضلیہ مؤانہ مولانا محمد مسلم دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ

**آداب محبت شیخ** | تریبہ باپ افعال سے مشتق ہے جس کی ایک خاصیت سلب  
 مادہ اشتقاق ہے لہذا تریبہ بمعنی ہیں مسلوب الارادہ یعنی  
 جو ہر امر میں اپنی باگ ڈور اپنے شیخ کو دے کر اپنے ذاتی ارادہ سے خالی ہو چکا ہو۔ ہمارے  
 حضرت صاحب موصوف نے بیعت ہو کر اس مضمون کا نعتی ادا کر دیا اور تمام عمر اسی  
 کوشش میں گزار دی کہ اپنے جملہ امور دینی و دنیاوی میں اپنے شیخ کی مرضی اور خواہش  
 کے مطابق عمل کیا جائے کیونکہ شیخ کامل منبع شریعت کا اتباع، عین اتباع شریعت اور  
 اس کی مرضی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی میں ہوتی ہے  
 اسی لئے حافظ شیرازی رحمہ اللہ نے کہا ہے ۵

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیرمغان گوید کہ سالک بخیر نہ بود ز راہ و رسم منزہا  
 پس اپنے شیخ کے ساتھ روحانی تعلق اور رابطہ محبت جس قدر قوی اور زیادہ ہوگا مرید کو  
 اسی قدر کمالات باطنی اور کیفیات حسنہ و انوار و تجلیات کا ورود ہوگا۔ حدیث المرء  
 مع من احب (آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرے) میں اسی رمز کو بیان  
 فرمایا ہے۔ باقی اذکار و اشغال اور تعلیم کردہ اوراد و وظائف اس کے معاون و مددگار

ہیں اور ان اعمال و اواراد و مجاہدہ سے (جو اختیاری اور کسی چیز سے) حُب و انس اور رابطہ  
 شیخ (جو غیر اختیاری اور محض وہی چیز سے) حاصل ہونے میں سہولت اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔  
 ہمارے حضرت صاحب موصوف کو اللہ تعالیٰ نے رابطہ شیخ بدرجہ غایت مرحمت فرمایا تھا  
 اور فرمودہ اشغال و اذکار کی پابندی نے اس کو بہت ہی زیادہ ترقی بخشی اور حقیقت محمدیہ  
 کے فیوض و برکات سے سرفراز فرما کر انوار محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے ممتاز و مشرف  
 فرمایا تھا: ذَلِكْ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

اسی محبت و رابطہ شیخ کا ثمرہ ہے کہ آپ نے آپ اپنے شیخ کی اس قدر رعایت کی  
 کہ کم بولوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ کبھی اپنی آواز کو اپنے شیخ کی آواز پر بلند نہیں کیا اور حضور  
 و غیبت میں کبھی حد ادب سے تجاوز نہیں کیا۔ بولنے کے موقع پر بولتے اور بات سنجیدہ و ہمیدہ  
 گفتگو کرتے اور خاموشی کے مواقع میں خاموش رہتے تھے بلا وجہ زبان چلاتے رہنے سے  
 ہمیشہ پرہیز رکھا۔ تعمیلِ قرآن شیخ میں سبقت کرتے تھے اور اپنے تمام پیر بھائیوں اور شیخ کے  
 جملہ متعلقین کا نہایت ادب و احترام کرتے تھے، رابطہ شیخ میں کسی معائرت کو پسند نہیں فرماتے  
 تھے۔ آپ کے شیخ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی بہت قدر و عزت فرماتے  
 تھے اور مجلس مشاورت میں آپ کو اکثر شامل فرماتے تھے حتیٰ کہ اگر کسی دور دراز مقام پر بھی ہوتے  
 تو بذریعہ خط بلائے جاتے چنانچہ ایک دفعہ دہلی سے اسی مضمون کا خط لکھ کر بلوایا تھا کہ کسی  
 مشورہ کے لئے آپ کی ضرورت ہے جلدی پہنچ جاؤ۔

ہمارے حضرت صاحب نے اپنے حصہ کی جدی زمین میں سے ایک معتد بہ حصہ حضرت  
 غریب نواز قدس سرہ کی خانقاہ کو عنایت فرمایا اور اس کا باقاعدہ انتقال حضرت موصوف کے  
 نام کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ نقدی اور متاع وغیرہ سے اکثر و بیشتر خانقاہ شریف کی خدمت

بجالاتے رہتے تھے، اور اس بات سے بہت خائف رہتے تھے کہ کہیں شیخ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں اور جب حضرت شیخ کا گرامی نامہ آپ کو موصول ہوتا تو پڑھنے سے پہلے آپ کا رنگ فق ہو جاتا کہ مبادا اس میں شیخ کی ناراضگی مذکور ہو اور جب پڑھ لیتے اور شیخ کی خوشنودی و دعائیں معلوم کر لیتے تو مطمئن ہو جاتے تھے۔

جناب مولانا گوہانوی مدظلہ العالی سے منقول ہے کہ آپ کی جماعت کے ایک صاحب کے دوست ایک مولوی صاحب تھے جو تصوف اور اولیاء اللہ کے گروہ سے مناسبت نہیں رکھتے تھے انھوں نے اس شخص کو بہکا دیا کہ ہندوستان میں کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہندوستان میں انگریزوں (غیر مسلموں) کی حکومت ہے اس حکومت میں حلال روزی نہیں ملتی جس کی وجہ سے یہاں ولی نہیں ہو سکتا اس شخص نے یہ بات بعینہ حضرت والا کی خدمت میں لکھ بھیجی جس کے پڑھنے سے حضرت کو بہت رنج ہوا اور جواب نہیں دیا۔ بعد ازاں جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو وہی شخص حاضر ہوا اور کچھ پھل خدمت میں پیش کئے۔ حضرت نے پہلے کچھ عذر فرمایا اور کہا کہ میں پھل کھانے کے قابل نہیں ہوں کیونکہ بیمار رہتا ہوں۔ جب اس کا اصرار حد سے بڑھا تو فرمایا کہ بھئی پھل کسی ولی کو دینے چاہئیں میں تو ولی نہیں ہوں البتہ یہ تمہارے فہم کی غلطی ہے کہ تم نے میرے شیخ کو بھی ولی نہیں سمجھا اگر میرے لئے ایسا خیال کرتے تو درست تھا مگر میرے شیخ تو مجددِ وقت ہیں پھر تم نے ایسا کیوں لکھا۔ وہ شخص انتہائی نادم و پشیمان ہوا اور معافی مانگی چنانچہ آپ نے معاف فرما کر دوبارہ بیت فرمایا۔

شربت الحب کا سا بعد کا میں . فما نفع الشراب ولا رویت

(میں محبت کی شراب کے پیالے کے بعد دیگرے پی گیا پس نہ شراب ہی ختم ہوئی اور نہ میں ہی سیراب ہوا)

جب آپ اپنے پیر بھائیوں حضرت مولانا عبدالمالک صاحب مدظلہ العالی حضرت مولانا

نذیر احمد صاحب مرحوم حضرت مولانا بشیر احمد صاحب مرحوم وغیرہ کے ہمراہ اپنے پیرو مشد  
خواجہ غریب نواز قدس سرہ کی خدمت میں احمد پور شرقیہ سے فقیر پور وغیرہ مقامات پر سیدوں  
کے راستہ جایا کرتے تھے تو اس زمانہ میں راستے سیدھے نہیں تھے یعنی سڑک وغیرہ کچھ نہیں تھی  
کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ چلتے چلتے راستہ بھول جاتے اور کئی کئی میل کا چکر پڑ جاتا پاؤں زخمی ہو جاتے  
شدت سے بھوک و پیاس لاحق ہو جاتی مگر اس سفر میں روح کو عجیب و غریب کیف و سرور  
حاصل ہوتا ہے

نظر کو کیا خبر پڑے کے اندر دل لگی کیا ہے کوئی آزاد کیا جانے کسی دل کی لگی کیا ہے  
آپ ذکر اذکار کی بہت کثرت کرنے لگے حتی کہ گھر کے لوگ دیوانہ سمجھنے لگے۔  
(حدیث شریف میں ہے: لا یؤمن احدکم حتی یقال انه مجنون یعنی تم میں سے کوئی  
شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوتا یہاں تک کہ لوگ اس کو دیوانہ کہنے لگیں)۔

صاحبزادہ محمد صادق صاحب مدظلہ نے سنایا کہ محلہ سرور شاہ میں ایک سید زادی  
بہت ذاکرہ رہتی تھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے خوابات اور حال احوال وغیرہ  
حضرت کو سناتی رہتی تھی۔ جب حضرت نے خواجہ غریب نواز قدس سرہ سے بیعت کر لی اور  
تسبیح کھٹکھٹاتے تو مانی صاحبہ اور گھر والوں نے سمجھا کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، اس سیدانی صاحبہ  
نے سنا تو کہا کہ شور یہیں تسبیح بجا کر نکالو اور یہ شور یہ پلاؤ ٹھیک ہو جائیں گے گھر والوں نے  
ایسا ہی کیا کیونکہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ذکر کا طریقہ ہے اور صحیح و جائز ہے۔ بات دراصل  
یہ ہے کہ بہت سے لوگ باوجود نیک اور ذاکر ہونے کے صحیح طریقے سے ناواقف ہوتے ہیں  
اور اس طریقے کو جس کو وہ نہ جانتے ہوں غلط کہنے لگتے ہیں اور دوسرے ذاکرین کو دیوانہ  
سمجھتے ہیں، واللہ اعلم۔

اجازت بیعت و نقل سند | آپ کی سند کو دیکھنے سے معلوم ہوا کہ آپ کو

شوال ۱۳۲۴ ہجری بوقت عشا فقیر پور شریف ضلع مظفر گڑھ میں اجازت ہوئی۔ سند اجازت نامہ مطبوعہ فارم پر حضرت غریب نواز قدس سرہ کی اپنے قلم سے خانہ پری کی ہوئی اور دستخط ثبت فرمائے ہوئے ہیں اور مہر بھی ثبت کی ہوئی ہے اس کی نقل یہ ہے:-

اجازت نامہ حضرات نقشبندیہ مجددیہ عثمانیہ

یا ایھا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلة وجاهدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون  
 (ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کیلئے ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو یقیناً تم کا بنا ہوگا)  
 المجاہد من جاهد نفسہ فطاعة اللہ (مجاہد وہ ہے جو خدا کی فرمانبرداری میں اپنے نفس کا مقابلہ کرے)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی جیبہ  
 سید المرسلین والذالطاہرین واصحابہ الطیبین اجمعین الی یوم الدین الخ اما بعد  
 می گوید فقیر حقیر لاشی محمد فضل علی قریشی ہاشمی عباسی کہ اس عاجز خاکسار ذرہ بے مقدار  
 درخاندان نقشبندیہ مجددیہ عثمانیہ داخل شدہ علم سلوک نام دو بارہ تا دائرہ لائعین از حضرت  
 قبلہ عالم حاجی حافظ مولانا مولوی محمد سراج الدین صاحب دامانی حاصل نموده و شرف اجازت  
 از آنحضرت قبلہ یافتہ، برائے تحقیق سلسلہ شریف موجود است، پس ازین عاجز لاشی برادر  
 طریقت جناب مولانا صاحب شاہ صاحب محمد سعید شاہ صاحب ولد محمد صادق شاہ صاحب  
 قریشی ہاشمی سکنا احمد پور شرقیہ علم سلوک و جذب و حالات و واردات صحیحہ حاصل نموده  
 برائے تعلیم اسم ذات و علم سلوک برائے طالبان مولیٰ و برائے خدمت اسلام بموجب  
 ضرورت اجازت داده شد طالبان راہ حق جل و علی را مناسب است کہ زود فیض ظاہری

وباطنی آریں شیخ کامل حاصل نمایند بیچ خطرہ و شک در دل نیارند کہ جناب خلیفہ صاحب  
موصوف بے تدنی اللہ خدمت اسلام و برادران اسلام کند فقط

تاریخ ۲۳ رماہ شوال ۱۳۲۴ ہجری المبارک ہر  
محلہ فضل علی قریشی تعلیم خود  
مقام فقیر پور شریف  
یوم  
وقت

واللہ ذو فضل  
علی المؤمنین

المجید

خاکسار ذرہ بمقدار محمد فضل علی شاہ قریشی ہاشمی عباسی از فقیر پور شریف (زنگین پریں ہٹی)

دوسرے سلاسل میں اجازت  
و ایسے تو فائدہ ان نقشبندیہ مجددیہ کی بیعت و اجازت  
تمام سلسلوں کی بیعت اور اجازت پر مشتمل ہے جیسا کہ

مجدد صاحب کے سلسلوں کی تفصیل سے معلوم ہو سکتا ہے پھر بھی ہمارے حضرت صاحب نے  
نقشبندیہ مجددیہ طریقہ کے عناوین چشتیہ، قادریہ، مہروردیہ اور بنوریہ طریقہ کے اسباق  
حاصل کئے اور یہ خود حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس پر حاضر ہو کر حضرت  
کی روحانیت سے فیض حاصل کر کے ان کی تکمیل کی۔ چنانچہ حضرت نے اس کی تفصیل بیان فرمائی  
جو پوری طرح نو ماہ نہیں بنتے اس قدر بار ہے کہ فرمایا ایک جگہ سے اس عاجز کو چشتیہ  
سلسلہ کے اسباق صحیح طور پر حاصل ہوئے اور ایک جگہ سے قادریہ سلسلہ کے اور حضرت  
مجدد صاحب کے مزار مقدس پر ایک مجذوب رہتا تھا اس نے مجھ سے قادریہ سلسلہ کے  
اسباق حاصل کر کے بنوریہ کے اسباق جو اس کے پاس تھریں مجھے دیئے۔ عاجز نے حضرت  
مجدد صاحب کی خدمت میں روضہ اقدس پر حاضر ہو کر روحانی زیارت کے وقت ان  
سلاسل کے اسباق کی تکمیل کے لئے درخواست کی، آپ نے درخواست منظور فرمائی اور  
ان تمام سلاسل کے اسباق کی تکمیل اس عاجز کو کرا دی۔ یہ عاجز تمام رات حضرت مجدد صاحب

کی خدمت میں بیٹھتا اور اسباق کا ورد کرتا رہتا۔ اس طرح چند دن میں حضرت کی روحانت  
سے یکے بعد دیگرے تمام اسباق طے کر لئے۔ یہ یاد نہیں کہ تمام سلاسل کی تکمیل ایک ہی  
موقع پر کرائی یا بعض کی کسی دوسرے موقع پر یا کسی دوسرے صاحب مزار سے کی۔  
واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت مولانا گوہار نوری مدظلہ العالی سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت صاحب نے  
فرمایا میں نے چشتیہ خاندان کے اسباق اور ان کی اجازت ایک مزار والے حضرت سے حاصل  
کی ہے۔ نیز انہی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ حجہ کو چاروں خاندان میں اجازت ہے  
مگر خواجہ خواجگان پیر پیراں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا کہ بس  
نقشبندیہ ہی کو ترقی دو اس دن سے رک گیا ہوں۔ آپ نے بعض مریدوں کو قادریہ وغیرہ  
میں بھی بیعت کیا اور اپنے بعض خلفا کو بعد تکمیل سلوک نقشبندیہ مجددیہ دوسرے بعض  
سلاسل کی بھی تکمیل کرائی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

تبلیغ سلسلہ و سفر دہلی | جب آپ کے پیرو مرشد حضرت خواجہ خواجگان خواجہ  
محمد فضل علی شاہ قدس سرہ نے آپ کو اجازت بیعت  
سلسلہ سے مشرف فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ ہندوستان جاؤ اور دہلی اور اس کے مضافات  
میں تبلیغ کرو۔ فرمایا کہ جب حضرت موصوف نے اس عاجز کو اجازت و خلافت مرحمت  
فرمائی تو لوگ مبارکباد دیتے تھے اور یہ عاجز و ناتھاکہ اتنا باریعظیم جو میرے کندھوں پر  
ڈالا جا رہا ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں مجھ سے یہ فرض کس طرح ادا ہوگا۔ آپ کبھی گھر سے  
باہر زیادہ طویل سفر پر شریف نہیں لے گئے تھے اس لئے گھبراتے رہے۔ لیکن حضرت کے  
تاکید فرمانے پر کھانے کی کچھ خشک چیزیں مثلاً ستو، چنے، چھوٹی چھوٹی میٹھی روٹیاں

لیکر دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ دہلی پہنچ کر پریشان تھے کہ کدھر جاؤں اور کہاں ٹھہروں  
 کوئی واقفیت نہیں تھی حضرت کی دعا و برکت سے راستہ میں ایک شخص مولانا عبدالخالق  
 صاحب سے جو حضرت کے پیر بھائی اور ہم وطن بھی تھے ملاقات ہو گئی جو ٹیپا محل کٹرہ  
 گوکل شاہ کی مسجد میں مقیم تھے وہ حضرت کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مسجد کٹرہ مذکور میں حضرت نے  
 دو روز قیام فرمایا پھر اللہ پاک نے ایک نیا سبب بنایا یعنی محلہ نواب گنج، گڑ کا میل، کا  
 ایک شخص آیا اس نے حضرت سے ذکر سیکھا کیفیت حاصل ہوئی تو اس نے اپنے محلہ میں چلنے  
 کے لئے اصرار کیا چنانچہ آپ اس کے ہمراہ محلہ نواب گنج میں تشریف لے گئے وہاں مسجد سبیل  
 میں ٹھہرنے کا انتظام ہو گیا جہاں حضرت مولانا عبدالغفور (مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز) اس  
 زمانہ میں پیش امام تھے ان کے بہت سے پٹھان شاگرد ان کے پاس پڑھنے کے لئے آتے اور  
 کچھ دہیں رہتے تھے۔ مولانا صاحب موصوف ان دنوں مدرسہ امینیہ میں پڑھاتے تھے  
 دس بارہ شخصوں نے حضرت صاحب سے ذکر سیکھا۔ مرزا عبدالرحیم صاحب (حضرت کے  
 خادم خاص) بھی ان میں شامل تھے اور یہ غالباً ان میں پہلے شخص ہیں ان سب کو جوش  
 ہونے لگا لوگوں میں چرچا ہوا۔ رات کو عشا کی نماز کے بعد مراقبہ کرتے تو بڑی دیر تک ان  
 لوگوں پر جذب طاری رہتا ایک دوسرے سے لپٹتے اور اللہ اللہ پکارتے اور جب تک ان کا  
 جوش ٹھنڈا نہ ہو جاتا حضرت بھی آرام نہ فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا  
 مانگتے رہتے۔ مرزا عبدالرحیم صاحب نے بنایا کہ ایک روز ایک شخص ہاتھ میں ڈنڈا لیکر غصہ  
 کے ساتھ آپ کو برا بھلا کہتا ہوا مارنے کے لئے آیا اور کہنے لگا کہ ہم تو دن بھر کام کرتے ہیں  
 رات کو یہ لوگ سونے نہیں دیتے انھوں نے کیا سار رکھا ہے کیوں چلاتے ہیں ابھی وہ آپ  
 سے کچھ دور تھا کہ آپ نے دعا کی الہی اگر یہ میرے ڈنڈا لگا دے تو حضور کی سنت ادا



ہو جائے گی مگر خدا کی شان کہ وہ قریب نہیں گیا اور نہ مارا بلکہ وہیں سے ٹھنڈا ہو کر واپس اپنے گھر چلا گیا۔ واللہ اعلم۔

حضرت مولانا عبدالغفور صاحب ہا جردنی مرحوم کے شاگردوں میں ایک شخص امیر اللہ خاں المعروف بہ محمد عمر اکثر حضرت کے پاس آ بیٹھتا اور اعتراض کرتا رہتا کہ یہ سب

مولوی امیر اللہ خان صاحب کی بیعت کا حال

ڈھونگ ہے کبھی کہتا کہ اس کے پاس جن ہے جو دوسروں کو چڑھا دیتا ہے کبھی کہتا کہ مجھ پر ایسی حالت ہو تو جانوں میں تو سورہ جن کا عامل ہوں مجھ پر جن کا اثر نہیں ہو سکتا، کبھی کہتا کہ میں منطقی دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ غلط اور ڈھونگ ہی وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ زیادہ اصرار کرتا تو حضرت فرمادیتے مولوی صاحب یہ تو خدا کی دین ہے

میرے اختیار کی چیز نہیں اور ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ ایک روز جب اس نے بہت اصرار کیا تو حضرت نے فرمادیا کہ جب میں اکیلا بیٹھا ہوں اس وقت آپ آجائیں مولوی محمد عمر صاحب مذکور موقع کی تاک میں تھے بروز عید الاضحیٰ بعد نماز عید تقریباً گیارہ بجے آپ مسجد بسیل کے چھوٹے حجرے میں تنہائی کے لئے تشریف لے گئے اور آپ پر اس وقت مقام فتانی الرسول کی حالت طاری تھی مولوی محمد عمر صاحب جو موقع کے منتظر تھے حضرت کو اکیلا دیکھ کر آئے اور کٹدی کھٹکھٹائی، سرزاعبدالرحیم صاحب نے جوان دنوں اکثر حضرت کی خدمت میں رہتے تھے اور اس وقت باہر بیٹھے ہوئے تھے منع بھی کیا مگر وہ نہ مانے حضرت نے کٹدی کھول دی اور محمد عمر صاحب کو اندر لیکر کھپر کٹدی لگادی۔ انھوں نے حضرت سے کہا کہ اب آپ اکیلے بیٹھے ہیں اپنا وعدہ پورا کریں حضرت نے بٹھا کر توجہ دی اسی وقت (یعنی اندر جانے کے تین چار منٹ کے اندر اندر) مولوی محمد عمر صاحب کو اسقدر جوش ہوا کہ چھت کی طرف

اُچھلتے اور کودتے تھے حضرت کنڈی کھول کر باہر تشریف لائے اور باہر سے کنڈی لگادی اور مولوی محمد عمر صاحب جوش کی حالت میں اندر اچھلتے کودتے رہے۔ لوگوں کا جم غفیر مسجد کے اندر اور باہر جمع ہو گیا اور حیران تھے کہ ان کو کیا ہو گیا۔ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب وغیر ہم بھی بہت حیران ہوئے اور حضرت پر اعتراضات شروع کر دیئے حضرت خاموش بیٹھے رہے اور آخر ترمی سے سمجھایا کہ مولوی صاحب بزرگوں کے سلاسل میں ایسا ہوتا آیا ہے صحابہ کرام کو بھی جذب ہوتا تھا یہ کوئی نئی اور قابل اعتراض چیز نہیں ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ فکر نہ کریں۔

الغرض جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت کو بہت تشویش ہوئی کہ اگر اس پر ایسی ہی مستی رہی اور اس نے نماز نہ پڑھی تو لوگ اور بھی اعتراض کریں گے چنانچہ جب حضرت وضو کرنے بیٹھے تو دیر تک کسی حالت میں مستغرق رہے اور ہاتھ ہی دھوتے رہے یا صرف کٹی کرتے اور ہاتھوں پر ہی پانی ڈالتے رہے۔ جب یہ حالت دور ہوئی تو عمر زابد الرحیم صاحب کو جو اس وقت پاس تھے فرمایا کہ اللہ مالک ہے تم کنڈی کھول دو اور محمد عمر سے کہو کہ نماز پڑھے۔ وہ گئے اور کنڈی کھول کر ان کو نماز پڑھنے کے لئے کہا، مولوی محمد عمر صاحب پرسکون انداز میں باہر آئے وضو کیا نماز پڑھی مگر نماز کے بعد پھر جوش ہو گیا اور منبر پر چڑھ کر تقریر کرنے لگے جس میں حضرت کی بہت مدح و تعریف کی اور کہا کہ مولوی عبدالغفور انابڑا شیخ طریقت یہاں موجود ہے لیکن تو نے کچھ نہیں سمجھا وغیرہ وغیرہ حتیٰ کہ کہنے لگے یہ میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے آؤ مصافحہ کر لو وغیرہ (او کہا قال) اس پر لوگوں میں بہت غصہ اور نفرت پھیل گئی اور حضرت پر اعتراضات شروع کر دیئے حضرت صاحب اس وقت مسجد سبیل کے بڑے حجرے میں تشریف فرما تھے حضرت مولانا عبدالغفور صاحب نے

وہاں جا کر حضرت پر بہت اعتراضات کئے کہ یہ کہاں جائز ہے یہ کیا حرکت ہے یہ ہمارے مولوی کو کیا کر دیا ہے، قرآن اور حدیث میں تو ایسا نہیں آیا وغیرہ وغیرہ۔ وہ بہت کچھ کہتے رہے اور حضرت خاموش رہے آخر حضرت نے فرمایا کہ مولانا یہ باتیں بزرگوں کے سلسلوں میں ہوتی رہی ہیں اور صحابہ کرام میں بھی یہ باتیں پائی جاتی تھیں آپ نے صحیح کو پڑھا لیکن سمجھا نہیں، آپ بخاری و مسلم شریف کو دیکھ لیتے اور نہیں تو ترمذی شریف کو ہی دیکھ لیتے کہ فلاں صفحہ پر کیا لکھا ہے۔ مولانا گئے اور ترمذی شریف لا کر وہی صفحہ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئے کہ جذب و کشف کی تائید کی حدیثیں اسی صفحہ پر موجود ہیں سب کے سامنے کہنے لگے کہ بھئی حدیثوں میں یہ باتیں ثابت تو ہیں۔

اسی موقع پر حضرت صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر اس شہر میں کوئی بزرگ ہوتا تو اس (محمد عمر) کے ہاتھ چومنا اور آپ دیکھ لیں گے کہ اگر کوئی بزرگ ہے تو ایسا کرے گا۔ یہ واقعہ غالباً عصر کی نماز کے بعد کا ہے اس کے بعد دوسرے روز جبکہ مرزا عبد الرحیم صاحب حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفید ریش بزرگ سر پر سبز عمامہ اور کمر میں سفید ٹپکا باندھے شرع کے مطابق شکل و لباس والے تشریف لائے اور مجھ سے پوچھا کہ یہاں جو بزرگ ٹھہرا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ میں نے حجرے کی طرف اشارہ کر کے بتایا اور اسی اشارے میں مولوی محمد عمر صاحب حجرے سے نکلے اس بزرگ نے ان کو غور سے دیکھا اور ہاتھ چومے اور اس کے بعد حضرت کی طرف بڑھ کر سلام کر کے فرمایا کہ فیضان اس قدر عام اور سستا کر دیا ہے یہ فیض جو پہلے پرانے بزرگوں کے ہاں بڑی مشکل سے حاصل ہوتا تھا آپ نے اس قدر ارزاں کر رکھا ہے آج کل لوگ قدر نہیں جانتے وغیرہ (ادکما قال) حضرت مولانا عبد الغفور صاحب و مولانا عبد القیوم صاحب مولانا عبد الرشید صاحب

وغیرہ جو وہاں موجود تھے سب حیران ہو گئے اور خاص طور پر حضرت مولانا عبد الغفور صاحب  
 حضرت کی دیروزہ پیشینگوئی حرف بحرف سچ ہوتے دیکھ کر بہت ہی ششدر تھے۔  
 القصہ مولانا محمد عمر صاحب کو لوگوں سے الگ رکھا گیا صرف نماز کے وقت ان کو باہر  
 لاتے۔ رفتہ رفتہ ان کی طبیعت کو سکون ہوتا گیا پھر بھی یہ حالت تھی کہ جہاں حضرت کو دیکھا  
 جذب ہو گیا چنانچہ انہوں نے حضرت سے بیعت ہو کر باقاعدہ سلوک طے کیا اور صاحب  
 اجازت ہو کر اپنے وطن ہوتی مردان وغیرہ سرحد کے علاقہ میں کافی تبلیغ کی، یہ ہمارے حضرت  
 صاحب قدس سرہ کے سب سے اول خلیفہ ہیں بعد ازاں حضرت کے وطن میں اکثر حاضر ہوتے  
 رہے ہیں اور ہندوستان کے سفر میں بھی کچھ عرصہ ساتھ رہے ہیں اس دوران میں اس عاجز مؤلف  
 نے بھی ان کی زیارت و مصاحبت حاصل کی ہے بہت کم گوشتین اور صاحب جذب بزرگ  
 تھے۔ اس عاجز کی موٹے دانوں کی تسبیح میں سے نصف (چچاس دانے) انہوں نے لے لی تھی  
 کہ بوقت مراقبہ ان کو کھٹکھٹایا کروں گا۔ حضرت مخدوم زادہ کلاں مولانا محمد صادق صاحب <sup>ظل</sup>  
 نے فرمایا کہ ایک دفعہ وہ پیدل اپنے شہر ہوتی مردان سے حضرت کی خدمت میں احمد پور شرقیہ  
 حاضر ہوئے اور گڑھدینہ لائے مولانا محمد صادق صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس گڑھ کو آخر وٹ  
 سمجھا، کم سفر سوار ہو کر کیا ہوگا ورنہ سب پیدل کیا۔ ان کو کرا یہ بھی کئی دفعہ حضرت صاحب  
 اپنے پاس سے دیا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے مولانا عبد الرشید صاحب کے بدست حضرت  
 کی خدمت میں شہد ہدینہ بھیجا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بعض حضرات کا صرف ذکر دریافت کرنا | حضرت مولانا عبد الغفور صاحب کے چھوٹے بھائی  
 حضرت مولانا عبد القیوم صاحب نے حضرت سے

ذکر کا طریقہ دریافت کیا اور حلقہ میں شامل ہوئے ان کو بھی جوش ہوا ان کی حالت پر

حضرت مولانا عبدالغفور صاحب کو بھی رشک آیا اور غالباً تنہائی میں انہوں نے بھی حضرت کے ذکر سیکھا۔ ابھی دہلی میں تشریف رکھتے ہوئے چند دن گزرے تھے کہ آپ کے پرو مشر حضرت خواجہ غریب نواز کے مکتوب گرامی موصول ہوا کہ فوراً یہاں چلے آؤ کسی مشورہ کیلئے تمہاری ضرورت ہے۔ چنانچہ فرمان موصول ہونے کے بعد فوراً سب کام چھوڑ کر فقیر پور شریف کو روانہ ہو گئے اور مدارس عربیہ خصوصاً مدرسہ امینیہ کی ایک کثیر جماعت جو حضرت صاحب کے داخل سلسلہ ہونے کو تیار تھی لیکن آپ کے واپس تشریف لے آنے کی وجہ سے آپ ہی کے ایما سے حضرت مولانا عبدالمالک صاحب مدظلہ العالی سے بیعت ہو کر فیضیاب ہوئی۔ واللہ اعلم

حضرت مولانا عبدالغفور صاحب (مہاجر مدنی مرحوم) حضرت صاحب کے دولتکدہ پر احمد پور شرقیہ پر وگرام کے مطابق حاضر ہوئے اور وہاں سے حضرت کو ساتھ لے کر فقیر پور حضرت خواجہ محمد فضل علی شاہ قریشیؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت سے مشرف ہوئے۔ حضرت مولانا موصوف کے بڑے بھائی جناب مولانا محمد معصوم صاحب، چھوٹے بھائی جناب مولانا عبدالقیوم صاحب اور عمزادہ مولانا عبدالرشید صاحب بھی حضرت خواجہ غریب نواز محمد فضل علی شاہ صاحب سے بیعت ہو کر صاحب اجازت ہوئے اور بہت تبلیغ کی۔ کافی لوگوں نے سرحد اور دہلی وغیرہ میں ان سے اخذ طریقت و حصول فیض کیا۔

جناب مولانا عبدالرشید صاحب پہلے قادر یہ سلسلہ میں بیعت تھے اور اس سلسلہ کے کچھ اسباق کئے تھے مگر تکمیل نہیں کی تھی کہ شیخ کا انتقال ہو گیا جب یہ حضرت کی خدمت میں دہلی آنے جانے لگے اور مولانا عبدالغفور صاحب کے تعلق کی وجہ سے اکثر ملتے رہتے تو حضرت نے ان کی صلاحیت طبع و سعادت ازلی کو دیکھ کر ان کو بھی بیعت سلسلہ کی ترغیب دی اور فرمایا کہ جب پہلے شیخ کا انتقال ہو چکا ہے اور سلوک کی تکمیل نہیں ہوئی ہے تو

تجدید و تکرار بیعت جائز و مستنون ہے۔ مولانا نے جواب دیا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ الغرض کچھ عرصہ کے بعد خود ہی خواہش کی اور حضرت صاحب نے ان کو اپنے پیرو مرشد خواجہ غریب نواز سے بیعت کرا دیا۔ بعد تکمیل سلوک حضرت خواجہ غریب نواز سے صاحب اجازت ہوئے۔ مولانا صاحب ہمارے حضرت صاحب سے بہت محبت رکھتے تھے۔ باوجودیکہ حضرت کے پیر بھائی تھے مگر حضرت کو بمنزلہ پیر سمجھتے تھے بہت ادب و تواضع سے پیش آتے۔ اس عاجز مؤلف نے دیکھا کہ باوجود تمام اسباق حضرت خواجہ غریب نواز سے حاصل کرنے کے ہمارے حضرت صاحب سے الگ باقاعدہ اسباق کرتے رہے۔ جب حضرت تشریف لاتے تو شجرہ شریف جس میں اسباق بھی درج تھے سامنے رکھ دیتے اور فرماتے کہ حضرت آپ نے فلاں سبق کی اجازت دی تھی اب آگے کے لئے کیا ارشاد ہے حضرت حسب عادت مسکرا دیتے اور فرماتے آپ ایسا کیوں خیال فرماتے ہیں آپ کو حضرت غریب نواز سے سب اسباق کی اجازت حاصل ہے۔ مولانا صاحب فرماتے آپ کی طرف سے بھی اجازت ہونی چاہئے پھر حضرت فرمادیتے اچھا آپ کو اس سے اگلے سبق کی اجازت ہے۔ غرضیکہ ایسی طبیعت کے لوگ مشکل سے ملتے ہیں۔ ان کا وصال دہلی میں ہوا اور محلہ قصاب پورہ تکیہ والی مسجد کے قبرستان میں آپ کا مزار مطلع انوار ہے۔ اسی تکیہ والی مسجد میں آپ کا قیام رہتا تھا اور ہمارے حضرت صاحب بھی اکثر اسی مسجد میں ان کے پاس قیام فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو تاحشر انوار سے معمور رکھے اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کا مقام بنائے۔ آمین۔

حضرت مولانا محمد معصوم صاحب و مولانا عبدالقیوم صاحب کا وصال بھی اپنے وطن علاقہ سرحد میں ہو چکا ہے۔ برد اللہ مضجعهما ونورہم قدہما وجعل الجنة مثواہما۔ آمین۔  
یہ حضرات بھی ہمارے حضرت صاحب کا بہت ادب و احترام کرتے اور باوجود پیر بھائی ہونے کے

ان کو بھی اپنا پیر ہی سمجھتے تھے اور ہمارے حضرت صاحب بھی ان کا بہت ادب و احترام فرماتے تھے۔ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب جو تقریباً ۱۹۳۶ء میں مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے ہیں، نا حال حین حیات ہیں اور بہت مخلوق ان سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ جمیع بلاد اسلام میں سعودی عرب، یمن، مصر، شام، عراق، عرب، کردستان، پاکستان، ہندوستان، چین، جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، برما وغیرہ کے بڑے بڑے علماء و فضلا اور دیگر طبقہ اور ہر فرقہ اہل سنت و جماعت کے مسلمان آپ سے فیضیاب ہو کر اپنے ملکوں میں سلسلہ عالیہ کی تبلیغ کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے اور ان کے فیوض و برکات کو مشرق و غرب، شمال و جنوب میں ہر طرف زیادہ سے زیادہ جاری فرمائے۔ آمین۔

جناب حاجی محمد شفیع صاحب سے منقول ہے کہ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو کیفیات میں کچھ کمی محسوس کی جو شیطانی خطرہ تھا۔ ہمارے حضرت صاحب کو الگ لجا کر فرمایا کہ شاہ صاحب مجھے توجہ دو۔ حضرت نے فرمایا کہ مولانا آپ کو بہت فائدہ ہو چکا ہے شیخ کی قیام گاہ پر ایسا کرنا میرے اور آپ سب کے لئے بے ادبی اور گستاخی ہے آپ ایسا خیال نہ کریں۔ تب ان کی تسلی ہوئی۔ روانگی کے وقت حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ نے فرمایا مولانا صاحب میں بوڑھا ہو گیا ہوں دور کا معاملہ ہے میں نے آپ کو شاہ صاحب (حضرت محمد سعید صاحب قریشی) کے سپرد کیا ان کو میری جگہ سمجھیں۔ جب رخصت ہو کر کچھ دور آئے تو فیضان کا بہت اثر

۱۔ الحجج حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی قدس سرہ العزیز کا بھی بروز شب یکشنبہ نماز عشا کے دو گھنٹہ پہلے بعد تاریخ یکم ربیع الاول ۱۳۵۹ھ مطابق ۱۸ مئی ۱۹۶۹ء بمقام مدینہ منورہ وصال ہو چکا ہے۔ آپ بخت البقیع میں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مزار مقدس سے ذرا پہلے راستہ سے قدرے اندر کی طرف مدفون ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے معمور فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام آپ پر

معلوم ہوا۔ پھر ہمیشہ ہمارے حضرت صاحب کو اپنا پیری سمجھتے اور بہت ادب و احترام فرماتے رہے اور آج تک حضرت کے متعلقین و منتسبین کے ساتھ خصوصی سلوک و محبت فرماتے ہیں اور ہمارے حضرت صاحب کو بھی ان حضرات کے ساتھ اپنے پیر بھائیوں میں سب سے زیادہ رابطہ و محبت تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت مولانا عبدالغفور صاحب کے دو خط ذیل میں درج کئے جاتے ہیں ایک مکتوب گرامی جو مولانا نے کسی وقت ہمارے حضرت صاحب کی خدمت میں دہلی سے ارسال فرمایا تھا اور وہ جناب صاحب جزادہ صاحب کو حضرت کے کاغذات میں سے ملا ہے۔ مولانا موصوف کی اجازت سے درج کیا جاتا ہے اس سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ مولانا موصوف کو محبت و تعلق حضرت صاحب کے ساتھ کس قدر تھا۔ دوسرا مکتوب گرامی مدینہ منورہ سے حال ہی میں اس عاجز کو موصول ہوا ہے۔ عاجز نے درخواست کی تھی کہ حضرت صاحب کی سوانح عمری کے لئے آپ بھی کچھ مسودہ ہیا فرمادیں۔ اس کے جواب میں آپ نے حضرت صاحب کے بعض محاسن درج فرمائے ہیں۔ ہر دو خطوط درج ذیل ہیں:-

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از طرف حقیر فقیر لاشیٰ عبدالغفور حنفی نقشبندی مجددی فیضی حضرت قبلہ و کعبہ روحی قداہ زبدة العارفين قدوة السالکين منبع الفيوض والبرکات جامع الاصول والقروع والاسرار محبنا و مشفقنا دام الطافکم علینا ابدًا حضرت مغرب نے از غریب پرور السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ، بعد از سلام علیکم خیریت جانین نیک مطلوب۔ خدمت شریف میں عرض یہ ہے کہ یہ عاجز ہر طرح خیریت سے ہے۔ گھر میں کچھ تکلیف تھی اب خدا کے فضل سے اور آپ کی دعا سے خیریت اور عافیت ہے اور آپ کی خیر و عافیت درگاہ رب المنان سے الی یوم المیزان نیک نیک مطلوب القلوب۔ یہ عاجز آپ کی



شفقت و عنایت اور مہربانی جو اس گندہ نالائق پر ہوئی ہے اور ہو رہی ہے بہت شاکر ہے  
اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دارین نصیب فرمائے میں آپ کے احسانات اور انعامات کا شکر  
ادا نہیں کر سکتا۔ خط و کتابت میں اس عاجز سے سستی ہوتی رہتی ہے لیکن بے محبتی کی  
وجہ سے نہیں بلکہ محض سستی اور کاہلی اور عوائقِ زمانہ کی وجہ سے ہے نہ کہ بے پروائی اور  
عدم محبت کی وجہ سے۔ حضرت میں تو آپ کا غلام حلقہ بگوش ہوں اور تابع دار خادم ہوں  
بلکہ مجھ کو تو آپ ایسا سمجھیں کہ میں آپ کا ایک بچہ ہوں۔ حضرت آپ کے طفیل اور  
آپ کی عنایت سے یہ عاجز بلکہ تمام جماعتِ دہلی کو کامیابی حاصل ہوئی۔ جزاکم اللہ  
خنی وعن المسلمین۔ حضرت رمضان شریف کی ۱۶ تاریخ کو عبدالرحمن صاحب سے  
آپ کے آنے کی اطلاع ملی۔ اس عاجز کو بے اندازہ خوشی ہوئی اور اس عاجز نے تمام  
جماعت کو اطلاع دی کہ صبح کو حضرت خواجہ شاہ صاحب تشریف فرما ہوں گے۔ تمام  
جماعت کے ساتھ یہ عاجز اسٹیشن پر صبح کی نماز کے بعد متصل دس بجے تک سب گاڑیوں  
پر تلاش کیا اور محروم ہو کر (سب) واپس آئے۔ شام کو یہ عاجز اکیلا اسٹیشن پر گیا جب محروم  
واپس آیا تو یکایک بے انداز خوشی مل گئی اور کچھ بہت رنج ہوا۔ حضرت آپ کے دیدار پر  
محترم کے لئے یہ عاجز بالخصوص اور تمام جماعت بالعموم مشتاق ہے اور یہ عاجز انشا اللہ  
عرس شریف پر حاضر ہو گا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے،  
طبیعت میں کاہلی ہے اللہ دور فرمائے آمین۔ حضرت صبح کے وقت اس عاجز نے آپ کی  
خدمت شریف میں یہ مضمون سابق تحریر کیا تھا طبیعت میں کچھ سستی ہوئی موقوف کر دیا  
کہ شام کو تکمیل کروں گا ظہر کی نماز کے بعد جمعرات کے دن ۲ تاریخ کو آپ کا عنایت نامہ  
صادر ہوا اور بہت خوشی ہوئی اور باعثِ شرف بے انداز اس عاجز بے مقدار کے لئے

ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ اور حضرت خواجہ خلیفہ محمد عمر صاحب کی کامیابی کی بشارت مل گئی  
 بہت مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس فیض اور نور کو روز بروز بڑھائے اور آپ کو یہ عاجز  
 مبارکباد دیتا ہے آپ کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فیض باطن  
 سے حضرت خلیفہ محمد عمر صاحب کو سب سے اول اسلامی خدمت کے لئے مکرستہ کر دیا یہ  
 عاجز بہت خوش ہوتا ہے آپ کے ترقی درجات سے۔ حضرت مجھ کو بھی اپنا غلام سمجھیں  
 میں آپ کا ایک فرزند ہوں ایسا خیال فرمائیں، عاجز ہوں تمام جماعت میں میرا جیسا  
 سست اور غافل اور بے عمل آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ حضرات کے دامن کو پکڑا ہے  
 شاید آپ کے طفیل اور برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ گنڈہ نالایق پر بھی خاص فضل اور  
 رحم فرمائے، عاجز ہوں عاصی ہوں طالب دعا ہوں۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ  
 اس عاجز نے مدرسہ کا تعلق ۱۹ رمضان کو مولانا مفتی صاحب کی خدمت میں جا کر  
 قطع کیا ہے اب بالکل مدرسہ وغیرہ کا ارادہ نہیں ہے انشاء اللہ یہ عاجز بھی اسلام  
 کی خدمت کے لئے مکرستہ ہے۔ حاجی صاحب کی واپسی کا اشتراک انتظار ہے پھر انشاء اللہ  
 ایک روز کی بھی دیر نہیں ہوگی۔ مولوی عبدالقیوم صاحب کا جب سے کوئی نکتوب  
 اس عاجز کے پاس نہیں آیا ہے آپ کا نکتوب شریف ان کو روانہ کروں گا اور میری  
 طرف سے جناب محترم مکرم مخلص محمد عزیز صاحب کو بہت بہت تسلیات اور تعظیمات  
 عرض ہے اور نیز اس عاجز کے گھر کی طرف سے آپ کو اور تمام اہلیت کو سلام عرض ہے  
 اور آپ کی دعا سے اب شفا ہے اور آپ کے تمام اجاب کو اور فقیر عبدالرحیم صاحب کو  
 اور تمام جماعت کو نام تمام سلام پہنچے اور عید مبارک ہو اور اس عاجز کے لئے حلقہ کے  
 وقت دعا طلب کی جائے اور یہ عرصہ آپ کو اعتکاف کی حالت میں لکھا گیا، اور

طالبِ دعا ہوں۔ مولوی عبدالرشید کی طرف سے اور تمام جماعت کی طرف سے آپ کو سلام عرض ہے۔ حقیر فقیر لاشیٰ عبدالغفور عفی عنہ۔

محترم حضرت مولانا عبدالغفور صاحب کا دوسرا گرامی نامہ ملاحظہ فرمائیں:-

ازدینہ منورہ۔ محبی و مخلصی المحترم شاہ صاحب زاد اللہ درجائکم و حفظکم اللہ من کل شر و سوء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد مزید دعا و سلام و سلامتی طرفین کے جناب کو معلوم ہو کہ چند دن ہوئے کہ آپ کا محبت نامہ ملا۔ پڑھ کر تمام حالات سے آگاہی ہوئی۔ باعث مزید دعا و سرورِ دل ہوا کہ جناب نے فقیر کو یاد فرمایا اور اس عاجز کی طرف سے سلام تمام مخلصین کو پہنچا دیا میں بہت شکر گزار ہوں۔ امید ہے کہ وہ سب حضرات بھی اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد فرمائے ہوں گے۔ میں سب حضرات کے لئے خلوصِ دل سے دعا گو ہوں اور طالب بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب حضرات پر بھائیوں کے مقامات کو بلند فرمائے اور سب حضرات کو کمال استقامت عطا فرمائے۔ میں اپنے بھائیوں کی دعا کا بہت محتاج ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات اس عاجز کو اپنی دعاؤں سے فراموش نہیں فرمائیں گے۔ پھر بھی اس عاجز کی طرف سے جس کو خط لکھنا ہو میری طرف سے بہت بہت سلام دعا لکھے گا۔ خصوصاً حضرت قریشی عزیز محمد صاحب اور حضرت قریشی کے صاحبزادوں کو اور مولانا محمد سعید صاحب مظفر گڑھ والوں کو اور جناب حاجی محمد احمد صاحب اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ و ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب وغیرہ وغیرہ سب حضرات کو اس عاجز کی طرف سے بہت بہت دعا سلام پہنچے۔ مسکین سب کے لئے دعا گو ہے اور سب سے طالبِ دعا ہے اور میں نے جناب کی طرف سے مواجہہ شریف میں سلام عرض کر دیا ہے نیز بخورداران عبدالحق و عبدالرحمن و عبدالوہاب و مولوی منظور حسین صاحب وغیرہ وغیرہ

سب کو آپ کا سلام پہنچا دیا اور سب سلام عرض کرتے ہیں۔

جناب نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت قریشی سعید محمدؑ کے کچھ ملکوفات اتباع سند کے متعلق معلوم ہوں تو لکھیں ہم اس کو درج کریں گے۔ حضرت قریشی کے کشف کے متعلق مجھ کو دو باتیں یاد ہیں وہ تحریر کرتا ہوں۔ اول جب اس عاجز نے حضرت قریشیؑ سے بیعت کا مصمم ارادہ کر لیا تو دہلی سے روانہ ہو کر سیدھا احمد پور شرقیہ گیا۔ حضرت قریشی سعید محمدؑ سے ملاقات کی اور اپنی بیعت کے متعلق ذکر کیا تو حضرت قریشی سعید محمدؑ بہت تواضع اور اخلاق سے پیش آئے جو ان کی فطرت تھی اور فرمایا کہ میں خود جناب کے ساتھ فقیر پور شریف گیا کہ جو حضرت قریشیؑ کا مقام اول تھا جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت قریشی سعید محمدؑ میرے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب ہم قریشی صاحبؑ کے مقام کے قریب پہنچ گئے تقریباً ایک میل کا فاصلہ رہ گیا تو حضرت قریشی سعید محمدؑ ہاتھ اٹھا کر فقیر پور شریف کی طرف متوجہ ہو کر بہت دیر تک دعا مانگتے رہے اور اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ مولانا میری ایک عرض یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم حضرت قریشیؑ کے محبوبوں میں سے بنو گے اس وقت میرے لئے حضرت قریشی سے سفارش کرنا میں نے کہا اگر ایسا ہوا تو میں سفارش کرنے میں کمی نہیں کروں گا۔ میرا جہان تک خیال ہے یہ کشف ان کا بالکل صحیح نکلا جو تمام جماعت کو معلوم ہے کہ قریشی صاحبؑ کو اس عاجز سے کتنی محبت تھی اور اس کی تصدیق شاید آپ کو بھی معلوم ہو کہ جب قریشی صاحبؑ دہلی تشریف لائے تو عصر کے بعد مسجد سبیل میں سب جماعت کے سامنے جس میں حضرت قریشی سعید محمدؑ بھی موجود تھے اور بہت سے خلفا بھی موجود تھے حضرت قریشیؑ نے فرمایا کہ مولانا عید الغفور سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے ان سے بعض کرنا مجھ سے بعض کرنا ہے اور ان سے بیعت کرنا مجھ سے بیعت کرنا ہے اور اپنے سر مبارک سے

عامہ شریف اتار کر فقیر کے سر پر رکھا اور اپنی تسبیح فقیر کے ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ آج فقیر مولانا کے حلقہ میں بیٹھے گا۔ مجھے اپنے دل میں بہت ندامت اور شرمندگی ہوئی اور اس وقت جماعت پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ بھوڑی دیر کے بعد حضرت قریشی صاحب کمرہ میں تشریف لے گئے اور فقیر کو جماعت کے ساتھ چھوڑا غالباً آپ کو یہ یاد ہوگا۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب قریشی سعید محمد دہلی تشریف لایا کرتے تھے تو اکثر اس عاجز کے یہاں قیام فرمایا کرتے تھے اور دوران قیام میں کبھی کبھی خواجہ باقی باللہ کے مزار شریف پر جایا کرتے تھے ایک دن یہ عاجز بھی ساتھ تھا مزار شریف پر حاضری دی کچھ دیر تک مراقبہ فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ مولانا عبد الغفور صاحب سے کہو کہ یہ بات چھوڑ دے یعنی اس عاجز کے لئے فرمایا کہ

ان کے وجود میں ایک بات ہے اس کو چھوڑ دے، اور جس بات کے لئے فرمایا وہ اس عاجز کے وجود میں تھی مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت قریشی صاحب کا کشف صحیح ہے اور ان سب باتوں کے علاوہ جو استقامت اور حسن اخلاق، زہد تقویٰ، ورع جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ کم لوگوں میں نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو انوار رحمت سے پُر فرمائے اور ان کے منتسبین کو ان کے طریقہ پر چلائے اور ان کے عادات اور اخلاق میں سے حظ وافر نصیب فرمائے اور اس عاجز کو بھی محروم نہ فرمائے۔

شاہ صاحب بہت زمانہ گذر گیا تقریباً انیس برس اس عاجز کو مدینہ منورہ میں گذرے میری یہاں کی حاضری کے بعد بھی مدت دراز تک وہ حیات رہے اور بہت لوگ ان سے مستفید ہوتے رہے جو لوگ ان کی صحبت میں تھے انھوں نے بہت کچھ دیکھا ہوگا آپ کے فرمانے سے یہ دو باتیں لکھ دی ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو اپنی کتاب میں درج

۱۔ خاکسار اس مبارک مجلس میں حاضر تھا اور واقعہ مذکورہ عاجز کو من و عنق سے حضرت صاحب (مولف)

فرمادیں۔ اور حضرت شاہ صاحب کی توجہ تہایت پاکیزہ اور قوی الاثر توجہ تھی ایک دن اس عاجز کی طرف متوجہ ہوئے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ برق کی طرح ایک چیز میرے سینہ میں داخل ہو گئی اور اس سے باطن میں ایک انشراح پیدا ہو گیا اس توجہ کے اثرات اور برکات ابھی تک مجھے یاد ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ الف الف مرۃ۔ دعا گو عبد الغفور عباسی اندنیہ منورہ۔ ۲۲ شعبان المعظم ۱۳۷۳ھ۔

اس عاجز نے ۱۹۳۲-۳۳ء میں دہلی میں ملازمت کا ارادہ کیا حضرت صاحب کی خدمت میں استنصواب کے لئے عرض لکھا آپ نے جواباً تحریر فرمایا جو درج ذیل ہے اس میں ان حضرات کی صحبت کی ترغیب دی اور ان حضرات کا آپ سے اخذ فیض کا تذکرہ بھی ہے۔

”از خادم الفقراء و علماء سعید محمد قریشی ہاشمی نقشبندی مجددی حنفی فضل احمد پوری بخد مت عزیزا قدر عزیز سید زوار حسین سلمہ اللہ۔ بعد از و علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکات مبارک نامہ پہنچا خوشی ہوئی میرے ناقص خیال میں شہر دہلی میں آن عزیز کا رہنا مناسب معلوم ہوتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ دین دنیا میں بہتری ہوگی۔ دہلی محلہ گڑھ کا میل مسجد سبیل میں حضرات مولانا مولوی عبد الغفور صاحب و مولوی عبد القیوم صاحب و مولوی عبد الرشید صاحب یہ تینوں حضرات میرے پیر صاحب کے خلیفہ ہیں انھوں نے عاجز سے بھی ابتدا میں کچھ سلوک کیا ہوا ہے معاملہ واحد ہے اور خاص کر عاجز سے بہت محبت کرتے ہیں اور سعیت بھی کرتے ہیں اور حلقہ بھی کراتے رہتے ہیں اور عالم مکمل ہیں تعلیم عربی بھی دیتے رہتے ہیں، ان کی خدمت و حلقہ میں جاتے رہنا اور کبھی کبھی مزار حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ختم پڑھ کر مراقبہ کرایا کریں۔ (۲) نماز فرضی کی خوب پابندی رکھیں اور ذکر اور مراقبہ جو کچھ ہو سکے نافذ نہ کریں۔ عربی پڑھنے کی سرگرمی رکھیں

اور اپنی خیر خیریت سے اسی طرح مطلع کرتے رہیں اور ملاقات پر انشاء اللہ تعالیٰ چند دن ساتھ رہنے سے ترقی ہوگی تمام حال پر سناں و دوستاں و جماعت کو السلام علیکم۔

دوسری دفعہ جب آپ دہلی تشریف لائے تو برنے والی مسجد  
دہلی کا دوسرا سفر (علاقہ بارہ ٹونٹی قصاب پورہ) میں جہاں مولانا عبدالقیوم صاحب

موصوف و مذکور نام تھے قیام فرمایا۔ وہاں بھی بہت لوگ فیضیاب اور داخل سلسلہ ہوئے۔ حضرت صاحب سفر میں کھانے پینے وغیرہ میں تقویٰ کا بہت اہتمام فرماتے،

خشک سامان چنے ستو وغیرہ جو ہمراہ لاتے تھے استعمال فرماتے اور روٹیاں بھی جو خشک ہو جاتیں کوٹ کر کھاتے۔ مرزا عبدالرحیم صاحب نے بتایا کہ ان کے ہاتھ بازار سے لیموں قیمت دے کر منگوا لیتے اور اس کے ساتھ روٹی کھاتے بعد میں عبدالحمید صاحب

کو جو مولانا عبدالملک صاحب کے مرید تھے اور ان کے فرمانے سے حضرت کے پاس آتے رہتے تھے آٹا دیدیتے اور جس روز روٹی پکوانی ہوتی ان کو کہہ دیتے وہ خالی

روٹی پکوالاتے اور حضرت بازار سے لیموں یا خشک اُبلے ہوئے انڈے لے کر اس سے روٹی کھا لیتے مگر کبھی پر سہرگاری اور تقویٰ کے خلاف نہ کرتے تھے۔

غالباً دہلی کے تیسرے سفر میں حضرت کا قیام ڈپٹی گنج کی مسجد  
دہلی کا تیسرا سفر میں ہوا اور اسی سفر سے واپسی پر مرزا عبدالرحیم حضرت صاحب

کے ساتھ احمد پور شرقیہ آگئے اور یہیں حضرت کے در دولت پر قیام کر لیا یہیں تعلیم بھی پاتے رہے اور دوسرے سال سے حضرت کی زمین کی دیکھ بھال اور مزار عین وغیرہ سے

کام لینے کی خدمت بھی انجام دینے لگے۔ اس طرح انڈیا پاک نے حضرت کے پیرو مرشد کی دعاؤں سے اس کام سے فراغت و اطمینان مرحمت فرمایا اور آپ کی تاجین جیٹ

اور بعد وصال بھی کئی سال تک حضرت کے مختار کی حیثیت سے مرزا عبد الرحیم صاحب خدمت انجام دیتے رہے اور اب اگرچہ اپنا کاروبار الگ کر رکھا ہے مگر خاندانِ عالی سے وہی تعلق و محبت آندورفت اور بوقتِ ضرورت خدمت بجالانا بدستور قائم و جاری ہے۔ قیامِ ڈپٹی گنج کے زمانہ میں بہت لوگ داخلِ سلسلہ ہوئے اور جذبِ کیفیات کی فراوانی تھی، سو سو پچاس پچاس کا حلقہ ہو جاتا اور کبھی اور بھی زیادہ، اور دن میں دس دس بلکہ کبھی بیس بیس دفعہ تک حلقہ ہو جاتا، سب کو خاص توجہ دیتے تھے، دعا اور تعویذات کے لئے بھی بہت لوگ آتے رہتے تھے۔

ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت اس عاجز نے تمام شہر پر توجہ ڈالی تھی چنانچہ بفضلہ تعالیٰ اس کا اثر ظاہر ہوا۔ آنے والوں سے یہ عاجز پوچھتا کہ آپ کو کس نے میرا پتہ بتایا تو اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ آواز آئی کہ فلاں جگہ ایک بزرگ آیا ہوا ہے اس کے پاس جاؤ (او کما قال) نیز فرمایا کہ اس زمانہ میں لوگوں کو خاص توجہ دینے کی اتنی کثرت رہی کہ اس کا اثر بدنی صحت پر پڑا اور خاص طور پر دماغ پر اتنا اثر ہوا کہ سر میں گڑھے پڑ گئے جو اخیر وقت تک رہے کہ حجام کو بال بنانے میں بھی بڑی دشواری پیش آتی تھی۔ نیز حاجی محمد شفیع صاحب نے فرمایا کہ یہ عاجزان دنوں ڈیڑھ دو سیر دودھ (یا اس سے بھی زیادہ) حضرت کو پلاتا رہا وہ سب اس قدر مجاہدہ و ریاضت کی وجہ سے مضم ہو جاتا اور کچھ بھی پتہ نہ چلتا کہ پیابھی تھا یا نہیں۔ بعد میں اس قدر کمزور کا واقع ہوئی کہ معمولی اور نرم غذا بھی مضم نہ ہوتی تھی بلکہ اکثر درگزرہ ریاحی میں مبتلا رہتے۔ واللہ اعلم۔

حاجی محمد شفیع صاحب کا بیعت ہونا | جناب حاجی محمد شفیع صاحب رہتک کے رہنے والے تھے۔ مویشیوں کے کاروبار کے سلسلہ میں



دہلی تشریف لاتے اور محلہ ڈپٹی گنج کی سرائے میں قیام کرتے تھے۔ اُن کے چھوٹے بھائی ولی محمد صاحب اور نسبتی بھائی محمد اسماعیل صاحب حضرت سے داخل سلسلہ ہو گئے، یہ بھی مولیوں کے کاروبار کے لئے دہلی آتے رہتے اور ڈپٹی گنج میں قیام کرتے تھے۔ حاجی صاحب موصوف و مذکور سے ان کے بھائی ولی محمد صاحب نے کہا کہ آپ بھی حضرت صاحب سے بیعت ہو جائیں۔ حاجی صاحب نے جواب دیا کہ میں تو ایک بزرگ مولانا شیخ اللہ صاحب قادری سے بیعت ہو چکا ہوں اب دوسرے پیر کی ضرورت نہیں۔ مولانا شیخ اللہ صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ حاجی صاحب ڈپٹی گنج میں مولانا عبد القادر صاحب افغان امام مسجد سے قرآن شریف وارد میں مذہبی مسائل وغیرہ کی کتب پڑھا کرتے تھے اور مسجد میں ہی بیٹھے قرآن شریف کا سن یاد کرتے رہتے تھے۔ ایک روز حضرت صاحب نے فرمایا محمد شیخ صاحب! میرے بزرگ آپ کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ حاجی صاحب نے جواب دیا چاہتے ہوں گے۔

ایک دن ایک صاحب عبد الغنی نام سبزی منڈی کے رہنے والے حضرت کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضور مکان پر تشریف لے چلیں اور عورتوں کو بھی حلقہ کرائیں۔ حضرت نے روانہ ہوتے وقت حاجی صاحب سے فرمایا کہ آپ نے اپنا سبق پڑھ لیا ہو تو میرے ہمراہ چلئے۔ حاجی صاحب ہمراہ روانہ ہو گئے وہاں حضرت صاحب نے حلقہ کرایا اور توجہ دی۔ حاجی صاحب پر توجہ کا بڑا اثر ہوا اور تڑپنے لگے غرض بڑی لذت محسوس کی۔ دن رات عجیب کیفیت رہنے لگی۔ اُن کے خسر صاحب نے سمجھا کہ حاجی صاحب دیوانہ ہو گئے ہیں اب میری لڑکی کی زندگی خراب ہو جائے گی حضرت صاحب نے ان کے خسر صاحب کو سمجھایا کہ ان کو کچھ نہیں ہوا آپ گھبرائیں نہیں۔ الفصد حاجی صاحب حضرت کی خدمت میں دن رات رہنے لگے۔ ایک دن حضرت صاحب حضرت مولانا شیخ عبدالحق

حدث دہلوی قدس سرہ کے مزار شریف پر تشریف لے گئے۔ آپ اندر داخل ہو گئے مگر حاجی صاحب ڈپوڑھی پر پھڑے رہے اندر نہیں آئے۔ ان کو حال (کشف) ہوا کہ صاحب مزار فرما رہے ہیں تم اندر نہ آؤ تم نے دعا نہیں پڑھی حضرت کو بھی حال (کشف) ہوا کہ شیخ عبدالحق صاحب نے فرمایا آپ ان کو دعا نہیں پڑھائی، آپ دعا پڑھا میں۔ حضرت صاحب نے ایک خادم کے ذریعہ حاجی صاحب کو اندر بلا دیا وہاں کچھ دیر مراقبہ کے بعد واپس تشریف لائے اور ڈپوڑھی گنج کی مسجد میں حاجی صاحب کو دعا پڑھائی اور سلسلہ میں داخل فرمایا۔

سب سے پہلے حاجی محمد شفیع صاحب کے چھوٹے بھائی  
رہنک میں تبلیغ کا سلسلہ | جناب شیخ ولی محمد صاحب کی دعوت پر حضرت مبارک

تشریف لائے اور ایک روز قیام فرمایا دوسری دفعہ حاجی محمد شفیع صاحب حضرت صاحب کو رہنک لے گئے اور بہت سے لوگ داخل سلسلہ ہو کر فیضیاب ہوئے پھر ہمیشہ جب ہندوستان کے سفر پر تشریف لاتے تو رہنک بھی تشریف لجاتے اور کئی دن قیام فرما کر تبلیغ فرماتے رہتے۔

حاجی محمد شفیع صاحب نے بتایا کہ میرے  
مولانا حاجی عبدالمجید مبارک کی کا بیعت ہونا | چھوٹے بھائی ولی محمد کے پاس

حضرت پیر صاحب کا گرامی نامہ مبارک صادر ہوا اُس نے وہ خط مولانا عبدالمجید صاحب کو دیا کہ اسے پڑھ کر سنادیں مولانا صاحب نے اس خط کی تشریح دیکھ کر فرمایا کہ بھائی ولی محمد تم مجھے بھی اپنے پیر صاحب کی زیارت کرانا چنانچہ جب آپ سفر کے دوران رہنک تشریف لائے تو مولانا صاحب کو اطلاع دی گئی آپ روزانہ حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے آخر مولانا نے بیعت ہونے کی خواہش ظاہر کی اور ایک روز بارہ بجے دوپہر کوچپ چاپ آکر دروازہ بند کر لیا اور حضرت صاحب سے بیعت ہو گئے بعد ازاں حضرت مولانا صاحب موصوف کی یہ حالت تھی کہ آپ تقریباً ہر سفر میں حضرت صاحب کی خدمت میں ہمراہ رہتے اور اتنی

خدمت کرتے کہ حضرت صاحب کے تعلق مبارک بھی اٹھاتے رہتے حالانکہ آپ عمر رسیدہ اور  
مسن و سفید ریش بزرگ تھے۔

گوہانہ میں تبلیغ اور مولانا محمد سعید صاحب کا بیعت ہونا | حضرت حاجی محمد شفیع صاحب  
و دیگر اہالیانِ رہتک کی

رشتہ داریاں گوہانہ میں تھیں چنانچہ حاجی صاحب کی دعوت پر حضرت صاحب گوہانہ تشریف  
لے گئے اور وہاں بھی سلسلہ بیعت و تبلیغ جاری ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد سعید صاحب افغان  
گوہانوی مدظلہ العالی اسی زیاتہ میں داخل سلسلہ ہوئے۔ یہ گوہانہ کی ایک بڑی مسجد میں پیش  
امام تھے ان کی اہلیہ صاحبہ بھی داخل سلسلہ ہوئیں جو بیعت نیک اور حضرت کی تہابیت  
عقیدت مند مریدی تھیں ان کی وجہ سے حضرت مولانا محمد سعید صاحب کو اس راستہ میں اور بھی  
زیادہ تقویت حاصل ہوئی۔ گوہانہ میں حضرت اور آپ کے ہمانوں کا کھانا پکانے وغیرہ کی  
خدمت انجام دینی تھیں اور آپ کی اور ہمانوں کی خاطر تواضع کو اپنے لئے بڑی سعادت  
خیال کرتی تھیں۔ نور اللہ تعالیٰ مرقدہا و جعل الجنة متواھا۔

کرناں میں تبلیغ | صوفی عبدالحق صاحب میرٹھی جو صدر بازار کرناں میں فرنیچر کا سامان تیار  
کرتے تھے پہلے کرناں کے ایک بزرگ محمد حسین بہرہ صاحب قصوری کے مرید  
تھے اور ان کے وصال کے بعد حضرت صاحب سے تجدید بیعت کر لی تھی نہایت نیک نفس مخلص  
و فرماض شخص تھے ان کی دعوت پر حضرت صاحب کرناں تشریف لے گئے اور صدر بازار میں قیام  
فرمایا۔ حاجی محمد شفیع صاحب اس سفر میں ہمراہ تھے یہاں کافی لوگ داخل سلسلہ ہوئے۔ سید  
مبارک علی شاہ صاحب صدر بازار میں ہی قیام رکھتے تھے وہ بھی داخل سلسلہ ہوئے۔ دین محمد  
نوسلم بھی یہیں داخل سلسلہ ہوا جس کا واقعہ آگے مذکور ہوگا انشاء اللہ۔ مولانا اسلم الدین صاحب

ہیڈ کانسٹیبل پولیس ان دنوں کرنال میں متعین تھے وہ بھی داخل سلسلہ ہوئے اور بہت ترقی کی بہت لوگوں کو جوش و جذبہ ہوتا تھا۔ اکثر ہندو بھی آپ کے عقیدہ مند تھے اور آتے رہتے تھے۔ ایک ہندو ہرے رام نام اکثر حضرت کی خدمت میں آتا۔ اس نے ذکر بھی دیراً کیا اور کافی حالات و واردات اس پر صادر ہوتے رہتے۔ اس نے اپنی برادری میں کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں انھوں نے اس کو پریشان کیا اور اس کے مسلمان ہونے میں رکاوٹیں پیدا کیں آخر میں ثابت قدم نہ رہ سکا اور آنا جانا اور ذکر و شغل بند کر دینے سے رفتہ رفتہ اس نعمت سے محروم رہ گیا غالباً اس کا مال و دولت بھی اس کے لئے رکاوٹ کا باعث ہوا اس نے چاہا کہ مسلمان بھی ہو جاؤں اور میرے حصہ کا مال و جائداد وغیرہ جو بہت تھا مجھے مل جائے اس کی برادری نے اس کو جب مال سے بالکل محروم کر دینے کی دھمکی دی تو ڈر گیا اور حرات نہ کی صحیح دھمکی میں مر گیا چونکہ باب برد تھا۔ ویسے جب حضرت کرنال تشریف لاتے اور اسے پتہ چل جاتا تو ملنے کے لئے ضرور آ جاتا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا جاتا۔ راقم مولف نے بھی اس کو آتے دیکھا ہے۔ ایک روز اس عاجز نے عرض کیا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف میں ایک مکتوب گرامی جھوٹے خداؤں کی نفی کے لئے ایک ہندو ہرے رام نام تحریر ہے آپ کی خدمت میں بھی کرنال میں ایک ہندو ہرے نام کا حاضر ہوتا رہتا ہے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا الحمد للہ حضرت مجدد صابح کی سنت ہمیں بھی حاصل ہو گئی (او کما قال)۔

ایک مرتبہ حضرت صاحب مزارات کی زیارت کے لئے پانی پت تشریف لے گئے تھے۔ حاجی محمد شفیع صاحب ہمراہ تھے۔ ایک شخص جو حاجی صاحب

### پانی پت کا سفر

کا رشتہ دار تھا داخل سلسلہ ہوا تھا مگر اس وقت صرف ایک رات قیام فرمایا تھا۔ پھر دوسری دفعہ پہلی سے ہو کر پانی پت تشریف لائے حضرت کے وطن سے مولانا مولوی محمد شاق صاحب

بھاو لپوری آپ کے ہمراہ تھے اور وہ دہلی پانی پت و سرہند شریف کی زیارات کے لئے ہمراہ آئے تھے۔ مولانا اسلام الدین صاحب کرناں سے تبدیل ہو کر پانی پت آگے تھے اور انھوں نے اپنے اجاب کے مشورہ سے حضرت کو پانی پت تشریف لانے کی دعوت سے رکھی تھی حضرت صاحب بذریعہ خط اپنے پیچھے کی کوئی اطلاع ان کو تنگ وقت کی وجہ سے نہ دے سکے لیکن دہلی سے جناب مولانا عبد المجید صاحب ریشکی اور جناب مولانا محمد سعید صاحب گوبانوی کو جو آپ کے ہمراہ تھے پانی پت ایک روز پہلے روانہ کر دیا تاکہ وہاں مولانا اسلام الدین صاحب کو اطلاع دے کر قیام کا انتظام کریں اور نئی جگہ بلا اطلاع جانے پر پریشانی نہ ہو۔ دوسرے روز حضرت صاحب مع مولانا محمد شاق صاحب پانی پت تشریف لائے قیام کا انتظام جناب حکیم صداقت علی صاحب کے مکان میں کیا گیا تھا۔

یہ عاجز خاکسار مولف ان ایام میں نشئی فاضل کی تیاری کے سلسلہ میں پانی پت آیا ہوا تھا اور مولانا اسلام الدین صاحب کے پاس مقیم تھا مولانا اسلام الدین صاحب قبل ازیں کچھ عرصہ کے لئے کھانا گولہ میں جو اس عاجز کا وطن ہے منعین ہوئے تھے وہیں ان سے تعارف ہوا اور اس عاجز کو اس رات کا شوق اور رہنمائی اور حضرت کے در فیض تک رسائی ان کی وساطت سے حاصل ہو چکی تھی اور ان کی خط و کتابت کے ذریعہ حضرت سے داخل سلسلہ بھی ہو چکا تھا لیکن اس وقت تک زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا چنانچہ اس روز زیارت نصیب ہوئی اور حکیم صاحب کی بیٹھک کے بالافانہ میں غالباً اپریل ۱۹۳۲ء میں بالمشافہ بیعت سے مشرف ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور لوگ بھی داخل سلسلہ ہوئے اور اس کے بعد پانی پت میں بھی حضرت کی آمد و رفت کا سلسلہ قائم ہو گیا حکیم صاحب جو اب تک کسی بزرگ سے بیعت نہیں ہوئے تھے حالانکہ اکثر بزرگ ان کے ہاں قیام فرماتے رہتے تھے اور

حکیم صاحب کافی معمر اور نیک صورت، نیک سیرت، پابند شریعت بزرگ تھے حضرت کی طبیعت اور تقویٰ و بزرگی کو دیکھ کر غالباً دوسری دفعہ کے قیام میں بیعت ہو کر فیضیاب ہو ان کی زندگی تک حضرت کا قیام پانی پت میں حکیم صاحب موصوف کے مکان پر ہی ہوا رہا بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی کئی دفعہ وہیں قیام فرمایا پھر جب حاجی حکیم عبدالقیوم صاحب بیعت ہو گئے تو ان کے اصرار پر ان کے مکان پر قیام فرمانے لگے۔

**کیٹھنل کا تبلیغی سفر** | ایک دفعہ حضرت موصوف کا مکتوب گرامی خاکسار مؤلف کے نام صادر ہوا جس کا مضمون یہ تھا: حامداً ومصلياً

از خادم الفقرا سعید محمد بخدمت جناب سیدنا و مولانا و خلیفہ سید زوار حسین شاہ صاحب سلمہ بعد از السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عنایت نامہ پہنچا جو اباً عرض ہے کہ بوجہ تکلیف کچھ دن بعد جواب سابقہ خطوط ارسال کیا گیا ہے امید ہے کہ پہنچا ہو گا ڈاک ہر کارہ سرد رہا فرمائیں۔ عاجز آپ پر راضی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضا لقا عطا فرمائے اور دارین میں آپ سلامت باکرامت رکھے آمین ثم آمین۔ انشاء اللہ کل پرسوں تک عاجز سرسند شریف سفر پر روانہ ہو جائے گا گویا آج بروز سوموار ہے جمعہ مزار شریف پر جا پڑھوں گا اگر آپ فرصت ہو تو تشریف لائیں اور پھر وہاں پہنچ کر بخوردار محمد شفیع صاحب و حضرت مولانا عبدالمجید صاحب کو اطلاع دوں گا ان دونوں میں جو صاحب تشریف لاوے گا اس مشورہ سے انشاء اللہ آگے سفر ہو گا۔ تمام جماعت کو السلام علیکم۔ اور مزار شریف پر ایک مہینے کے قریب رہائش کا ارادہ ہے بخوردار محمد شفیع کو اطلاع دیوں اور حضرت مولانا عبدالمجید صاحب کو بھی کہ ان دونوں میں سے ایک صاحب تشریف لائیں اور ہمراہ سفر میں تو بہتر جواب جلد بمقام سرسند شریف معرفت خلیفہ مزار شریف امام ربانی علیہ الرحمہ تحریر فرمادیں۔ بلکہ

آنکہ ۳۰ جولائی کو انتشار انت روانہ ہو جاؤں گا۔ اور پٹری روشنی کے لئے ہمراہ لائیں۔“  
چنانچہ اس عاجز نے حاجی محمد شفیع صاحب کو مکتوب گرامی کے مندرجہ ارشاد گرامی کی  
اطلاع دی اور یہ عاجز اور حاجی محمد شفیع صاحب دہلی سے سرسند شریف کے لئے روانہ ہو گئے  
مگر کوئی ایسی وجہ ہوئی کہ حضرت صاحب کے پروگرام کے خلاف ہم لوگ کچھ دیر سے پہنچے حضرت  
صاحب سے وہاں ملاقات تو ہو گئی مگر آپ وہاں سے روانگی کے لئے تیار تھے فرمایا کہ میں نے  
حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت ہونے کی اجازت لے لی ہے اس لئے اب  
جا رہا ہوں آپ دونوں قبلہ کی سمت والی جالی میں مراقبہ کیا کریں اور ہمیں ساتھ لیا کر  
وہاں بٹھا آئے اور تھوڑی دیر کے لئے ساتھ مراقبہ ہو کر آپ خود چپ چاپ واپس تشریف  
لے گئے دیگر ہدایات و نصائح بھی فرمائی تھیں اور یہ فرمایا کہ کل اسی گاڑی سے روانہ ہو جانا  
یہ عاجز راجپورہ میں تمہارا انتظار کرے گا۔

غرض ایک روز یہ عاجز اور حاجی صاحب موصوف سرسند شریف روضہ مبارک پر  
رہے اور حسب ہدایت اگلے روز اسی گاڑی سے سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ راجپورہ کے اسٹیشن پر  
جہاں حضرت صاحب پہلے سے منتظر تھے شرفِ ملاقات حاصل ہوا اور وہاں سے سب کینٹھل  
کے لئے روانہ ہو گئے کیونکہ حاجی محمد شفیع صاحب کے ایک رشتہ دار جناب عبدالکریم صاحب  
حاجی صاحب سے کئی بار اصرار کر چکے تھے کہ کسی دفعہ اپنے پیر صاحب کو کینٹھل بھی ضرور لائیں اسی  
حاجی صاحب نے حضرت صاحب سے عرض کیا اور حضرت صاحب نے منظور فرمایا۔ رات کو  
ہمارے پاس کھانا نہ تھا فقط ایک باسی موٹی روٹی تھی حضرت نے اس کے چار ٹکڑے کئے اور  
ہم سب نے ایک ایک ٹکڑا کھا لیا۔ حاجی صاحب نے عرض کیا کہ حضور آپ کھانا عبدالکریم صاحب  
کے ہاں پہنچ کر کھالیں حضرت نے فرمایا نہیں کسی کو بے وقت تکلیف دینا ٹھیک نہیں۔

دگاڑی رات کو غالباً نو بجے کے بعد پہنچتی تھی) آپ کو پیش ہو گئی۔ غالباً دو یا تین روز کیتھل میں قیام رہا۔ دورانِ قیام میں حضرت کو بہت آرام ملا اور آپ کی تکلیف رفع ہو گئی عبدالکریم صاحب نے بہت خدمت کی کئی لوگ داخلِ سلسلہ ہوئے۔ رات کو قریب کی مسجد میں وعظ ہوا اس وقت وہ مسجد بہت خستہ حالت میں تھی اس کے بعد ان لوگوں میں دین کی رغبت بہت زیادہ ہوئی، پرانی مسجد کی جگہ نہایت شاندار مسجد تعمیر کی اور نمازوں کی بھی بہت رونق بڑھ گئی۔ بیعت ہونے والوں میں سے ایک شخص کو بہت جوش ہوا، بے خبر لوگوں کو تعجب ہوا حتیٰ کہ مولانا قاضی فضل قدر صاحب کو جو جامع مسجد کیتھل کے خطیب اور علاقہ کے ہیڈ قاضی تھے سن کر بہت تعجب ہوا اور انھوں نے (غالباً اپنے ناموں) مولانا نذیر احمد عرشی (یا جو بھی نام ہوگا) سے استصواب کیا، وہ چونکہ اس راستے کے سالک اور مرید و مجاز اور کتبِ تصوف کے عالم و مصنف تھے اس لئے انھوں نے نہایت مفصل اور تسلی بخش جواب دیا جس میں جذب و جوش کی تائید اور ذکر الہی کی کیفیات اور سلسلہ عالیہ کی تزغیب پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے وہ سوال و جواب انہی دنوں رسالہ نظام الملتحیح دہلی میں شائع ہوا تھا جو اس عاجز نے بھی پڑھا اور اجاب کو دکھایا تھا۔ غرض اس طرح کیتھل میں سلسلہ کی تبلیغ جاری ہوئی۔ بھائی محمد عمر صاحب کیتھل والے بھی ان ہی ایام میں حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مزاراتِ کیتھل رحمت شاہ کمال صاحب کیتھلی و حضرت شاہ سکندر صاحب کیتھلی وغیرہ کی حاضری کے وقت وہ بھی ہمراہ رہے اور حضرت صاحب کی صحبت سے بہت متاثر ہوئے لیکن غالباً اس دفعہ داخلِ سلسلہ نہیں ہوئے بلکہ پھر کسی دفعہ کیتھل یا کسی اور مقام پر حاضر ہو کر بیعت ہوئے۔ واللہ اعلم۔



**تھانیسر کا سفر** | تھانیسر ضلع کرنال کے کچھ لوگ داخل سلسلہ ہوئے اور ان کی دعوت پر حضرت تھانیسر تشریف لے گئے غالباً ڈیڑھ دو روزہ قیام فرمایا۔ یہ معلوم نہیں کہ پھر دوبارہ بھی تھانیسر تشریف لے گئے یا نہیں۔ تھانیسر میں شیخ چلی صاحب کا مقبرہ ہے آپ وہاں بھی تشریف لے گئے تھے بہت کشش رہی لیکن کسی نے حضرت کو پہلے سے یہ بتایا تھا کہ یہ وہی شیخ چلی ہیں جن کے متعلق بیوقوفی کے لطیفے مشہور ہیں اس خیال سے حضرت نے وہاں مراقبہ نہیں کیا لیکن حیران تھے کہ یہاں تو عجیب کیفیات ہو رہی ہیں، یہ شخص بیوقوفی کے قصوں کے ساتھ کیوں منسوب ہے صرف فاتحہ خوانی کر کے واپس آگئے۔

خاکسار مولف اس سفر میں ہمراہ نہیں تھا جب کسی دوسرے مقام پر حاضر خدمت ہوا تو حضرت نے کسی موقع پر اس کا تذکرہ فرمایا عاجز نے عرض کیا کہ حضرت یہ شیخ چلی بڑے کامل بزرگ گزرے ہیں، جلد کشی زیادہ کرنے کی وجہ سے لوگ ان کو شیخ چلی کے لقب سے پکارنے لگے اور وہ شیخ چلی جس کے متعلق بیوقوفی کی حکایات و لطائف مشہور ہیں کوئی اور شخص ہے اور غالباً فرضی نام ہے اس کو ان بزرگ سے کوئی واسطہ نہیں، اس عاجز کو اسی طرح معلوم ہے واللہ اعلم بالصواب۔ تب حضرت کو اطمینان ہوا اور فرمایا یہی وجہ ہے کہ وہاں ایسے عمدہ حالات ظاہر ہوتے تھے اور اس شخص کی غلط رہنمائی پر افسوس کیا۔

**دیگر مقامات میں تبلیغ** | اسی طرح دیگر مقامات میں بھی ایک دوسرے کے ذریعہ سے تبلیغ دین کا سلسلہ قائم ہوتا اور بڑھتا چلا گیا صوفی عبدالحق صاحب کی دعوت پر میرٹھ، عبدالشہر پور وغیرہ اور حاجی جان محمد صاحب کی دعوت پر کاندھلہ، کیرانہ وغیرہ مقامات میں تشریف لے گئے اور اس طرح چراغ سے چراغ جلنے

چلے گئے کسی پنجابی شاعر نے خوب کہا ہے ۵

دیوے نالوں دیو ابالین ہندا بڑا سکھالا نوے سیرے کوئی دیو ابالے ہندا بڑا کٹا

جماعت کے لوگوں کی دعوت پر سال میں دو دفعہ حضرت تبلیغ کے لئے ہندوستان

سفر فرماتے اور ان مقامات پر کئی کئی دن قیام فرما کر اشاعتِ اسلام و سنتِ خیر الانا

ازکار و اشغالِ سلسلہ عالیہ فرماتے۔ دہلی میں جب قصاب پورہ کے لوگ داخلِ سلسلہ

ہوئے تو تکیہ والی مسجد میں (محلہ قصاب پورہ میں) قیام فرماتے رہے پھر جماعت کے لوگوں

انتظام سے مختلف جگہوں میں قیام فرمایا۔ زیادہ تر بھائی محمد بشیر صاحب کی بیٹھک

قیام پذیر رہتے تھے۔

رہتک میں مولانا حاجی عبدالمجید صاحب کے کسی عزیز کا مکان تھا ہمیشہ اسی

قیام فرمایا کرتے الا ماشاء اللہ۔ غالباً ایک دفعہ حاجی محمد شفیع صاحب کے نئے مکان

میں اور ایک بارش کی یاد تھی اور درِ گدردہ کی تکلیف کی وجہ سے حاجی صاحب کے مکان

کے نزدیک والی مسجد میں قیام فرمایا تاکہ چیزیں لانے کی سہولت ہو۔

پانی پت میں اولاً حکیم صداقت علی صاحب کے مکان پر قیام ہوتا رہا اور ان

انتقال کے بعد جب حاجی عبد القیوم صاحب داخلِ سلسلہ ہوئے تو ان کے اصرار

ان کے مکان پر قیام ہونے لگا۔

کرنال میں اول اول صدر بازار میں جماعت کے انتظام سے قیام ہوا کرتا

بعد ازاں جب بھائی عبدالرحمن صاحب کرنال والے داخلِ سلسلہ ہو گئے تو ان کے

نیز شہر میں تبلیغ کی سہولت کے پیش نظر ان کے مکان پر قیام فرماتے رہے۔ جناب عبدال

صاحب کرنال میں بزازی کی دکان کرتے تھے اور جب حضرت کا قیام ان کے ہاں ہوتا

حضرت کی خدمت میں ہر وقت لگے رہتے حضرت کے مہمانوں کی خدمت اور خاطر مدارات و اکرام کا بہت ہی زیادہ خیال فرماتے اور بڑی تیزی اور عجلت سے ہر کام کی طرف لپکتے حتیٰ کہ کئی دفعہ جلدی میں چوٹ بھی کھا لینے مگر محبت و جذبہ کے ماتحت مجبور تھے حضرت صاحب نے ان کو کئی دفعہ منع بھی کیا کہ جلدی نہ کیا کرو اور وہ اس پر عمل کی کوشش بھی کرتے مگر وہ مجبور تھے حتیٰ کہ حضرت صاحب کو اشارہ ہوا کہ عبدالرحمن کو اس کی عادت سے منع نہ کرو جس طرح کرتا ہے کرنے دو حضرت صاحب ان کی خدمت سے بہت متاثر ہوتے تھے اور حقیقت بھی ہے کہ وہ بڑے ہی بااخلاص بے تکلف و مقبول الہی شخص تھے۔ قوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مرحمت فرمائے آمین۔

گوہانہ میں جناب کنور محفوظ علی صاحب کی صاحبزادی (جو چودھرن کے نام سے مشہور تھی) کے اصرار اور کنور محفوظ علی صاحب کی خواہش پر ان کے مردانہ مکان میں قیام فرلنے رہے اور بڑی مسجد میں جہاں مولوی محمد سعید صاحب امام تھے نماز پڑھتے تھے۔ اخیر میں مولوی محمد سعید صاحب کے مکان کے نزدیک ایک مکان میں جو مولوی صاحب وغیرہ کے اہتمام سے حاصل کیا جانا تھا سہولت کے پیش نظر قیام فرماتے رہے اور اسی کے قریب والی مسجد میں جو غالباً قاضیوں والی مسجد کہلاتی تھی نماز پڑھتے اور مراقبہ وغیرہ ہوتا تھا۔ اسی طرح دیگر مقامات میں جماعت کے دوستوں کے اہتمام سے جہاں انتظام ہوتا قیام فرمایا کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔

شروع میں مرید ہونے والے لوگوں کی فہرست مرتب فرلنے تھے جس میں ان کے نام اور پتے وغیرہ درج ہوتے تھے اور یہ غالباً حضرت صاحب کے پیرومرشد قدس سرہ کے ارشاد کی تعمیل کے لئے تھا اور اس لئے تھا کہ اس سے لوگوں سے خط و کتابت کرنے اور ایک دوسرے سے ان کے احوال دریافت کرنے میں سہولت ہوتی ہے اور اپنے شیخ کو اطلاع بھی دینے تھے

کہ فلاں جگہ اس قدر لوگ داخل سلسلہ ہوئے اور فیضانِ باطنی حاصل کیا کیونکہ حضرت  
 خواجہ غریب نواز قدس سرہ السامی کو تبلیغ کے کام میں بہت ہی اہمک تھا اور اپنے خلفاء  
 بھی بہت تاکید فرماتے اور مختلف مقامات پر ان کو روانہ فرماتے رہتے اور ان سے حالاً  
 طلب فرماتے رہتے تھے کہ کتنے دن تبلیغ کے لئے سفر پر رہے اور کس قدر لوگ تبلیغ سے مستفیض  
 ہوئے ہیں۔ اگر کوئی خلیفہ صاحب ایک عرصہ تک کسی وجہ سے تبلیغ کے لئے نہ جاسکتے تو تاکہ  
 فرماتے اور فرماتے کہ بیوی بچوں سے اس قدر محبت ہوگئی ہے کہ اتنے عرصہ سے اللہ کے  
 میں سفر نہیں کیا۔ اللہ کی محبت سب پر غالب رہتی چاہئے اور اس کے حقوق کی ادائیگی  
 زیادہ کوشش کرنی چاہئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش رہتی تھی کہ  
 خلیفہ جب کچھ عرصہ اپنے بیوی بچوں میں گزار لے اور حلال کی کمائی سے اپنے بال بچوں  
 کے لئے کمالے تو پھر اس حلال و طیب کمائی سے کچھ خرچ کر کے اللہ کے رستے میں تبلیغ  
 کے لئے سفر بھی کرے اور کم از کم سال میں دو دفعہ ضرور ایسا کرے۔ واللہ اعلم بالصواب  
 اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بہت بہت اجر عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کے مقام  
 عالیہ کو ارفع فرمائے آمین۔ نیز ہم سب کو ان کے فیوض و برکات سے سرفراز فرمائنا ہے اور  
 ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیقِ حال فرمائنا ہے۔ آمین ثم آمین۔

جب کوئی شخص داخل طریقت ہونے کے لئے درخواست  
 بیعت فرمانے کا طریق کرتا تو اس کو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت فرماتا

اس طرح پر کہ خود بھی دو زانو بیٹھ جائے اور بیعت ہونے والے کو اسی طرز پر بٹھاتے اور  
 دونوں پاؤں داہنی طرف نکلے ہوئے ہوتے تھے اور بطریقہ مصافحہ اپنے دونوں دستوں  
 اس شخص کے دونوں ہاتھوں میں دیریتے اور صفتِ ایمان، کلمہ شہدا اور استغفار کلمہ

جز جز کر کے) پڑھتے جلتے اور مرید بھی ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا تھا اس کے بعد سب حاضرین  
 ساتھ مل کر دعائے مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ نیک عمل  
 نے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو دعائے اس وقت چاہتے مانگتے۔ اس کے بعد طریقہ ذکر  
 میں قربانے اور قلب کے مقام پر رہتے ہاتھ کی انگشت شہادت رکھ کر لطیفہ قلب پر  
 بِسْمِ اللّٰهِ تین مرتبہ یا اس سے زیادہ ضرب کرتے۔ ایک تسبیح درود شریف اور ایک تسبیح  
 متفقار پڑھنے کی تلقین فرماتے اور ہر وقت قلب پر ذکر کا خیال کرنے اور ایک خاص مقررہ  
 وقت پر طریقہ مخصوصہ سے ذکر کرنے کی ہدایت فرماتے تاکہ "ہاتھ کا ریس دل یار میں" کا مصداق  
 بجائے ذکر کا مفصل طریقہ عمدۃ السلوک مؤلفہ احقر مؤلف ہذا میں درج ہے جو حضرت  
 صاحب کی ہدایت و رہنمائی میں لکھی گئی ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

ایسے طالبین کے لئے جن کے پہلے شیخ کا وصال ہو چکا ہو اور وہ ابھی سلوک کی  
 ندائی منازل طے کر رہے ہوں یا ان کے شیخ کے حصول فیض کا سلسلہ کسی دیگر وجہ سے  
 اتم نہ رہ سکا ہو تجدید بیعت کو جائز رکھتے اور بیعت فرمایتے تھے بعض وقت اپنے  
 حضمریوں سے بھی خاص وجوہات کی بنا پر تکرار بیعت فرمائی ہے۔ وقت کی گنجائش  
 مطابق اکثر بیعت فرمانے سے پہلے خطبہ مسنونہ بھی پڑھتے اور کچھ مختصر نصاب بھی فرماتے  
 اس میں بیعت کے اغراض و مقاصد اور آداب و شعائر ہوتے۔ وقت کی گنجائش اور  
 جمع کی زیادتی کے وقت مسائل میں بھی اضافہ فرماتے۔ اگر داخل ہونے والے لوگ  
 زیادہ ہوتے تو بیک وقت سب کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ کے اوپر بطریق مصافحہ  
 اپنے ہاتھ میں لیتے یا کپڑا وغیرہ پکڑا کر ایک ساتھ دعا پڑھا دیتے عورتوں کو پردے  
 کے اندر رکھ کر اور خود باہر رہ کر داخل سلسلہ فرماتے اس طرح پر کہ کوئی کپڑا وغیرہ بھی

تہیں پکڑاتے تھے بلکہ جو کچھ حضرت صاحب پڑھتے جاتے وہ پردے کے اندر سے اس طرح پڑھتی جاتیں کہ مردوں تک آواز نہ پہنچے پائے۔ بعض اوقات جگہ کی تنگی کے پیش نظر درمیان میں چار پائی کھڑی کر لیتے اور اس پر یارسی پر کپڑا ڈلوادیتے غرضیکہ پردہ کا خاص اہتمام فرماتے۔ بعض وقت طالب کو استخارہ کی بھی ہدایت فرماتے کبھی کبھی کسی کے لئے توقف بھی فرماتے غالباً قلبی رجحان مانع ہوتا ہوگا ورنہ اکثر بیشتر بلا تردد داخل سلسلہ فرمایا کرتے تھے۔

آپ سے کچھ جنات بھی بیعت ہو کر فیضیاب ہوئے ہیں  
**اجنہ کا بیعت ہونا وغیرہ** جناب مولانا گوہار نوری مدظلہ العالی سے منقول ہے کہ

آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جنات بھی فیض لینے کو آتے ہیں اور فرمایا کرنال میں کئی جنات اس عاجز سے داخل سلسلہ ہوئے ہیں ایک جن کا نام جمعہ ہے ایک دفعہ گوہار نے میں بندہ حضرت صاحبؒ کے ہمراہ بیٹھا ہوا حضرت کے ہاتھ پاؤں دبارہا تھا اچانک فرمایا اٹھو اٹھو چلو۔ بندہ اٹھے لگا تو فرمایا نہیں نہیں تم نہ اٹھو میں بھول گیا مجھے تمہارا خیال نہ رہا۔ اصل میں جنات آئے تھے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ میری دوات قلم اور کتابوں کو چھیڑتے تھے، عاجز نے ان کو کہا تھا۔

جناب مولانا عبدالرشید خاں صاحب احمد پوری سے منقول ہے کہ حضرت کے پاس میں ایک مسجد ہے وہاں حضرت اعتکاف کیا کرتے تھے اور مغرب کے بعد مراقبہ بھی کرتے تھے۔ عبدالرشید خاں صاحب مسجد کے حجرے میں رہتے تھے اور آپ کے ساتھ مراقبہ شامل ہو جاتے تھے۔ دوران مراقبہ میں معلوم ہوتا تھا کہ کچھ اجنبی بھی ہیں جو شامل ہوتے ہیں۔ ایک دن حضرت صاحب سے دریافت کیا کہ حضور یہ کون لوگ ہیں فرمایا آپ

پیر بھائی ہیں یہ اُجنتہ میں سے ہیں۔ اس مسجد کے پاس ان کی بستی ہے معمولی سی جگہ میں لاکھوں  
 تن رہتے ہیں۔ صاحبزادہ کلاں مولانا محمد صادق صاحب نے فرمایا کہ اب بھی ان کے دیکھنے  
 کے مواقع پیش آتے رہتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب کا مکان مسجد ہذا سے بالکل متصل ہے  
 ولہٰذا ایک دن حضرت نے فرمایا کہ یہ عاجز حافظ بڑھن خاں صاحب کی مسجد میں  
 حد نماز تہجد اذکار و مراقبہ کے بعد وہیں آرام کے لئے لیٹ گیا ایک جن پاؤں دبانے  
 لگا۔ میں نے اس سے کہا آپ کون ہیں کہا کہ میں جن ہوں اس کھجور کے درخت پر رہتا ہوں  
 دوتپے ہیں، دیکھا کہ آپ تھک گئے ہیں تو ثواب کی خاطر پاؤں دبانے لگا۔

**مراقبہ کا طریق** | جب آپ جماعت کو مراقبہ کراتے تو جماعت کے تمام لوگ حلقہ کی شکل  
 میں بیٹھ جاتے اور آپ بھی حلقہ ہی میں شامل ہوتے تھے (اس طرح نہیں

بیٹھے تھے کہ آپ بیچ میں ہوں اور لوگ آپ کے چاروں طرف ہوں)۔ ہر شخص حسب توفیق  
 کچھ قرآن شریف پڑھ کر ایصالِ ثواب کرتا۔ عام طور پر الحمد شریف آیتہ الکرسی اور قل ہو اللہ  
 نین دفعہ یا چاروں قل والی سورتیں یا اور کم و بیش یعنی الہکم التکاثر وغیرہ یا شروع میں  
 درود شریف و استغفار وغیرہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ان کا ایصالِ ثواب حضرت اسلسلہ  
 کی ارواح کو ہدیہ کرتے اور اس کے بعد سب لوگ مراقبہ ہو جاتے اور سر پر دیوال وغیرہ  
 پھاڑا لیتے (اگر موجود ہوتا) جو منہ پر پڑا رہتا اس سے خیال بھٹکنے میں کمی ہوتی ہے واللہ اعلم  
 اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و فیضان کے انتظار میں بیٹھ کر بزرگانِ دین کے واسطے سے اس کا

لہ عن انس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا قرأتم بربیاء الجنة  
 قالوا اقلوا اوقار بیاض الجنة قال خلق الذکر (رواہ الترمذی) حضرت انس سے روایت ہے کہ  
 حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم بہشت کے باغوں میں سے گزرو تو میوہ خوری کر دو۔ صحابہ  
 نے عرض کیا وہ بہشت کے باغ کیا ہیں آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے (ترمذی شریف)

اخذ اپنے تمام لطائف میں کرتے۔ اکثر مریدوں کو توجہ عام دیتے اور کبھی کبھی توجہ خاص بھی دیتے جیسا کہ مشائخ نقشبندیہ کا طریق ہے۔ اگر کوئی اجنبی شخص (یعنی جو داخل سلسلہ نہ ہو بیٹھا ہوتا تو اس کو بھی مراقبہ اور ذکر کا طریقہ بتا کر شامل حلقہ فرما لیتے اگرچہ وہ بیعت نہ ہوتا۔ تسبیح کو اس طرح چلاتے کہ دانوں کے ٹکراؤ سے آواز پیدا ہوتی اور فرماتے کہ اس آواز کو بھی یہی خیال کرو کہ اللہ اللہ کی آواز ہے کیونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے (الم تر ان اللہ یسبحہ فاتی السموات والارض والطیر صفت سورہ نور) اور ہر آواز کو جو کہیں سے آئے یہی تصور کر کے اپنے خیال کو اسی تصور اور استماع ذکر اللہ اللہ پر محو کر دینا کہ حضور قلب میں کوئی چیز مانع نہ رہے باقی خیالات تو بخود ہٹ جائیں گے اور بمصداق حدیث قدسی

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي رُبِّي (میں اپنے بند کے گمان کے قریب ہوں) ذکر اللہ کے اجر کو مابور ہوگا۔ دوران مراقبہ میں آپ فارسی اردو وغیرہ کے حمد و نعت و ذوق و شوق کے اشعار بھی پڑھتے تھے اور بڑے پرسوز و پرورد دلچہ میں پڑھتے تھے بعض وقت جماعت کے آدمیوں میں سے کسی اچھے نعت خواں سے کوئی نعت و حمد وغیرہ خوش الحانی سے پڑھواتے یا کسی اچھے قاری سے قرآن شریف کا کوئی رکوع تلاوت کراتے۔ کچھ اشعار جو آپ پڑھتے تھے درج ذیل ہیں:-

ذکر گو ذکر تا ترا جان بست	پاکی دل ز ذکر رحمن بست
اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے	شیر و شکر ہر زباں ہر کام ہے
من خواہم جاہ ز مال و طمطراق	درد خواہم سوز خواہم اشتیاق
کفر کا فراد دین دیندار سا	ذرة درد دل عطار سا
برہ ساقی آں آب آتش لباس	کہ مستی کننا بل دل التماس



بندہ پروردگار امتِ احمدی  
 فریبِ حقیقہ دارم ملتِ حضرتِ خلیلؑ  
 عصیاں سے کبھی ہم نے کنارانہ کیا  
 ہم نے تو جہنم کی بہت کی ندیر  
 دوست دارِ چارِ یارِ ماہِ اولادِ علیؑ  
 خاکِ پائے غوثِ اعظمِ زیرِ سایہِ ہرولی  
 پر تو نے دل آزدہ ہمارا نہ کیا  
 لیکن تری رحمت نے گوارا نہ کیا

یہ چند اشعار آپ کی قلمی بیاض سے نقل کئے جاتے ہیں:-

نئے گویم کہ از عالمِ جدا باش  
 این دوروزہ عمر را فرصت شمار  
 عجب است با وجودت کہ وجود من بماند  
 بادرد بساز کہ دوائے تو منم  
 گر بر سر کوئے عشق من کشتہ شوی  
 پس ز جاناں وصل جاناں کن طلب  
 باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ  
 این درگہ مادرگہ نومیدی نیست  
 زہے فحالت اگر پرسد از گدا سلطان  
 چہ آورند گدایانِ مفلس از زنداں  
 دل لگا اپنا اپنے ہمدم سے  
 جو غافل حق سے اک دم بھی یہاں ہی  
 مراقبہ کا اختتام بالعموم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلوۃ  
 والسلام علی سید المرسلین کے الفاظ سے قرابتے اور اس کے بعد سب لوگ دعا مانگتے

آپ حتی الامکان بیماری میں بھی مراقبہ ترک نہیں فرماتے تھے۔ مولانا گوہانوی راوی ہیں کہ ایک روز حضرت سخت بیمار تھے تو بندہ نے خدمتِ عالی میں عرض کیا کہ آج حلقہ نہ فرمائیں کیونکہ آپ کو تکلیف ہے تو فرمایا مولوی صاحب گذرا ہوا وقت واپس نہیں آنا نیز خدا کی یاد میں ہی اصلی صحت ہوتی ہے خدا کے ذکر سے مرض نہیں بڑھتا چنانچہ مراقبہ فرمایا اور طویل مراقبہ فرمایا لیکن جب آپ کو کوئی شدت کی تکلیف ہوتی تو مراقبہ میں مریدوں کو توجہ نہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ توجہ کے وقت اسی مرض کا مرید پر واقع ہو جانے کا ڈر ہے اس لئے ایسی حالت میں توجہ سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اوکما قال

نیز حلقہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کو بعض لوگ ساتھ لے آتے تھے شامل نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کو رخصت کر دیتے اور وہاں سے الگ بھیج دیتے تھے اور فرماتے کہ ان کے قلوب محلی و مصتی ہوتے ہیں جو انوار و تجلیات ذکر الہی کرنے والوں کے قلوب پر پڑتی ہیں وہ ان بچوں کے قلوب پر معصومیت کی وجہ سے تہایت تیزی سے وارد ہوتی ہیں، وہ فوراً خذ کر لیتے ہیں اور برداشت کی قوت و ظرف نہ ہونے کی وجہ سے اکثر بہت قوی جوش اور بعض وقت موت وغیرہ پر منتج ہوتی ہیں۔ اس لئے فرماتے کہ چھوٹے بچوں کو حلقہ کے وقت ہمراہ نہ لایا کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

تقریباً تہائی رات باقی رہے تہجد کے لئے اٹھ جاتے تھے روز و شب کے معمولات استنجا وغیرہ سے فارغ ہونے پر وضو سواک کے ساتھ کر کے نماز تہجد عام طور پر چائے قیام پر ہی پڑھنے تھے جو تحیۃ الوضو کے علاوہ اکثر آٹھ رکعت پڑھتے کبھی دس یا بارہ رکعات بھی پڑھ لیتے تھے اور کبھی وقت کم ہو تو کم بھی۔ حتی الامکان بیماری و سفر و حضر وغیرہ میں بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ تہجد کے بعد عامانگے اور اس

دعائیں جماعت کے لوگوں کے لئے خاص طور پر دعا مانگتے تھے پھر مراقب ہو جاتے اور فجر کی سنتوں سے پہلے تک مراقب رہتے۔ فجر کی سنتیں مکان پر ہی ایسے وقت پڑھ لیتے کہ جس کے بعد اطمینان کے ساتھ مسجد میں جماعت شروع ہونے سے پہلے پہنچ جائیں (یعنی تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جماعت شروع ہوتی) فجر کی جماعت کے بعد اپنی قیام گاہ پر تشریف لا کر مراقبہ وغیرہ میں مشغول ہو جاتے۔ یہ مراقبہ اکثر جماعت کے لوگوں سے علیحدہ الگ کمرے میں تنہا فرماتے اور اس میں اپنے اسباق کا اعادہ فرماتے لیکن کبھی کبھی جہاں کہیں تنہائی کا موقع نہ ملتا تو جماعت کے ساتھ ہی مراقبہ فرما لیتے۔ بعد فراغت جب سورج سوائزہ یا اس سے زیادہ بلند ہو جاتا تو نماز اشراق و چاشت دونوں اکٹھی پڑھ لیتے۔ اس طرح کہ دو رکعت اشراق کی نیت سے اور چار رکعت چاشت کی نیت سے دو سلاموں سے پڑھتے تھے یعنی کل چھ رکعات پڑھتے اور فرماتے تھے کہ آج کل لوگوں کی مصروفیات زیادہ ہیں اس لئے یہی طریقہ مناسب ہے اور ہمارے حضرات کا اب یہی معمول ہے (اور یہ جائز اور صحیح ہے عمدۃ الفقہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ مؤلف) ورنہ چاشت کی نماز اکثر لوگوں سے بوجہ مشاغل دنیوی ناغہ ہو جاتی ہے۔ ویسے تو آپ کا چہرہ ہر وقت ہی بہت نورانی اور خوبصورت نظر آتا تھا لیکن مراقبہ کے بعد خصوصاً اشراق کے بعد جب خلوت سے باہر تشریف لاتے تو چہرہ پر انوار بہت برستے اور آپ بہت خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔

مردِ حقانی کی پیشانی کا نور      کب چھپا رہتا ہے پیشِ ذی شعور

اس کے بعد دوپہر کے کھانے سے پہلے تک لوگوں سے ملتے اور یہ وقت تعویذات وغیرہ دینے کا ہوتا تھا، اس مجلس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہوتے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ فرماتے اور ظہر کی نماز سے قبل اٹھ کر نماز کی تیاری فرماتے تاکہ جماعت شروع

ہونے سے پہلے سنتوں وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ ظہر کی نماز جماعت سے ادا فرمانے کے بعد اپنی قیام گاہ پر آکر تلاوتِ قرآن مجید اور دلائل الخیرات و حرب البحر و شجرہ شریف وغیرہ پڑھتے جب فارغ ہوتے جماعت کے لوگوں کے حال احوال پوچھتے اور اکثر کچھ دیر کے لئے مراقب بھی ہو جاتے۔ اتنے میں عصر کا وقت شروع ہوتا تو اس کی تیاری شروع ہو جاتی عصر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر آکر جماعت کے ساتھ مراقبہ کرتے اور مراقبہ سے پہلے ختم شریف حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ السامی و ختم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ السامی پڑھتے کبھی کسی اور ختم کا اضافہ کرتے مغرب کی نماز سے ذرا پہلے تک مراقبہ ہوتا بعد اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے اور نماز مغرب کے بعد دو سنتیں پڑھ کر چھ رکعات نماز نفل او ابین بنین سلاموں سے پڑھتے اور اس کے بعد شام کے کھانے کیلئے تشریف لے جاتے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ذرا آرام فرماتے کہ اتنے میں عشا کا وقت داخل ہو جاتا اور اس کی تیاری فرماتے۔ عشا کی نماز کے بعد وتر بھی اسی وقت پڑھ لیتے اور پھر کبھی مسجد ہی میں ایک طرف کو یا اپنی قیام گاہ پر آکر جماعت کے ساتھ مراقبہ فرماتے تھے۔ مراقبہ کے بعد لوگوں کو فرماتے کہ جائیں آرام کریں اور خود بھی آرام فرماتے۔ سونے سے پہلے کبھی کبھی سر میں تیل بھی لگواتے۔ نیند بہت کم آتی تھی اکثر اٹھنے کے وقت سے پہلے ہی بیدار ہو جاتے تھے۔

محبت امت کہ دل رانی دہد آرام و گرنہ کیست کہ آسودگی نمی خواہد

سوتے ہوئے کو جگانے کے لئے آپ کا معمول یہ تھا کہ آواز کے ساتھ اللہ اکبر ادا فرماتے

اس آواز کے سنتے ہی لوگ اٹھ بیٹھنے۔ حضرت کو جگانے کے لئے بھی آپ کے رفیق ہی لفظ

اللہ اکبر آواز سے ادا کرتے اور اب بھی جماعت میں یہی طریقہ رائج ہے۔ اس طرح ذکر الہی

بندے اللہ اکبر کا طریقہ

بھی ہو جاتا ہے اور اٹھانے میں ہلانے، کپڑا کھینچنے، نام لینے وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی جو کہ خلافِ ادب معلوم ہوتا ہے۔ مولف (گھر پر بھی معمولات تقریباً اسی طرح سے تھے مگر جو وقت سفر میں طالبین کی تربیت و ہدایت وغیرہ میں صرف ہوتا تھا گھر پر دوسری خانگی و خارجی مصروفیات میں صرف ہوتا تھا۔ اذکارِ مستونہ اور موقوفہ وغیر موقوفہ دعائیں جو کتبِ احادیث میں وارد ہیں اور حصنِ حصین میں یکجا جمع کر دی گئی ہیں نیز دیگر کتبِ تصوف و کتبِ ادعیہ میں مفصل درج ہیں آپ کو کافی یاد تھیں اور اپنے اپنے وقت پر ان کو ادا فرماتے تھے اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو کسی خاص موقع کی دعائے مستونہ یاد نہ ہو تو یہ دعا کر لیا کرے کہ اس موقع پر جو دعا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے یا الہی یہ عاجز بھی وہی دعا مانگتا ہے او کما قال۔

مسائل کی تحقیق کے بعد عمل میں بہت کوشش فرماتے تھے اور صحیح حنفی طریقہ کی پابندی فرماتے تھے اسی وجہ سے آپ کو اکثر جزئیاتِ مسائل از بر تھیں جو روزمرہ کے پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی یاد نہیں رہتیں۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ السامی کے معمولاتِ شبانہ روز کی خاص طور پر پابندی فرماتے تھے۔ ایک زیانہ میں جو آپ نے حضرت مجدد صاحب کے مکتوبات میں پڑھا کہ مجدد صاحب کے نزدیک اشارہ سبابہ کرنا ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے بھی ترک فرما دیا اور کافی عرصہ ترک رکھا چنانچہ اس زیانہ میں احقر مولف کو یاد ہے کہ عاجز نے بھی کافی عرصہ حضرت کی اتباع میں ترک رکھا۔ بعد میں پھر آپ اشارہ سبابہ کرنے لگے۔ دریافت کرنے پر فرمایا کہ میں نے سرسند شریف میں حضرت کے خاندان کے لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت مجدد صاحب نے اخیر عمر میں اس سے رجوع کر لیا تھا (اور غالباً یہ بھی فرمایا کہ حضرت مجدد صاحب کے رجوع کی کوئی تحریر بھی ان حضرات کے

پاس موجود ہے۔ (واللہ اعلم) جب مجھے اچھی طرح تسلی ہو گئی تو پھر سے شروع کر دیا ہے  
بعد ازاں عاجز مولف نے بھی شروع کر دیا۔ (واللہ اعلم بالصواب)

کبھی کبھی صلوٰۃ التسلیم بھی پڑھتے تھے۔ خصوصاً جمعہ کے روز نماز جمعہ سے پہلے اور  
رمضان المبارک میں تو ضرور پڑھتے تھے۔ خطوط کے جوابات نماز اشراق کے بعد سے دوپہر  
کا کھانا کھانے سے پہلے تک کے وقت میں تحریر فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب کسی دوسرے  
کا خط آتا ہے تو اس وقت بھی یہ عاجز اس کے لئے دعا کرتا ہے اور جب جواب لکھتا ہے تو  
جواب لکھنے سے پہلے بھی دعا کرتا ہے اور ذکر کے خیال میں ہی جواب لکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ  
جب حضرت کے مکتوبات گرامی متوسلین کو موصول ہوتے تھے تو لطائف میں ایک عجیب  
کیفیت ہوتی تھی اور ان کے پڑھنے سے بہت فیضان ہوتا تھا۔ تحریر بہایت جامع و باریک  
ہوتی تھی کوئی کتنا ہی بڑا خط لکھے حضرت کے مختصر جواب سے پوری پوری سیری حاصل  
ہو جاتی تھی اور کوئی پہلو نشہ نہیں رہتا تھا۔ خط بہایت پاکیزہ اور جلی ہوتا تھا۔ شروع  
خط کے دائیں طرف ازخادم الفقرا یا ازخادم الفقراء والعلماء والصلحاء سعید محمد قریشی ہا  
نقشبندی مجددی فضلی حنفی احمد پوری عفی عنہ الفاظ کی کمی بیشی کیساتھ تحریر فرمایا کرتے تھے  
بعد میں من محمد سعید قریشی ہاشمی عفی عنہ لکھنے لگے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور انور  
صلی اللہ علیہ وسلم بھی من محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) لکھوایا کرتے تھے۔ خطوط کے  
جواب ساتھ ساتھ دیتے کبھی کسی عارضہ وغیرہ کی وجہ سے غیر معمولی تاخیر ہو جاتی ورنہ  
عام طور پر جواب جلد دیتے۔ آپ کے چند خطوط بطور نمونہ درج ذیل ہیں:-

”حائداً ومصلياً۔ ازخادم الفقراء سعید محمد بخدمت جناب حضرت مولانا وسیدنا  
مولوی سید زوار حسین شاہ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ بعد از السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سرفراز نامہ پہنچا خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آنحضرت کو دین و دنیا میں سرفراز فرمائے۔ لیکن طالبِ مولا کو چاہئے کہ سوائے خدا کے خدائے تعالیٰ سے کچھ نہ مانگے۔ بیت

پس زجانا وصلِ جانا کن طلب بے لب و بے کام می گو نام رب

اور عرس شریف کے بعد حضرت پیر دستگیر کا فرمان بنام خلفاء احمد پور شرقیہ پہنچا کہ نئے مقامات پر سفر کرو روانہ ہو جاؤ جس پر حضرت خلیفہ محمد عبدالملک صاحب و مولوی محمد منیر صاحب مل کر روانہ ہو گئے۔ عاجز برداشتِ فصلِ ربیع و کاروبارِ ضروریات کے لئے رہ گیا فراغت پر حضرت مولوی عبدالمجید صاحب کی خدمت میں بطور مشورہ تحریر کیا کہ سفر کس طرف کو کیا جائے ان کا جواب آیا کہ گرمی شدت سے پڑ رہی ہے فی الحال سفر نہ کرو، اب موقعہ اچھا آیا ہے لیکن عاجز چند روز سے بیمار ہے مگر تعمیلِ حکمِ شیخ کا خیال ہر وقت دامنگیر رہتا ہے۔ انشاء اللہ آرام ہونے پر فوراً بطرفِ سرحد شریف روانہ ہو جاؤں گا کئی دن مزار شریف پر رہ کر بعد میں جس طرف کو خدائے تعالیٰ کو منظور و قبول ہو گا جاؤں گا آپ اپنا مشورہ سفر تحریر کریں۔ اور حضرت مولانا عبدالغفور صاحب و حضرت مولوی عبدالرشید صاحب کو عاجز کا السلام علیکم دیوں اور تمام جماعت کو بھی السلام علیکم دیوں قلم شکستہ ہے اور طبیعت علالت ہے اس لئے تحریر ایسی ہو رہی ہے۔“

”حادثاً و مصیباً۔ از خادم الفقراء، و علماء و صلحا سعید محمد قریشی ہاشمی نقشبندی

مجددی۔ برخوردار نور چشم راحت جان سعادت اطوار کا مگار سلمہ رہ۔“

دا، بعد از السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ، احوال نامہ پہنچا کیفیت من و عن معلوم

و مفہوم ہوئی۔ دعا کی گئی ہے اور اہل الذکر و بزرگانِ احمد پور سے بھی دعا کرانی گئی ہے اللہ تعالیٰ

آں برخوردار کو امتحان میں پاس فرمائے مگر قبل از امتحان تحریر کرتے تو اچھا تھا خیر اللہ تعالیٰ

اب بھی بہتری فرماتے۔

(۲) بر خوردار دنیا جہاں انسان کے لئے جائے آزمائش ہے نہ کہ آسائش جیسا کہ حدیث شریف ہے (کہ مومن کے لئے دنیا جہاں قید خانہ ہے)۔

کبھی پریشانی اور موخچہ ملال اور کبھی غم و الم غرض راحت ہی کم

موسم بہار چہ دن سردی اور گرمی ہے روزانہ ہمد

بندہ یعنی عبد کو چاہئے کہ ہر حال میں صابر اور شاکر رہے اور اس صبر شکر کی توفیق پروردگار

عالم سے مانگتا رہے۔ صبر کرنے سے اجر عظیم ملتا ہے اور بے صبری کرنے سے سوائے مرتکب گناہ

کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصیبت پر صبر کیا اللہ تعالیٰ نے آگ کو

گلزار بنا دیا اور حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام مال اولاد پھر پیدا

کر دیا۔ ایسے کئی واقعات قرآن شریف میں مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بیدار

الخبیر ہے جس حال میں بندے کی بہتری ہوتی ہے اسی طرح اس کو رکھتا ہے۔ پس

از دست و زبان کہ بر آید کز عہدہ شکرش بدر آید

(۳) جس وقت مکان تیار ہو جائے تو اس کے چاروں کونوں پر سات سات

منزبہ اذان با وضو زور سے دیویں اور قرآن شریف بھی چند دن منزل باواز بلند پڑھیں

اور کلمہ شریف موٹے حروف سے تکریر کر کے یا چھاپہ شدہ خرید کر کے گھر میں رکھیں۔ مگر سب سے

اول بعد تیار ہوئے مکان دو گانہ شکرانہ تیار ہوئے مکان مکان میں ادا کریں۔

(۴) عاجز کو اس قدر فرصت نہیں کہ برائے مذہب شیعہ و اعتراضات تحریر کر سکے

اس لئے آں بر خوردار کو چاہئے کہ مذہب شیعہ کے رد میں کتابیں اردو کی حسب ذیل دیکھیں:

رسالہ آفتاب صدق و صفا: قیمتی ۲۔ تفسیر آیہ تطہیر: قیمتی ۱۔ تفسیر آیہ مؤدۃ القرنی: قیمتی ۴۔



مقدمہ تفسیر آیات تیندیہ الحائرین مع تملکہ۔ درہ فاروقی خلافت از دیرالنجم قیمتی ۲۷  
 شیعہ سنی کا دلچسپ مناظرہ قیمتی ۲ فتح مبین قیمتی ۳ فتویٰ تعزیرہ داری مولانا شاہ  
 عبدالعزیز صاحب دہلوی ۶ جملہ تصانیف عبدالشکور صاحب از مقام لکھنؤ مطبع لکھنؤ  
 حضرت مولانا مولوی محمد عبدالشکور سے طلب کر کے مطالعہ میں رکھیں۔

(۵) آل برخوردار کی اہلیہ صاحبہ کی بیماری کے لئے تین تعویذ لمبے قی میں روز  
 کیلئے اور ایک بند شدہ گلے میں بانڈھنے کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شافی کافی ہے۔

(۶) ذکر اور مراقبہ کی کثرت کریں خواہ حرکت محسوس ہو یا نہ ہو۔ بندہ کا فرض صرف  
 دل سے خدا کی یاد کرنا ہے۔ نماز تہجد و اشراق و اوابین پڑھا کریں۔ کم سونا۔ کم بولتا۔ کم کھانا  
 لوگوں سے علاوہ وقت کام کے علیحدہ رہنا یعنی تنہائی اختیار کرنا۔ ان باتوں کی اپنے میں  
 عادت ڈالیں اس کا نام احتیاط اور پیر ہے۔ وقت تنگ ہے آئندہ بوقت ملاقات  
 کسی موقع پر کچھ عرض ہوگا۔ چونکہ سفر کا ارادہ فی الحال نہیں ہے جب سفر کروں گا تاریخ  
 معین سے انشاء اللہ مولانا اسلام الدین صاحب کو اطلاع دوں گا ان سے دریافت  
 کرتے رہنا۔ سب حال پرسان کو السلام علیکم ہوں۔“

”حاندًا ومصليًا۔ از خادم الفقار وعلما محمد سعید برخوردار سعادت اطوار سلمہ  
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکایت نامہ دربارہ ذکر و مراقبہ پہنچا۔ جواباً عرض ہے  
 حدیث میں ہے جو شخص پسند کرنا ہے خدائے تعالیٰ کا ملنا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے وصال  
 چاہتے ہیں اور جو شخص ملنا پسند نہ کرے اور دنیا کے مال و جاہ اور ساز و سامان سے جدائی  
 نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتے ہیں (رواہ ابوداؤد)۔ پس اگر  
 برخوردار کے دل میں اس راستگی کچھ خواہش ہے تو بندہ کے پاس بمقام احمد پور شرقیہ آنا

جانا رکھو یا سفرِ ہندوستان کے وقت ہمراہ عاجز کے سفر کرو اور اس راستہ کے حاصل کرنے کے علاوہ اور کوئی غرض نہ رکھو تو انشاء اللہ تعالیٰ کچھ عرصہ میں تصفیہٴ قلب اور تزکیہٴ نفس ہو جائے گا اور فضلِ الہی رونما ہوگا۔

علم آں باشد کہ جان زندہ کند      مرد را باقی و پایندہ کند  
قال را بگذار مردِ حال شو      پیش مردِ کالے پامال شو  
صد کتاب و صد ورق در تار کن      جان و دل را جانبِ دلار کن  
فی الحال کم سوتے کم بولنے کم کھانے کی عادت ڈالیں اور فرائض نماز کے علاوہ تہجد اشراق، اوابین کی پابندی کریں اور ذکرِ حق کو دل میں جمائیں۔

”حادثاً ومصلياً۔ از خادم الفقراء محمد سعید قریشی ہاشمی عفی عنہ۔ بخدمتِ حافظ صاحب سلمہ ربہ۔ بعد از السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عرصہ بعد خط پہنچا جو اباً تحریر ہے کہ حسبِ تحریر دعا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے تمامی حاجات تحریر بفضلِ خود پورے فرمادے اور آپ کو استقامتِ برکت عطا فرماوے۔ اور دوسرے سبق لطیفہٴ روح کی آپ کو اجازت ہے کرتے رہیں ہمت کر کے رات دن اس میں ہمراہ لطیفہٴ قلب کے ذکر اسم ذات کرتے رہیں اللہ تعالیٰ اس لطیفہ کو بھی خوب جاری فرمادے اور منور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور نصاب کے متعلق یہ عرض ہے کہ حضرت پیران کبار کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ادھالی سلسلہ کے وقت بیعت ترکِ معصیت التزامِ حیات پر لیتے اور اس کی تفصیل ضروری باتوں کی فرماتے چلے آئے ہیں تا بعد میں کوئی غرضِ مذموم حاصل نہ ہونے سے یا کسی امر کے متعلق نصیحت کرنے کے طالب کو تشویش نہ ہو۔ اس طریقہ کا مقصود صحیح اور جو جو کرنا یا چھوڑنا پڑے گا

معلوم ہو جائے۔ عاجز کا بھی یہی عمل رہا ہے کہ مختصر طور پر قبل بیعت عرض کرتا ہوں  
مگر بوجہ بیماری بوقت بیعت آپ کو عرض نہیں کر سکا۔ اب خط آنے پر بطور یادداشت  
تحریر خدمت ہیں۔ (حقیقتِ طریقت)۔

خلاصہ سلوک: (۱) نہ اس میں کشف و کرامات ضروری ہے (۲) نہ قیامت  
میں بخشوانے کی ذمہ داری ہے (۳) نہ دنیا کی کار براری کا دعویٰ ہے کہ تعویذ گندوں  
سے کام بن جائے یا مقدمات دعل سے فتح ہو جایا کریں یا روزگار میں ترقی ہو، یا جھاڑ  
پھونک سے بیماری جاتی رہے یا ہونے والی بات بتلا دی جایا کرے۔ (۴) نہ تصرف  
لازم ہیں کہ پیر کی توجہ سے مرید کی از خود اصلاح ہو جائے اس کو گناہ کا خیال ہی نہ آوے  
خود بخود عبادت کے کام ہوتے رہیں۔ مرید کو زیادہ ارادہ بھی نہ کرنا پڑے، یا علم دین و  
قرآن میں ذہن و حافظہ بڑھ جائے۔ (۵) نہ اس سے باطنی کیفیات پیدا ہونے کا کوئی  
معیار ہے کہ ہر وقت یا عبادت کے وقت لذت سے سرشار رہے عبادت میں خطرات  
ہی نہ آویں خوب رونا آوے ایسی محویت ہو جائے کہ اپنے پرے کی خبر نہ رہے۔ (۶)  
نہ ذکر و شغل میں انوار وغیرہ کا نظر آنا یا کسی آواز کا سائی دینا ضروری ہے۔ (۷) نہ عمدہ  
خواہوں کا نظر آنا یا الہامات کا صحیح ہونا لازمی ہے بلکہ اصل مقصود حق تعالیٰ کا  
راضی کرنا ہے، جس کا ذریعہ ہے شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا ان حکموں میں  
بعض متعلق ظاہر کے ہیں جیسے نماز روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ اور جیسے نکاح و طلاق  
وادائے حقوق زوجین و قسم و کفارہ قسم وغیرہ اور جیسے لین دین و پیروی مقدمات و  
شہادت و وصیت و تقسیم ترکہ وغیرہ اور جیسے سلام و کلام و طعام و نام و قعود و قیام  
و ہمانی و میزبانی وغیرہ ان مسائل کو علم فقہ کہتے ہیں اور بعض متعلق باطن کے ہیں

جیسے خدا سے محبت رکھنا، خدا سے ڈرنا، خدا کو یاد رکھنا، دنیا سے محبت کم ہونا، خدا کی مشیت پر راضی ہونا، حرص نہ کرنا، دل کا حاضر رکھنا، دین کے کاموں کو اخلاص سے کرنا کسی کو حقیر نہ سمجھنا، خود پسندی نہ ہونا، غصہ کو ضبط کرنا وغیرہ، ان اخلاق کو سلوک کہتے ہیں۔ اور مثل احکام ظاہری ان احکام باطنی پر عمل کرنا بھی فرض و واجب ہے۔ نیز ان باطنی خرابیوں سے اکثر ظاہری اعمال میں بھی خرابی آجاتی ہے جیسے قلتِ محبت حق سے نماز میں سستی ہوگئی یا جلدی جلدی بلا تعدیل ارکان پڑھ لی، یا بخل سے زکوٰۃ حج کی ہمت نہ ہوئی، یا کبر و غلبہ غضب سے کسی پر ظلم ہو گیا حقوق تلف ہو گئے، مثل ذلک اور اگر ان ظاہری اعمال میں احتیاط کی بھی جاتے تب بھی جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوتی وہ احتیاط چند روز سے زیادہ نہیں چلتی۔ پس نفس کی اصلاح ان دو سبب سے ضروری ٹھہری لیکن یہ باطنی خرابیاں ذرا سمجھ میں کم آتی ہیں اور جو کچھ سمجھ میں آتی ہیں ان کی درستی کا طریقہ کم معلوم ہوتا اور جو معلوم ہوتا ہے نفس کی کشاکشی سے اس پر عمل مشکل ہوتا ہے ان ضرورتوں سے پیر کامل کو توجہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ کر آگیا کرتا ہے اور ان کا علاج و تدبیر بھی بتلاتا ہے اور نفس کے اندر درستی کی استعداد اور ان معالجات میں سہولت اور تدبیرات میں قوت پیدا ہونے کے لئے کچھ اذکار و اشغال بھی تعلیم کرتا ہے اور خود ذکر اپنی ذات میں بھی عبادت ہے۔ پس سالک یعنی طالبِ مود و کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک ضروری کام شرعیہ ظاہری و باطنی کی پابندی اور دوسرا مستحب کہ کثرتِ ذکر ہے اس پابندی احکام سے خدائے تعالیٰ کی رضا قرب اور کثرتِ ذکر سے زیادتِ رضا و قرب حاصل ہوتا ہے یہ ہے خلاصہ سلوک کے طریق اور مقصود کا۔

(حقوق طریقت) تمام برادرانِ اسلام کو عموماً اور طریقہ نقشبندیہ الاول کو خصوصاً جن کے طریقے کی بنیاد سنت کی تابعداری پر ضروری ہے کہ حدیث اور فقہ کی کتابوں سے جو عربی داں ہیں وہ عربی کتابوں سے اور جو اردو داں ہیں وہ اردو کی کتابوں سے عقائد توحید وغیرہ کے مسائل اور فرائض و واجبات و محرمات و مکروہات و مستہبات سے واقفیت حاصل کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و عادات اور آپ کی عبادتوں کے طریقے معلوم کریں اور حتی الامکان سنت نبوی کی تابعداری کریں، خاص کر فرائض اور واجبات پر اچھی طرح سے پابند رہیں، مکروہات اور مستہبات سے پرہیز کرنے میں سنت کی حفاظت کا خاص خیال رکھیں۔ بدن کپڑے اور جائے نماز کی پاکی اور نماز کے شرائط کا اچھی طرح دھیان رکھیں، لیکن ظاہری ظہارتوں کو دساوس اور توہمات کے درجہ تک نہ پہنچائیں، پانچوں وقت کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کریں، اس بات کا خیال رکھیں کہ تحریمہ (تکبیر اولیٰ) فوت نہ ہو جائے۔ نمازیوں میں جو سب سے بہتر ہو اس کو امام بنائیں۔ جمعہ کی نماز کبھی ترک نہ کریں، نماز کی سن اور آداب کی اچھی طرح نگرانی کریں اور نماز کامل اطمینان کے ساتھ گذاریں، اور نمازوں کو مستحب اوقات میں ادا کریں، سنت راتبہ (جو بارہ رکعت ہیں) اور نماز تہجد جو سنت مؤکدہ ہے ان کو کبھی ترک نہ کریں۔ قرآن شریف کامل صحت اور خوش الحانی سے پڑھیں اور گا کر پڑھیں، اور کامل احتیاط کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے ادا کریں، لغو باتوں یا جھوٹ یا غیبت سے روزہ کا ثواب ضائع نہ کریں، تراویح ختم قرآن اور رمضان کے عشرہ اخیرہ میں اعتکاف کو اپنے اوپر لازم کر لیں، لیلۃ القدر کا خیال رکھیں، اگر نصاب شرعی کے مالک ہوں تو زکوٰۃ ادا کریں لیکن اس معاملہ میں سنت یہی ہے کہ اپنے پاس ضرورت سے زائد مال نہ رکھیں۔ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواجِ مطہرات کو فتح خیبر کے بعد سال بھر کے لئے چھ سو  
 کھجور جو عنایت فرمائے اور اپنے پاس ایک درم تک بھی نہ رکھا، اور اگر حج کی استطاعت ہو  
 تو حج کرے، اسی طرح گنجائش کی صورت میں عید کو صدقہ فطر و قربانی ضروری ہوگی، اور حلال  
 روزی کھائیں، خرید و فروخت کرتے وقت مسائلِ فقہ کا خیال رکھیں اور مشتبہ چیزوں سے  
 پرہیز کریں، اور لوگوں کے حقوق اور کنبہ کے حقوق ادا کرنے میں پوری کوشش سے کام لیں، اس لئے  
 کہ اگر اللہ کے حقوق میں کوئی تقصیر واقع ہو جائے تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر  
 اولیاء کبار کی سفارش سے معاف ہو سکتی ہے، برخلاف لوگوں کے حقوق کے کہ وہ معاف  
 نہیں ہو سکتے، اور خستہ یا عقیقہ یا شادی میں نہ جانا چاہئے اور نہ لوگوں کو جمع کرنا چاہئے  
 البتہ نکاح کے وقت پاس پاس کے مردوں کو جمع کر لینا چاہئے اور ولیمہ بھی حسب توفیق  
 کرنا چاہئے، اور موت کے وقت چلا کر نہ رونا چاہئے، آہستگی سے رونے میں کچھ مضائقہ نہیں  
 بدوں شرع کے مطابق تقسیم کئے ہوئے مردہ کے مال سے خیرات نہ کرنی چاہئے، اور اگر صحبتِ علما  
 و صلحا سے شرفِ مصاحبت نصیب ہو تو اس کو غنیمت سمجھے، بشرطیکہ وہ علماء بھی ایسے  
 ہوں کہ جو دنیا داروں سے دور رہتے ہوں، اگر صلحا کی صحبت نصیب نہ ہو تو تنہا بیٹھے رہنا  
 یا سو جانا بہتر ہے، صوفی کو جاہل اور فاسق و غافل لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہئے؛  
 صحبتِ تشاغل تراشاغل کند      صحبتِ غافل ترا غافل کند  
 غرض اپنا ہر کام اور فعل عبادات و معاملات شریعت کے مطابق جن کی تفصیل حدیث  
 اور فقہ کی کتابوں سے معلوم کی جائے عمل کریں۔ اور سالک پر یہ لازم ہے کہ ہر وقت  
 ذکر کے خیال میں رہے چلتے پھرتے کھڑے بیٹھے سوئے لیٹے کھاتے پیتے نہلتے بیت الخلاء  
 میں بیٹھتے، غرض کوئی لحظہ و آن بھی ذکر سے غافل نہ رہے۔ حدیث میں آیا کہ اہل جنت

سی اور چیز کی حسرت نہیں کریں گے سوائے اس گھڑی کے کہ جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ  
 ذکر کیا ہوگا، قولہ تعالیٰ واذکر واللہ کثیر العلامہ تفلحون (ترجمہ) خداوند تعالیٰ  
 بہت ذکر کرو تا کہ تمہیں بھلائی نصیب ہو۔ پس آدمی کے لئے اس سے بہتر اور کچھ نہیں  
 ہے کہ ہمیشہ اس کے دل میں خدا کی یاد ہو، تاکہ اس کی برکت سے، خدا کے ذکر کی کثرت سے  
 میرا اللہ کا خیال ہی جاتا رہے اور اپنے منہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پاوے  
 مانجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انجلیس من ذکر فی (ترجمہ) میں اس شخص کا، مہنشین  
 وں جو مجھے یاد کرے۔ اس سے اعلیٰ درجے اور بڑے بڑے رتبے حاصل ہوتے ہیں لیکن  
 بیعت کے دام کے گرفتاروں کو اس دولت سے کیا خبر اور غفلت کی نیند کے خمار آلودوں  
 اس بیان سے کیا اثر پیت

عند لیپ مست داند قدر گل چغدر از گوشتہ ویرانہ پرس  
 (ترجمہ) پھول کی قدر مست بلبیل ہی جانتی ہے ویرانہ جنگل کے کونہ کی بابت اگر کچھ  
 یافت کرنا منظور ہے تو اُلوسے پوچھو۔

پس تخریر پھنڈا خود پڑھیں اور سلسلہ کے آدمیوں کو بھی سنانے رہیں اور ایک نقل  
 لوی صاحب کو تخریر کر کے بھجوا دیں اگر وہ وہاں ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ کرادیں کہ  
 کوئی عاجز کی غلطی ہوگی وہ بذریعہ کارڈ یا لفاظہ اطلاع دیدیں گے۔ اور آپ عاجز کے  
 س سال بھر میں ایک دو مہینے تشریف لایا کریں یا ہمراہ سفر کیا کریں اور آئندہ جوابی لفاظہ  
 کارڈ ہمراہ بھجوا یا کریں ورنہ جواب نہیں بھجوا یا جائے گا۔ تمام جماعت کو اور حال پر سان کو  
 سلام علیکم۔ وقت ڈاک تنگ ہے بہت تیز لکھا گیا ہے سمجھ کر پڑھ لیویں۔

مریدین کو آپس میں بے محبت اور تعلق پیدا کرنے کی خوشخبری۔ حدیث حضرت

معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے ثابت ہو چکی ہے جو میرے ہی واسطے باہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور میرے ہی علاقہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور میرے ہی سبب ایک دوسرے کی زیارت و ملاقات کرتے ہیں اور میری ہی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ روایت کیا اس کو امام مالکؒ نے، فضیلتِ جماعتِ صوفیہ میں یہ حدیث صوفیائے اہل حق کی فضیلت اور ان کے لئے بشارت پر صاف دلالت کرتی ہے کیونکہ یہ صفات جو حدیث میں مذکور ہیں بالکل وجوہ ان حضرات میں مشاہدہ کئے جاتے ہیں، پیر و مرید میں محبت اور پیر بھائیوں میں الفت، اسی طرح دوسرے بزرگوں سے تعلق اور جان و مال سے دریغ نہ کرنا اور دروازے زیارت کے لئے سفر کرنے یہ امور ان حضرات میں محض خالصاً اللہ بلا کسی دنیوی غرض کے ہوتے ہیں۔ راز التکشف ص ۳۲۵

ربنا نقبل منا انک انت السميع العليم۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین۔ تمام شد

حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیشہ با وضو رہنے کی عادت رہی ہے کیونکہ احادیث میں با وضو رہنے اور با وضو اذکار کرنے

اور حفاظتِ وضو وغیرہ کے فضائل وارد ہیں کما ورد فی کتب الحدیث والفقه مشروحاً  
 (مثلاً عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَحْأَفِظُ عَلَى الْوُضُوءِ  
 إِلَّا مَوْمِنًا)۔ (مشکوٰۃ المصابیح کتاب الطہارۃ) (ترجمہ) ہمیں محافظت کرنا وضو پر مگر مومن  
 یعنی سنن و آداب وغیرہ کی اور ہمیشہ با وضو رہنے کی محافظت، کیونکہ اس کی پاک درگاہ  
 میں ظاہر و باطن کی طہارت کے بغیر حاضر ہونا ادب سے بعید ہے۔ نیز رسول اللہ



صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنِّیْ دُرِّیْ کَرِهْتُ اَنْ اَذْکُرَ اللّٰهَ اِلَّا عَلٰی طَهْرٍ (ترجمہ) میں مکروہ جانتا ہوں کہ بغیر طہارت (وضو) کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں۔ اس سے اذکار کے لئے با وضو رہنا مستحب ثابت ہوا اور بندہ کو لازم ہے کہ ہر وقت ذاکر و شاغل اور با حضور رہے اسلئے ہر وقت با وضو رہنا بھی مستحب ہوا، اگرچہ بلا وضو بھی اذکار جائز ہیں۔ پس ہمیشہ سے بزرگان دین کا شعار وضو کی محافظت اور اس پر دوام رہا ہے۔ واللہ اعلم۔ پس اگر احتیاسِ ریاح یا دیگر کوئی مرض عارض نہ ہوتا تو حضرت صاحبِ راتم الوضو رہتے تھے اور جب بیت الخلاء سے تشریف لاتے یا وضو کسی اور وجہ سے نہ رہتا تو تجدید فرماتے اور ہر وضو کے بعد دو رکعت نیتہ الوضو پڑھتے۔ اگر نماز کے لئے مکروہ وقت ہوتا تو نہ پڑھتے حدیث شریف میں آیا ہے: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تَنَوَّضًا فَيُحْسِنُ وَضُوعًا ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا يَنْتَلِبُهُمْ وَوَجْهَهُ اِلَّا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ رواہ مسلم (ترجمہ) فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس نہیں کوئی مسلمان کہ وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو پھر دو رکعت نماز پڑھے اپنے دل اور منہ سے متوجہ ہو کر (یعنی ظاہر و باطن کی حضوری سے) نگرہیں کے واسطے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ (المشکوٰۃ)

آپ ہمیشہ سواک کے ساتھ وضو کرتے تھے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے: عَنْ عَائِشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْضُلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَأْتَلُهَا عَلٰی الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَأْتَلُهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا. رواہ البیهقی فی شعب الایمان (ترجمہ) اس نماز کی فضیلت کہ جس کے لئے (وضو میں) سواک کی گئی ستر حصے زیادہ ہے اس نماز سے جس کے لئے (وضو میں) سواک نہیں کی گئی ہے۔ البتہ کسی وقت کسی عارضہ

یا سواک موجود نہ ہونے کی وجہ سے انگلی سے ہی اچھی طرح دانتوں کو رگڑتے تھے اور آپ کے دانت ہمیشہ سفید چمکدار رہتے تھے۔

اگر آپ کہیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں یا بیت النخل میں

**افشاء سلام**

یا وضو کی جگہ وغیرہ میں تشریف لے جاتے تو حاضرین کو السلام علیکم

کہہ کر جاتے اور جب واپس تشریف لاتے تب بھی السلام علیکم کہتے غرضیکہ ترویج سلام

میں بہت شغف تھا اور حدیث شریفہ پر عمل فرماتے تھے کہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

ایک حدیث میں فرمایا: **أَوْلَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُّنَا بَيْنَنَا**

السَّلَامَ بَيْنَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (ترجمہ) اور کیا نہ بتلاؤں تم کو ایک چیز کہ جس

وقت تم آپس میں اس کو کرو تو آپس میں دوست ہو جاؤ۔ پھیلاؤ اپنے درمیان سلام یعنی

آشنا و بیگانہ سے السلام علیکم کرو۔ ایضاً عن ابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا

شَجَرَةٌ أَوْ حِدَارٌ أَوْ حَجْرٌ ثُمَّ لَقِيَهِ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (ترجمہ) نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی اپنے بھائی مسلمان سے ملاقات

کرے پس چاہئے کہ اس پر سلام کرے، اگر حائل ہو ان دونوں کے درمیان درخت یا

دیوار یا پتھر (یعنی بڑا) پھر بے اس سے تو چاہئے کہ اس پر دوبارہ سلام کرے، یعنی

اس قدر مفارقت و بعد میں بھی سلام مستحب ہوتا ہے چہ جائیکہ زیادہ اور اس میں

سلام کے استجاب اور اس کے ادب کی رعایت میں کمال مبالغہ کا اظہار فرمایا ہے

البتہ مواقع مستثنیٰ میں پرہیز کرتے جن کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔

آج کل چونکہ یہ سنت کافی حد تک متروک ہو چکی ہے اس لئے اس کے افشاء میں مبالغہ

کرنا چاہئے اور ہمارے حضرت صاحبِ قدس سرہ السامی اجیلے سنت پر بہت زیادہ  
 حرص تھے کہ حدیث شریف میں ہے کہ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدًا فَسَادَ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ  
 مِائَةِ شَهِيدٍ (ترجمہ) جس نے فساداتِ امت کے وقت میری کسی سنت کو زندہ کیا  
 اس کے لئے سو شہید کے برابر اجر ملے گا۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ (المشاوۃ)

حضرت صاحبِ قدس سرہ کو زیارتِ حریم شریفین کا  
**حج بیت اللہ شریف** | شوق از صد امتگیر تھا چنانچہ آپ نے ایک دفعہ  
 حج ادا فرمایا شیخ عبداللہ شیبی بن عبدالقادر شیبی سے اجازتِ استغفار کبیر حاصل

کی اور یہی شیخ عبدالقادر امین حج میں آپ کے معلم بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے  
 مقاماتِ مستجاب میں دعا کی ہے کہ اللہ پاک میری جماعت کے لوگوں کو بھی حج بیت اللہ  
 شریف اور زیارتِ حریم شریفین سے مشرف فرمائے۔ اور اس کی قبولیت کے آثار بھی  
 وہیں ظاہر ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت کی زندگی ہی میں جماعت کے بہت سے  
 لوگوں نے حج بیت اللہ و زیارتِ حریم شریفین کا شرف حاصل کیا اور بہتوں نے آپ کے  
 وصال کے بعد اور ہر سال جماعت کے کچھ نہ کچھ لوگ اس سے مشرف ہوتے رہتے ہیں۔

آپ نے فرمایا کہ زیارتِ حریم شریفین زاد سہا اللہ تعالیٰ شرفاً و تعظیماً کے وقت  
 عجیب و غریب فیوض و برکات و انعاماتِ الہی حاصل ہوئے ہیں کہ زبان ان کے بیان  
 سے قاصر ہے۔ نیز فرمایا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لئے لوگ کلید بردار خادم کو کچھ روپے  
 نذرانہ دے کر اندر جاتے تھے اور بڑی بھڑ اور دھک پیل بھی تھی یہ عاجز ایک طرف کھڑا  
 سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، اللہ پاک کی جناب میں دعا کی چنانچہ قبول ہوئی۔ خانہ کعبہ کے  
 خادم نے اس عاجز کو اشارہ کر کے بلایا اور اندر داخل کر دیا۔ پھر یہ عاجز اپنی مرضی سے

کافی دیر اندر رہا کسی نے جلدی نکلنے کا تقاضا نہ کیا۔ مسنون مقام پر نماز پڑھی دعائیں مانگیں اور اپنی مرضی سے باہر آیا۔ اوکما قال۔

دوسری دفعہ بھی آپ کا حج کو جانے کا ارادہ تھا اور اس سفر کے لئے زادِ راہ کی رقم تیار کر رکھی تھی کہ دوسری جنگِ جرمن کی وجہ سے راستہ کی رکاوٹ پیدا ہو گئی حکومت نے راستہ بند کر دیا مجبوراً رکتا پڑا پھر کوئی موقع میسر نہ آیا اور ابھی جنگ ختم نہ ہوئی تھی اور راستے نہیں کھلے تھے کہ آپ اس جہانِ فانی سے رحلت فرما گئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

سے دامانِ نگہِ گلِ حسن تو بسیار۔ کلچین بہارِ تونہ دا ماں گلہ دارد۔  
**حلیہ مبارک** | قدیمانہ پورا، سڈول جسم، اعضا ہایت متناسب، رنگ سفید گزلی

دارھی کم گنجان، ٹھوڑی پر رخساروں کی بہ نسبت ذرا زیادہ بال تھے مگر منت بھر سے چھوٹے اس لئے کٹانے کی نوبت ہی نہ آئی تھی، کشادہ پیشانی، ناک کھڑی، لبیں باریک رکھتے کبھی مشین سے کبھی قینچی سے باریک کراتے تھے، آنکھیں سرمئی پتلیاں سیاہ، سر کے بالوں پر کبھی استرہ کراتے تھے اور کبھی مشین۔ بدن تہایت ملائم تھا۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں نہیں پھٹتے تھے اس لئے موزے وغیرہ نہیں پہنتے تھے۔ رانیں اور پنڈلیاں بھری ہوئیں، دوہرا بدن۔ گرمی کے موسم میں آپ کے جسم پر گرمی دانے نہیں نکلتے تھے حالانکہ ریاست بھاو پور میں گرمی بڑی شدت کی پڑتی ہے۔ ابتدا میں صحت اس قدر اچھی تھی کہ سردی میں بھی معمولی اور باریک کپڑا پہنتے تھے اور لوگ حیران رہتے تھے۔

سفید تہ بند جو آدھی پنڈلی سے ذرا نیچے تک ہوتا تھا کرتہ سیلی یا بادامی دھاری  
**لباس** | کی گبروں (شرٹنگ) یا سفید ململ وغیرہ کالٹیوں والا گھٹنے سے کچھ نیچا ہوتا  
آئین کوٹ کی وضع کی یعنی مونڈھے کی طرف سے کھلی (چوڑی) اور پیچھے کی طرف سے

نسبتہ تنگ آگے سے ٹرپی ہوئی۔ کیسہ داہنے پہلو پر۔ بیان نہیں پہنتے تھے۔ صاف سفید  
 ملل کا پانچ سو پانچ گز انگریزی کے انداز کا، اس کے نیچے سینکوں (گیہوں وغیرہ کی نالی)  
 کی ٹوپی۔ اخیر عمر میں یعنی حج کے بعد عربی ٹوپی پر بھی صاف بانڈھتے۔ روبال کنڑھے پر ڈالنے  
 کے لئے ہوتا جو نماز کے لئے مصلا کا کام بھی دیتا تھا۔ سبز کا ہی رنگ کا موٹے کپڑے کا ہوتا یا  
 عربی روبال ہوتا۔ جوتے اپنے شہر کے دیسی ریاستی وضع کے پہنتے تھے۔ غسل کے وقت جوتے  
 کو بھی دھویتے تھے۔ صفائی و پاکیزگی کا بہت خیال رکھتے تھے، لباس بہت صاف ستھرا  
 ہوتا تھا، کپڑا بہت کم میلا ہوتا تھا۔ سفر میں تقریباً چار پانچ جوڑے اور کچھ کتابیں جن  
 میں علم فقہ، تعویذات کی بیاض، کوئی تصوف کی کتاب یا رسالہ، نیز اپنے وعظ وغیرہ کیلئے  
 کچھ یادداشتیں شامل تھیں۔ ایک چھوٹی سی گٹھری کی شکل میں رکھتے تھے۔ ہاتھ میں عصا  
 رکھتے تھے۔ صدی بھی پہنتے تھے۔ صدی عام طور پر سفر وغیرہ میں ٹکٹ اور پیسے رکھنے  
 کے لئے پہنتے تھے ویسے نہیں البتہ سردیوں میں کالے اٹالین کی روئی دار صدی پہنتے  
 تھے۔ نقدی پاس نہیں رکھتے تھے جب کسی کے پاس پہنچتے اس کے پاس یا سفر میں کسی  
 رفیق سفر کے پاس امانت رکھ دیتے اور حسب ضرورت خرچ کے لئے اس سے دلوانے  
 رہتے تھے۔ پاجامہ (یعنی کم گھیر والی شلوار) بھی کبھی کبھی پہتا ہے۔

**خوراک وغیرہ** | کھانے پینے، سونے، اٹھنے بیٹھنے و جملہ امور زندگی میں سنت کی  
 پابندی کا از حد خیال رکھتے تھے۔ سادہ غذا پسند فرماتے۔ سبزی  
 خاص طور پر گھیا وغیرہ سے رغبت تھی۔ سادہ مونگ کی دال، سادہ شوربہ دار گوشت یا  
 سبزی والا گوشت عام غذا تھی۔ جہانوں کے ساتھ بھی نہایت سادگی کا برتاؤ فرماتے  
 تھے ایک آدھ وقت جہان نوازی کے طور پر کوئی سیٹھی چیز حلوا وغیرہ بھی پیش کرتے تھے۔

کھانے میں تقویٰ اور طہارت کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ ایک ہی قسم کا سالن پکواتے  
 تھے اور جہاں خود ہمان ہوتے تو وہاں بھی یہی تاکید فرماتے اگرچہ لوگ اپنی مرضی سے  
 پھر بھی زائد تکلف کر جاتے تھے مگر جو پرانے ساتھی ہوتے تھے وہ حضرت کی خوشنودی کا  
 زیادہ خیال رکھتے تھے۔ کھانا الگ برتن میں اکیلے کھاتے تھے مگر کبھی کبھی کسی کو شامل  
 بھی فرما لیتے تھے (اور یہ تقویٰ کی وجہ سے ہوتا تھا) ہندوؤں کے کھانوں یا بے نمازی  
 کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیزوں سے بہت پرہیز فرماتے تھے اور جماعت کے دوستوں کو بھی  
 تاکید فرماتے تھے اور یہ پاپندی حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ و رحمۃ اللہ علیہ کی  
 تمام جماعت میں پائی جاتی تھی حتیٰ کہ بعض لوگوں کے واقعات میں ہے کہ اگر لائے علمی میں  
 کوئی ایسی چیز کھانی گئی جس کی طہارت وغیرہ میں خرابی تھی یا بے نمازی یا ہندو وغیرہ  
 (غیر مسلم) کے ہاتھ کی تھی تو اندر سے طبیعت نے قبول نہیں کیا اور قے ہو گئی۔ اُس کنوئیر  
 سے جس پر ہندو پانی بھرتے تھے وضو کرنے یا دیگر استعمال کے لئے پانی لینے سے بھی پرہیز  
 کرتے تھے اور کبھی لائے علمی سے ایسا ہو گیا تو علم ہوتے پر ان نمازوں کو لوٹاتے تھے اور کپڑے  
 بدن کو پاک کرتے تھے۔ چائے، پان، حلقہ وغیرہ کسی چیز کی عادت نہیں تھی بلکہ ان  
 چیزوں کو اسراف میں شمار کرتے تھے۔ حلقہ، سگریٹ بیری اور پان میں تمباکو کھانے وغیرہ  
 بہت شدت کے ساتھ منع فرماتے تھے کہ منہ میں بدبو ہو اور اللہ کا ذکر کریں یہ بات ٹھیک  
 نہیں ہے اور یہ اتوار الہی سے محروم رہنے کا سبب بنتا ہے۔ کھانا دوپہر کو گیارہ بجے کے  
 اندازے سے کھا لیتے تھے اس کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے تک قیلوہ فرماتے تھے اور سفر  
 شام کا کھانا مغرب کی نماز کے بعد تناول فرماتے تھے اور گھر پر عصر کے بعد یعنی مغرب  
 پہلے کھا لیتے تھے۔ صبح کو ناشتہ نہیں فرماتے تھے۔

**رفقار** | جب ذرا دور جانا ہوتا تو بہت تیز چلتے تھے گویا کہ زمین اُن کے پاؤں کے نیچے سمٹ رہی ہے اور ساتھ والوں کو یا تو بہت تیز یعنی تقریباً بھاگ کر چلنا پڑتا یا وہ پیچھے رہ جاتے۔ عام چلنے میں بھی دوسروں سے تیزی ہوتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا بلندی سے نیچے کی طرف اترے آرہے ہیں۔ دونوں پاؤں یکساں قوت کے ساتھ اٹھتے تھے اور پڑتے تھے حتیٰ کہ جوتا یکساں گھستا تھا اور کسی خاص طرف کو جھکتا نہیں تھا۔

(عن علی بن ابی طالب فی الحدیث إذا مشی تکفأ تکفأ کأما ینحط من صیب الحدیث یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو آگے کی جانب جھکے ہوئے چلتے تھے گویا بلندی سے نشیب میں اترتے ہیں۔ <sup>(شکوہ)</sup> دیگر عن ابوہریرۃ فی الحدیث و ما رأیت أحدا أسرع من منبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأما الأرض تطوی لہ انما لنجد أنفسنا وإنہ لغير مکتزت رواہ الترمذی) میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رو چلنے میں نہیں دیکھا گویا زمین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لپٹی جاتی تھی تحقیق ہم البتہ کوشش میں ڈالتے تھے اپنی جانوں کو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر واکرنے والے تھے یعنی بے تکلف تیز چلتے تھے۔

**اخلاق و عادات** | سہ سعید ازل آبدہ نام اوج سعادت بود اولیں کام او آپ سرایا اخلاق تھے اور حقوق العباد کا بڑا لحاظ فرماتے تھے۔ گھر والوں کے جائز حقوق ادا کرنے میں پوری سعی فرماتے تھے چنانچہ آپ نے دونوں صاحبزادوں کو دینی تعلیم کی تکمیل کے لئے بڑی سعی فرمائی اور دونوں صاحبزادے بفضلہ تعالیٰ فارغ التحصیل عالم باعمل ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق اہل محلہ اور اہل شہر سے معاملات اور ان لوگوں کے حقوق کا لحاظ یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک فرماتے تھے

مریضوں کی عبادت فرماتے اور ان کے لئے دعا فرماتے اور تعویذات اور جھاڑ پھونک وغیرہ جو سلسلہ میں متواتر ہیں ان کے لئے تیار فرماتے ان کی مالی امداد بھی فرماتے۔ ہندو بھی آپ کے تعویذات لیتے رہتے تھے اور ان کے لئے تعویذ میں آیات قرآنی و حدیث شریف ہیں لکھتے تھے بلکہ دوسرے نقوش جو حضرات میں مستعمل ہیں دیتے تھے اور یہ فرماتے کہ فائدہ کے بعد اس کو کنوئیں وغیرہ میں ادب سے ڈالنا تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ بعض مریضوں کے دفع مرض کے لئے توجہ بھی فرمائی ہے اور اس توجہ کے اچھے اثرات ظاہر ہوئے ہیں مسلمانوں کے جنازہ کے ساتھ جلتے (متابعت کرتے)۔ محلہ کی مسجد کے لئے میت کے غسل کے واسطے تختہ بنوایا یہاں پہلے اس کا رواج نہیں تھا۔ خود جا کر لکڑی خریدوائی اور جناب مستری شمس الدین صاحب اسمعیل آباد والے کو ساتھ لیکر خود اٹھا کر لائے اور تیار کر کر رکھا وہ اب تک موجود ہے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے۔ حتی الامکان ایام مستونہ میں سفر فرماتے اور باٹورہ دعائیں پڑھتے، دنوں کو نحس نہ جانتے تھے، خلاف شرع جلسوں اور دعوتوں میں شرکت نہ فرماتے مشروع و محتاط دعوتوں میں شرکت فرمالتے تھے۔ آداب شرع کے ترک پر بہت استغفار فرماتے۔ بغمتوں کا شکر اور نکالیف پر صبر فرماتے تھے بلکہ مقامات عشرہ سلوک یعنی توبہ، انابت، زہد، قناعت، ورع، شکر، صبر، توکل، تسلیم، رضا آپ کی عادت تالیف بن چکے تھے۔ وضو سواک کے ساتھ فرماتے تھے غریبوں کی مدد فرماتے۔ بعض طالب علموں کے لئے کھانا بھی گھر سے مقرر تھا اور ان کو گھر میں جگہ بھی دی

لہ عن انس بن محمد بن عیسیٰ بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه کان یعود المریض ویتیم الجنائزۃ (الحديث) حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عبادت فرماتے اور جنازہ کے ساتھ جلتے۔ (الحديث)



ہوئی تھی۔ محلہ کی مسجد کی خدمت خود بہت زیادہ کرتے، اس کا کچھ حصہ اپنے خرچ سے خود بنوایا۔ اس مسجد میں سفیدی کرائی جس میں سبز کا ہی رنگ ملا یا خود پاس بیٹھ کر پکایا اور یہ خیال فرمایا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبدِ خضریٰ کی سنبری کا اتباع کر کے اس مسجد میں رنگ کرایا جائے جو پختہ ہو چنانچہ اب تک وہ رنگ بدستور ہے اور دیکھنے سے اب بھی روضہ اطہر کے گنبدِ خضریٰ کا رنگ و نقشہ سامنے آجاتا ہے۔ زبان نہایت شیریں، الفاظ بالکل عام فہم اور واضح رکھلے کھلے ہوتے تھے۔ تقریر اور تحریر نہایت جامع اور موثر ہوتی تھی۔ بات کو دو تین دفعہ دہراتے تھے تاکہ خوب سمجھ میں آجائے بلکہ بعض وقت چار دفعہ تک بھی دہراتے۔ قصول گفتگو نہیں کرتے تھے بلکہ طویل السکوت تھے۔

آپ کو خلافِ شرع امور اور بدعات سے بچنے ہی سے دلی نفرت تھی اور خلافِ شرع صحبت اور مقام کو ترک فرماتے تھے۔ آپ ہر شخص ادنیٰ و اعلیٰ واقف و اجنبی کی نہایت محبت اور اخلاق کا برتاؤ فرماتے۔ ایک دفعہ آپ سے ملنے کے بعد ہر شخص آپ کے اخلاق کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ آپ کا ہر ایک مرید اپنی جگہ پر یہ سمجھتا تھا کہ حضرت کی سب سے

لہ عن جابر قال کان فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترسیل و ترسیل  
رواہ ابوداؤد (ترجمہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں (پڑھنے میں) ترسیل یعنی الفاظ واضح اور جدا  
جدا کر کے پڑھنا اور (گفتگو میں) ترسیل بھی یعنی بات ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسا پے درپے اور متصل نہیں ہوتا تھا کہ سننے والے پر شبہ ہو جیسا تم لوگ پے  
درپے کلام کرتے ہو بلکہ حضرت اس طرح جدا جدا الفاظ بولتے کہ اگر کوئی گنا چاہتا تو ان کو گن لیتا۔  
(متفق علیہ) زکان محذات حدیثاً لوعده العاد (احصاء)۔  
لہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت رواہ جابر بن سمرہ  
فی شرح السنۃ (ترجمہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک خاموش رہتے تھے۔

زیادہ محبت اور حسن سلوک میرے ہی ساتھ ہے۔ تواضع اور حلم حد درجہ تھا۔ نماز خود نہیں پڑھاتے تھے بلکہ اکثر و بیشتر حضرت مولانا محمد سعید گوہانوی یا حضرت مولانا حاجی عبدالمجید صاحب پڑھاتے۔ کبھی رفقائے سفر میں سے جس کو حضرت ارشاد فرماتے نماز پڑھایا کرتا اور جہاں کوئی امام مقرر ہوتا تو اس کے پیچھے پڑھ لیتے کبھی کبھی جماعت کے لوگوں اور مسجد کے نمازیوں کے اصرار پر آپ نے خود بھی نماز پڑھانی ہے جو نہایت پرسوز لہجے اور موثر انداز میں ہوتی تھی۔ آپ اکثر متبسم رہتے تھے کبھی آپ کو زور سے (آواز سے) سنتے نہیں دیکھا گیا اگر کبھی کوئی بہت ہی زیادہ ہنسی کا موقع ہوتا تو آپ کپڑا وغیرہ منہ کے آگے کر لیتے اور قہقہہ مار کر کبھی نہیں ہنستے تھے البتہ مسکراہٹ ہر وقت منہ پر کھیلتی رہتی تھی (حدیث شریف میں آیا ہے: عن عبد اللہ بن الحارث ابن جزء قال ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذی (ترجمہ) عبد اللہ بن الحارث نے کہا کہ میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا نہیں دیکھا۔ عن عائشہ قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجماً عاصحاً حتى أرى منه لهواً يتهانماً كان يتبسم رواه البخاری (ترجمہ) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں آپ کا کواجو تالو میں ہوتا ہے دیکھوں بیشک آپ اکثر مسکراتے تھے۔

**حقوق ہمسایگی** | آپ اپنے ہمسایوں کے حقوق کی بہت رعایت فرماتے تھے ان کی عبادت فرماتے اور ضروریات میں ان کے کام آتے تھے مستحقین کو انج و پیسے وغیرہ بھی بہت تقسیم فرماتے رہتے تھے۔ آپ کے ایک ہمسایہ نور محمد نامی نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میں بیمار ہوا تو ایک شخص روزانہ کنڈی کھٹھانا اور حال

دریافت کر کے دوائی بازار سے لا کر دے جانا۔ گھر کے لوگ حیران تھے کہ یہ کون شخص ہے  
جب تندرست ہو گیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو میرے پڑوسی محمد سعید قریشی صاحب ہیں جس  
میں ان کی بزرگی کا بہت معتقد ہوا۔

**زیر کی** | راز صاحبزادہ مولانا محمد صادق صاحب (آپ بہت ہی ذہین اور زیرک تھے  
آپ کی رائے نہایت صائب اور بر محل ہوتی تھی۔ ابھی آپ چودہویں سال  
میں تھے کہ آپ کے والد ماجد کا سایہ مہر سے اٹھ گیا۔ تمام کاروبار خانگی کو خود سنبھالا۔ زمیندار  
کے کام میں خود دلچسپی لی، کم سنی میں ہی افسران آپ کو دیکھ کر تعجب کرتے بلکہ ڈپٹی کمشنر  
کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے تھے کہ بچہ عمر کا تو چھوٹا ہے مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تجربہ کار  
انسان ہے آپ کی دانائی چہرے سے عیاں تھی۔ تمام کام نہایت سلیقہ اور انتظام کے  
ساتھ فرماتے تھے گھر کا سامان اناج کپڑا وغیرہ جو اکٹھا لیا جاسکتا ہے چھ مہینے کے لئے  
اکٹھا خرید لیتے تاکہ پھر روزانہ ان ہی چیزوں میں طبیعت نہ الجھی رہے۔ سوائے روزمرہ کی  
چیزوں مثلاً گوشت بستریوں وغیرہ کے، آپ نے زمینوں کے متعلق کاغذات اور رجسٹر  
نہایت باقاعدہ اور عجیب و غریب ترتیب کے ساتھ بنائے تھے کہ ہر زمانہ کی یادداشت  
بآسانی ان میں سے مل جاتی تھی اور بار بار پٹواری کے پاس جانے اور نقلیں و نقشے وغیرہ  
مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔

**خلوت گزینی** | آپ تنہائی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ گھر میں ایک خاص حجرہ تھا  
جس میں آپ بیٹھ کر اپنے عام معمولات پورے فرماتے گا ہے گا ہے  
گھر سے علیحدہ ہو کر جنگلوں میں چلے جاتے اور راستے میں ذکر فرماتے جاتے اور زبان سے  
لفظ اللہ اللہ اللہ جہر کے ساتھ ادا فرماتے اور فرماتے کہ جب چند پرند اور ہر چیز اللہ اللہ

کر رہی ہے تو یہ عاجز کیوں غفلت کے ساتھ چلے اور ان کے ساتھ مل کر ذکر کیوں نہ کرے  
اس طرح زمین و درخت وغیرہ بھی گواہ رہیں گے کہ یہ ذکر کرتا تھا۔ (روان من شیخ الایسیہ  
مجده ولكن لا تفقهون تسبیحہم الآیہ) سفر میں بھی آپ صبح کی نماز کے بعد سے اشراق  
تک اپنے معمولات و اسباق سلسلہ ادا فرماتے تھے۔

علم لدنی (رولہ) علم دو قسم ہے (۱) لذنی (۲) کسی۔ کسی کی مثال ایسی ہے کہ  
ایک تالاب کھود کر اس میں پانی بھر دیا جائے تو جتنا پانی اس میں بھرا گیا

اسی قدر رہے گا اور اگر اس میں کوئی نہر ملادی جائے تو پھر اس میں سے خوب پیو، خوب  
جانوروں کو پلاؤ، جتنا خرچ کرو کم نہیں ہوتا اسی قدر نہر سے اور آجاتا ہے یہ علم لدنی کی مثال  
ہے۔ پس جو لوگ ظاہری علم پڑھتے ہیں جتنا پڑھتے ہیں اسی قدر ان میں رہتا ہے اور وہ جو  
مسئلے بتاتے ہیں کتابیں دیکھ کر بتاتے ہیں لیکن بعض درویشوں کو اللہ پاک علم لدنی عطا  
فرماتا ہے جیسا کہ حضرت خضر کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَاهِ مِنْ لَدُنَّا  
عِلْمًا۔ اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ یہیں سے یہ علم لدنی کی  
اصطلاح قائم ہوئی ہے یعنی وہی علم۔ چنانچہ حضرت صاحب کو علم لدنی حاصل تھا  
اس لئے کہ جب دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے تو درویش لوگ دل سے فتویٰ دیتے ہیں اور  
روح مبارک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نور کا ایک منبع ان کے دل میں  
آجاتا ہے اور دل کے اندر سے ہی ساری باتیں سمجھ میں آتی رہتی ہیں کسی سے پڑھنے کی  
ضرورت نہیں رہتی۔ ایسے ہی لوگوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَكُوَافَتَاكَ الْمَفْتُوْنَ یعنی اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لیا کر اگر  
تجھ کو مفتی صاحبان فتویٰ دیدیں۔ نیز فرمایا اِنْفُوْا مِنْ فِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّ

نظر بنور اللہ - یعنی مومن کی فراست (قلبی علم) سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے  
رکے ساتھ دیکھتا ہے۔

بہت دفعہ دیکھا گیا کہ قرآن شریف اور حدیث شریف کی جس قدر تقریریں ہمارے  
حضرت صاحب نے فرمائیں سب کی سب نفسِ مضمون کے عین مطابق ہوتی تھیں کسی  
لگے بھی کچھ تفاوت نہ تھا بلکہ کبھی کبھی عجیب معانی بیان فرماتے کہ حیرت ہوتی۔ معمولی  
معمولی عبارتوں کو سمجھانے کے لئے ایسے عمدہ مضامین بیان فرماتے کہ کتابوں میں شاید  
نہ مل سکیں اور نفسِ مضمون اس طرح دلنشین ہو جاتا گویا کہ یہ واقعہ آنکھوں کے سامنے  
ہوا ہے یعنی شہود کی کیفیت حاصل ہو جاتی اور حدودِ شرع شریف سے سر موٹجا و ز  
ہونے پاتا۔ اکثر واقعات و واردات اور بزرگوں کے اقوال و احوال سے تقریر کو مزین  
شرح فرمایا کرتے تھے۔ جو درویش آپ کے دولت خانہ پر حاضر ہوتے تھے ان کو تصوف  
ورفقہ کے بعض رسائل و کتب کا باقاعدہ درس دیتے اور ان کی تقریرات میں اس قسم کی  
شرح و بسط فرماتے کہ عقل زنگ رہ جاتی اور طبیعت کو اطمینان و سیری حاصل ہوتی تھی۔  
نب آپ چاہتے کہ کسی درویش کو جو موجود نہیں ہے کچھ سکھایا جائے تو علیحدہ ایک مکان  
میں بیٹھ جاتے اور مراقبہ میں پڑھاتے رہتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حاجی محمد عثمان صاحب احمد پوری  
کو کافی دیر تک مراقبہ میں درس دیتے رہے۔ بعد میں (کسی دوسرے وقت) ان سے دریافت فرمایا  
کہ فلاں وقت میں نے آپ کو درس دیا تھا وہ (حاجی صاحب) فرمانے لگے کہ جی ہاں میں اس وقت  
اپنے مقام پر بیٹھا علم حاصل کر رہا تھا۔ اس طرح آپ کو اشرافیہ کا علم بھی حاصل تھا۔

تعبیر خواب | الشریک نے آپ کو تعبیر خواب میں خاص ملکہ عنایت فرمایا تھا آپ اکثر  
نمازِ اشراق کے بعد اجابِ سلسلہ سے احوال اور خوابوں کے متعلق

استفسار فرماتے اور تعبیر بھی دیتے تھے جو نہایت بر محل اور موزوں ہوتی تھی کبھی کبھی صبح کی نماز کے بعد اذکار کے لئے خلوت میں تشریف لے جانے سے پہلے بھی دریافت فرماتے تھے مستری شمس الدین صاحب اسمعیل آبادی نے فرمایا کہ جب یہ فقیر احمد پور شرقیہ آیا ہوا تھا تو خواب میں دیکھا کہ عاجز کنوئیں میں گر گیا ہے۔ خواب کے بعد ہی تکلیف شروع ہو گئی۔ صبح کو علاج کے لئے شفاخانہ سے دوائی لی گئی مگر تکلیف بڑھتی گئی جس کی وجہ سے زندگی سے بالکل ناامید ہو گیا۔ جب حضرت کی دعائے مبارک سے شفا ہوئی تو فرمایا کیا کوئی خواب دیکھا تھا عرض کیا جی ہاں حضرت رات کو کنوئیں میں گرنے کا خواب دیکھا تھا فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر ہی بیماری ہے جو تمہیں آچکی ہے۔ مریدین اپنے خطوط میں بھی خوابوں کا حال لکھتے اور آپ تعبیر تحریر فرماتے اور بشارات کو ظاہر فرماتے رہتے تھے مگر ضروری نہیں تھے کہ سب کی تعبیر ضرور دیں (واللہ اعلم)۔

**باہم مشورہ کرنا** | حضرت صاحب جب ہندوستان کے سفر پر تشریف لے جاتے تو جماعت کے خاص لوگوں یعنی اہل الرائے سے مشورہ فرماتے کہ سفر کا پر و گرام کس طرح پر ہونا چاہئے اور کس کس جگہ کتنا کتنا قیام ہونا چاہئے جلسہ کی تاریخ وغیرہ اور دیگر امور دینی و دنیوی میں بھی حسب ضرورت مشورہ لیتے تھے اور ہمیشہ اس سنت پر عمل کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے: **وَسْتَأْذِنُكُمْ فِي الْأَشْرَفِ إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ** (آل عمران ۷۶) ترجمہ (اور آپ ان سے کام میں مشورہ لیا کریں پھر جب (باہم مشورہ کے بعد) ایک بات طے ہو جائے اور آپ سخت ارادہ کر لیں تو خدا پر توکل کریں (اور بلا پس و پیش اس کام کو کر لیں) بیشک

اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے) حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عزم کیا ہے۔ فرمایا مَشَاوَرَةَ أَهْلِ الرَّأْيِ ثُمَّ اتَّبَاعَهُمْ (ابن کثیر) یعنی اہل الرائے اصحاب سے مشورہ کر کے پھر ان کا اتباع کرے) اور مجمع الزوائد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے: "یا رسول اللہ جو بات ہم کتاب و سنت میں نہ پائیں اس میں کیا طریقہ استعمال کریں؟ فرمایا فقہائے عابدین (سجھ دار خدا پرستوں) سے مشورہ کرو۔ وَلَا تَمْتَصُوا فِيمَا رَأَى خَاصَّةً (اد) کسی ایک کے دگے کی رائے مت جاری کرو)۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَهْرُ هُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (الشوری ۴۶) (اور وہ آپس میں مشورہ سے کام کرتے ہیں) پس معلوم ہوا کہ آپس میں مشورہ سے کام کرنا اللہ پاک کو پسند ہے دین کا ہویا دنیا کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہات امور میں برابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرماتے تھے اور صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرتے تھے جہاد وغیرہ کے متعلق بھی اور بعض احکام و مسائل کی نسبت بھی، بلکہ خلافت راشدہ کی بنیاد ہی شوری پر قائم تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ مشورہ کی ضرورت ان ہی کاموں میں ہے جو ہتم بالشان ہوں اور جو قرآن و سنت میں منصوص نہ ہوں اور جو چیز منصوص ہو اس میں رائے و مشورہ کی کوئی ضرورت نہیں اور ہر چھوٹے بڑے کام میں اگر مشورہ ہوا کرے تو کوئی کام نہ ہو سکے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ ایسے شخص سے لیا جائے جو عاقل و عابد ہو ورنہ اس کی بیوقوفی اور بددیانتی سے کام خراب ہو جانے کا اندیشہ رہے گا۔

ایک دفعہ صوفی عبدالحق صاحب نے حضرت صاحب کو میرٹھ تشریف لانے کی دعوت دی جب حضرت ہندوستان کے سفر پر تہک تشریف لائے تو صوفی عبدالحق صاحب

کو تحریر فرمایا کہ آپ رمتک آجائیں یہاں مشورہ کر لیا جائے گا۔ مکتوب گرامی عبداللہ پور  
 پڑا رہا کیونکہ اس پر عبداللہ پور کا پتہ درج تھا اور وہ صوفی عبدالحق صاحب کا جو ابی  
 خط تھا اور صوفی صاحب مذکور میرٹھ میں تھے (صوفی صاحب عبداللہ پور کے رہنے والے  
 تھے جو میرٹھ کے قریب واقع ہے اور ان دنوں میرٹھ میں کاروبار کرتے تھے) حضرت نے  
 ان کا انتظار کرنے کے بعد جماعت رمتک کے چند خاص دوستوں سے مشورہ کیا اور طے پایا  
 کہ پہلے پندرہ روز تک رمتک میں قیام رکھیں بعد میں کسی دوسری جگہ کا سفر کریں مگر چند  
 روز کے بعد صوفی عبدالحق صاحب کا آدمی حضرت کو لینے کے لئے آگیا اب آپ نے دوبارہ  
 مشورہ کیا کہ پہلے یہاں کا قیام پورا کیا جائے یا میرٹھ جانا چاہئے۔ اس مشورہ میں جناب مولانا حاجی  
 عبدالمجید صاحب، حاجی محمد شفیع صاحب اور حاجی منشی حبیب اللہ صاحب موجود تھے حاجی  
 محمد شفیع صاحب کا مشورہ تھا کہ پہلے رمتک کا قیام پورا کیا جائے۔ حاجی عبدالمجید صاحب  
 اور حاجی منشی حبیب اللہ صاحب کا یہ مشورہ تھا کہ آپ پہلے میرٹھ تشریف لے جائیں کیونکہ ان کا  
 آدمی آیا ہوا ہے بعد میں رمتک واپس تشریف لا کر یہاں قیام فرمائیں۔ دوران گفتگو حاجی  
 محمد شفیع صاحب ذرا اونچی یعنی غصہ کی آواز سے منشی حبیب اللہ صاحب سے بولنے لگے۔ حضرت  
 نے فرمایا اچھا قرعہ اندازی کرو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا قرعہ رمتک میں پھرنے کا نکلا اور بات طے  
 ہو گئی۔ شام کو جب حاجی محمد شفیع صاحب حضرت صاحب کی خدمت میں کھانا لائے تو اس وقت  
 حاجی منشی حبیب اللہ صاحب بھی بیٹھے تھے اور کوئی دوسرا آدمی وہاں نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا حاجی  
 صاحب! آپ اتنے دن تک میری صحبت میں رہے مگر (غصہ کی) کوئی اصلاح نہیں ہوئی یہ میری  
 شامت اعمال ہے۔ ان کلمات کا حاجی صاحب پر بہت اثر ہوا، حضرت صاحب سے معافی مانگی  
 اور منشی حبیب اللہ صاحب بھی معافی مانگی اور دونوں ایک دوسرے سے گلے بردار ہوئے حاجی محمد شفیع صاحب



**قیام مساجد و مدارس** | آپ کو مساجد کی تعمیر و آبادی اور مدارس کے قیام کا بہت خیال رہتا تھا۔ اپنے محلہ کی مسجد کا اکثر حصہ آپ نے تعمیر کرایا اور دوسری قریب کی مسجد کو جو اب مخدوم زادہ کلاں مولانا مولوی محمد صادق صاحب مدظلہ العالی کے جدید مکان سے متصل ہے آپ نے از سر نو تعمیر و مرمت کرایا اور رمضان المبارک میں تراویح و اعتکاف وغیرہ وہاں ادا فرماتے رہے تاکہ مسجد کی آبادی قائم رہے۔ گوبانہ ضلع ریتک کے اسٹیشن کے قریب مسجد کی تعمیر میں کافی دلچسپی لی۔ بڑوٹہ کے مدرسہ اور مسجد کے انتظام میں بہت دلچسپی لیتے رہے۔ اسماعیل آباد ضلع کرنال کے مدرسہ کی تعمیر و قیام و انتظام میں بھی صوفی علی نواز صاحب وغیرہ آپ سے رائے و مشورہ لیتے رہے اور آپ کی دعا کی برکت سے مدرسہ مسجد بارونق تھے۔ اور بھی کئی جگہ حتی الامکان حصہ لیتے رہے اور اس کام سے بہت خوش ہوتے تھے۔

**سالانہ جلسہ کا انعقاد** | حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ الغریب کے در دولت پورہ فقیر پور میں سالانہ جلسہ منعقد ہوتا تھا اور جب حضرت موصوف نے نقل مکانی کر کے ایک نئی بسنی مسکین پور آباد کی اور اس میں سکونت اختیار فرمائی تو پھر سالانہ جلسہ بھی مسکین پور میں منعقد ہونے لگا جس میں آپ کے اور آپ کے خلفاء کے مریدین دور دراز سے سفر کر کے یعنی ہندوستان کے مختلف تہات اور سندھ، سرحد، کوٹہ، بلوچستان، پنجاب وغیرہ سے جہاں جہاں جماعتوں کے لوگ تھے جلسہ میں حاضر ہوتے تھے۔ جس میں وہ علماء کرام جو آپ کے مرید ہوتے تھے موعظ حسنہ سے محظوظ و مستفید فرماتے اور حاضرین مجلس حضرت کی توجہات و فیوضات سے ماہی بے آب کی طرح ترپتے اور اس خاک میں لوٹنے، لیٹنے، اور لنگر کے طعام کو جو درویشوں ہی کا پکایا ہوا ہوتا تھا

اپنا سر بایہ محبت و ایمان جانتے تھے۔ یہ جلسہ ایک دن ایک رات منعقد ہوتا اور دوسرے دن صبح کو بعد ختم قرآن پاک ایصالِ ثواب کر کے دعا وغیرہ کے بعد ختم کر دیا جاتا تھا۔ اس بھی یہ جلسہ مسکین پور میں ہر سال بدستور منعقد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو جاری رکھے اور بہت مخلوق کو مستفیض فرمائے۔ آمین۔

چونکہ حضرت کا سلسلہ دور دراز ممالک اور علاقوں میں پھیل چکا تھا اور اس قدر طویل سفر کر کے ہر صاحبِ ذوق و شوق حاضر نہیں ہو سکتا تھا اور چونکہ اس جماعتی الہی اور وعظ و نصائح اور ایصالِ ثواب وغیرہ سے طالبانِ کو بہت فائدہ ہوتا تھا شیخ کی زیارت اور اپنے پیڑھائیوں سے ملاقات اور ایک دوسرے سے فیوض و برکاتِ محبت و طریقت کا حصول اجتماعی طور پر اس میں حاصل ہوتا تھا اس لئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء کو فرمایا کہ وہ اپنی اپنی جماعتوں میں کسی ایک مناسب مقام پر بطریقِ مذکور سالانہ جلسہ منعقد کیا کریں تاکہ جو طالبانِ مولا یہاں مسکین پور کے جلسہ میں حاضر نہیں ہو سکتے وہ وہاں قریب جمع ہو کر فیوض و برکاتِ اجتماعی و انفرادی سے مستفید ہوا کریں۔ بتا بریں ہمارے حضرت پیر و مرشد قدس سرہ العزیز نے اپنے پیر و مرشد قدس سرہ کے اس ارشاد کی تعمیل میں بمقام گوہانہ سالانہ جلسہ کی بنیاد ڈالی ہے بنا کر دند خوش رسمے بناک و خون غلطیدن خدا رحمت کند این عاشقانِ پاک طینت پس کئی سال تک یہ جلسہ گوہانہ ضلع رہتک میں منعقد ہوتا رہا اور جب گوہانہ ریلوے لائن دوسری جنگِ جرمن کے زمانہ میں کسی ضرورت کے تحت انگریزوں نے بند کر دیا اور اس کی پٹری اکھاڑ کر دوسری جگہ لے گئے تو لوگوں کا یہاں پہنچنا مشکل ہو گیا اس اجاب کے مشورہ سے حضرت نے یہ جلسہ بمقام پانی پت مقرر فرمایا چنانچہ آپ کی حیات

میں بھی اور آپ کے وصال کے بعد بھی پانی پت میں بمقام مسجد سالار گنج جلسہ منعقد ہوتا رہا اور جماعت کے کافی لوگ اس جلسہ میں شمولیت کرتے اور فیضیاب ہوتے رہے دوسرے لوگ بھی جلسہ میں حاضر ہوتے اور وعظ و نصائح سے مستفید ہوتے تھے جلسہ کی شمولیت کی برکات وہ حضرات خوب جانتے ہیں جو اس میں شامل ہوتے رہے ہیں۔

جب پاکستان بننے کے بعد تقریباً سب نہیں تو اکثر و بیشتر حضرات مغربی پاکستان میں ہجرت کر کے چلے آئے تو جناب چچا صاحب و صاحبزادہ صاحب و حضرت مولانا گوہانوی مدظلہم العالی وغیرہم کی توجہات اور کوشش و مشورہ سے یہ جلسہ بمقام مظفر گڑھ منعقد ہونے لگا اور گذشتہ سے پچھلے سال جب مظفر گڑھ میں جلسہ منعقد ہوا تو بعض مصالحوں کی بنا پر اور مولانا گوہانوی مدظلہ العالی کی تجویز پر مشورہ میں یہ بات طے ہو گئی کہ آئندہ یہ جلسہ حضرت کے وطن مالوہ احمد پور شرقیہ میں منعقد کیا جائے۔ چنانچہ نومبر ۱۹۵۲ء میں یہ جلسہ پہلی دفعہ بمقام احمد پور شرقیہ محلہ کٹرہ احمد خاں صاحب منعقد ہوا اور جماعت کے کافی لوگ اس میں شامل ہو کر فیضیاب ہوئے۔ اب تک یہ جلسہ بدستور احمد پور شرقیہ میں ہر سال منعقد ہوتا ہے اور آئندہ بھی انشاء اللہ حسب دستور یہ جلسہ منعقد ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس نیک مقصد کو تاقیام قیامت برقرار رکھے اور اس کو مشروع شریف کے عین مطابق منعقد کرے اور بدعات و نامرضیات سے پاک و مبارک کرے اس کے فیوض و برکات سے تمام اہل انبیا و تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے مستفیض فرما کر فائز المرام فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

**تعویذات و عملیات** | آپ تعویذات بھی دیتے رہتے تھے۔ فوائد عثمانی میں جو اپنے سلسلہ کے بزرگوں کے تعویذات درج ہیں آپ کے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ

نے آپ کو ان کی اجازت و مرحمت فرمائی تھی اور وہ آپ کی بیاض میں درج تھے اکثر وہی استعمال

فرماتے تھے کبھی کبھی دوسرے سلسلوں کے تعویذات بھی دوسری کتب سے استعمال فرمائے ہیں اور بعض تعویذات و عملیات جن کی دوسرے بزرگوں سے اجازت تھی ان کو بھی استعمال فرماتے تھے (یہ سب تعویذات خاکسار مولف نے کتاب عمدة السلوک حصہ دوم میں درج کر دیے ہیں وہاں سے مفصل ملاحظہ فرما سکتے ہیں)۔

فرماتے تھے کہ تعویذات دینا بھی خدمتِ خلق ہے اور اس ذریعہ سے لوگوں کا اعتدال قائم ہو کر ان کے آنے جانے کا سلسلہ بن جاتا ہے اور اس طرح اللہ کا ذکر بتلانے اور تبلیغ اسلام میں مدد ملتی ہے چنانچہ جب آپ کسی کو تعویذ دیتے تو فرمادیتے تھے کہ نماز پڑھا کرو اور جو نمازی ہوتا اس کو ذکر کا طریقہ تلقین فرماتے اور دوسری شرعی خامیوں اور کمزوریوں کی طرف توجہ دلانے۔ تعویذات پر کوئی اجرت نہ لیتے تھے اور نہ اس کو ذریعہ شہرت بتایا تھا۔ وقت مقرر تھا یعنی نمازِ اشراق کے بعد سے دوپہر کے کھانے سے پہلے تک کے وقت میں جو بھی آئے لے جائے اس کے بعد نہیں (اللہ انا شاہد) تاکہ دوسرے مشاغل میں رکاوٹ اور تبلیغ و خطا اسلام میں کمی کا باعث نہ ہو جائے۔ (لوگوں کو تو آجکل ایسی عادت ہو گئی ہے کہ معمولی باتوں کے لئے جن کا حل تدریس و علاج اور بہت و کوشش پر منحصر ہے تعویذات حل کرنے کی فکر کرنے ہیں اور بلا وجہ اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور یہ لوگوں نے تعویذات و عملیات کو اپنا ذریعہ معاش بنا کر لوگوں کو طرح طرح کے غلط عقائد میں مبتلا کر رکھا ہے۔ و اللہ اعلم)۔

بعض وقت حل مشکلات کے لئے کوئی دعا یا وظیفہ پڑھنے کیلئے بتا دیتے چنانچہ صاحب گوہانوی نے فرمایا کہ ایک دوست نے بے روزگاری کے بارے میں لکھا جواب میں فرمایا کہ فلاں عمل کرو (یعنی رَبِّ اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْقِصِرْ) چنانچہ اس نے پڑھا

عام ہو گیا۔ خاکسار مولف کو یاد ہے کہ آپ دفع شتر اعداد کے لئے فرمایا کرتے کہ یہ پڑھو  
 لیس وَالْقُرْآنَ شَرْدَفِعْ مَشْكَلْ آسَانْ“ اس کو اس عاجز نے بھی مجرب پایا ہے تعداد  
 دہیں۔ بہتر یہی ہے کہ جس قدر ہو سکے پڑھتا رہے وَاللّٰهُ اعْلَمُ۔

مخدوم زادہ مولانا محمد صادق صاحب مدظلہ العالی نے فرمایا کہ ڈسٹر انوالہ ریاست  
 ہاویلپور میں یہ عاجز کچھ عرصہ مدرس رہا ہے وہاں ایک شخص کو شادی کی بہت دُھن تھی  
 کہیں کام نہیں بنتا تھا۔ آدمی بہت سیدھا سادہ تھا لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہم  
 ہی اس سے مذاق کرتے رہتے تھے ایک دن میں نے اس سے کہا کہ ایک بزرگ کا پتہ بتانا ہو  
 تم ان کو لکھو وہ کوئی وظیفہ شادی کے لئے بتادیں گے اور میرا نام ان کو نہ بتانا۔ غرض میں نے  
 والد صاحب کا نام اور پتہ اس کو لکھ دیا چنانچہ وہ خود حضرت کی خدمت میں آیا آپ نے  
 اس کو بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھا کر ”

ہر دم دعا ہا می کتم بر خاک می بالم جبین این دستاں اجمع کن یا جامع المتفرقین  
 بعد نماز تہجد اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ دفعہ پڑھا کر اور درمیان میں یہ  
 پڑھا کر۔ یا کریم کریم کن یا رحیم رحیم کن سخت دل کو نرم کر۔“ چنانچہ اس نے پڑھا اور  
 چند دن کے بعد ایک جگہ اس کی شادی ہو گئی۔ صاحب زادہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے  
 بعد میں نے اسی وظیفہ کو اس غرض سے پڑھا کہ یہاں سے تبادلاً ہو کر گھر پر چلا جاؤں،  
 چنانچہ چند دن کے بعد میرا تبادلاً بھی گھر پر احمد پور مشرقیہ کا ہی ہو گیا اور اہل دیال میں  
 پہنچ گیا۔ (یہ وظیفہ بغیر کسی عنوان کے حضرت کی بیاض میں بھی لکھا ہوا ہے وہیں سے  
 دیکھنے پر مولانا صاحب موصوف کو واقعہ مذکور یاد آیا اور اس عاجز کو سنایا۔ وَاللّٰهُ اعْلَمُ۔  
 (ولہٗ اٰیضاً) ایک دفعہ اس عاصی عاجز سے فرمایا کہ یہ اشعار (عبارت بطریق اشعار)

مسجد سکھا نوالہ باغ میں لکھ آؤ انشاء اللہ دعا قبول ہوگی چنانچہ وہ عبارت آپ نے ایک تختی پر لکھ کر دی (غالباً حضرت کو یہ حال ہوا تھا اور شاید یہ قبل از بیعت کا واقعہ ہے) شام کا وقت تھا مسجد سنان جگہ میں واقع ہے میں اکیلا ڈنٹا ڈنٹا گیا اور لکھ آیا اس وقت میری بہت چھوٹی عمر تھی اب تک وہ عبارت وہاں لکھی ہے۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور سب علوم بفضلہ تعالیٰ حاصل ہوئے۔ بعدہ اس کے قریب بھائی محمد شریف صاحب کے ہاتھ کی بھی وہی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ معلوم اس نے کس کے کہنے سے لکھی۔ وہ ہویا۔

یا الہی ہر دو جہاں میں عزت بخش مجھے علم و عمل فراخ دستی دے مجھے  
 آسان کر دے علم عربی و فارسی و انگریزی وغیرہ مجھے غرض عالم و فیاض خوشنویس فیاض بنی بھائی  
 کردعا قبول اے مجیب الدعوات مری طفیل نبی خرازناں اور اس کے آل و اصحاب مرک

## تقویٰ (پرہیزگاری)

قال الله تبارک و تعالیٰ اِنَّ اَکْرَمَ مَکْمَدٍ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰی کُمْ ذٰلِکَ تَمَّ مِیْنِ سَبَّ مِّنْ زِیَادَہٗ بَرِّکَ اَوَّلِ اللّٰہِ کَے نزدیک مقابلاتِ قرب پانے والا وہی شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو) شریعت کے دو جز ہیں (۱) اوامر یعنی جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ (۲) نواہی یعنی جن امور سے بچنے کا حکم دیا۔ ان منع کی ہوئی باتوں سے بچنے کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے اور جن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر ان کو کر لیں تو کوئی مضائقہ نہیں اور نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں اس کو مباح کہتے ہیں۔ مباح پر عمل کو رخصت اور اس کے ترک کو عزیمت کہتے ہیں۔ مباح پر عمل (رخصت) سے اس کا ترک (عزیمت) اولیٰ و افضل ہے جتنا کوئی اولیٰ اور افضل پر عمل کرے گا اتنا ہی زیادہ متقی ہوگا اور جتنا زیادہ متقی

ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقاماتِ قُرب سے تواریس گے بعض اوقات عزیمت کا ترک اور رخصت پر عمل کرنا اولیٰ ہوتا ہے اس وقت یہی صورت تقویٰ کے مناسب ہوگی پس صبح ہر سخن جائے وہر نکتہ مکانے وارد۔ ان سب امور کی تفصیل کتبِ فقہ میں مذکور ہے (واللہ اعلم بالصواب)۔

اب یہ عاجز تقویٰ کی مختصر تعریف کے بعد اس کی مزید تشریح کے لئے حضرت خواجہ خواجگان پیر پیران مجدداً الف تانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبِ جلد اول کا وہ حصہ جو ورع و تقویٰ کے متعلق ہے درج کرتا ہے تاکہ مضمون ہذا کو تقویت و برکت حاصل ہو، اس کے بعد صاحبِ سوانح قدس سرہ العزیز کے حالات متعلق بہ تقویٰ درج کئے جائیں گے۔

« اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

یعنی ہمارا رسول جو چیز تمہیں دے اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ نجات کا مدار چیزوں پر ہے، اوامر کا بجالانا اور نواہی سے رُک جانا۔ ان دونوں چیزوں میں سے بزرگتر جزا آخری جو ورع و تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے ذِکْرُ رَجُلٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ وَآخِرُ بَرِيْعَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْدِلُ بِالرَّعِيَّةِ شَيْءٌ يَعْنِي الْوَرَعَ (ترجمہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں ایک شخص کا ذکر عبادت اور اجتہاد سے متعلق کیا گیا اور دوسرے کا ذکر ورع کے ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورع (پرہیزگاری) کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِلَّاكُ دِينِكُمْ الْوَرَعُ تمہارے دین کی اصل پرہیزگاری ہے اور انسان کی فضیلت فرشتوں پر اسی جزو سے ثابت ہے اور قُرب لے درجوں پر ترقی بھی اسی جزو سے ثابت ہوتی ہے کیونکہ فرشتے

لله المشكوة عن جابر رضی اللہ عنہ

پہلے جزو میں شریک ہیں اور زرقی ان میں منقود ہے پس ورع و تقویٰ کے جزو کا مد نظر رکھنا اسلام کے اصلی مقصودوں اور بڑی ضروریات میں سے ہے۔ یہ جزو کہ جس کا مدار محرمات سے بچنے پر ہے کامل طور پر اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ فضول مباحات سے پرہیز کیا جائے اور بقدر ضرورت مباحات پر کفایت کی جائے، کیونکہ مباحات کے اختیار کرنے میں یاگ کا ڈھیلا چھوڑنا مشتبہ امور تک پہنچا دیتا ہے اور مشتبہ حرام کے نزدیک ہے مَنْ حَامَرَ حَوْلَ الْحَمِيِّ يُوْشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ (جو جانور چراگاہ کے گرد پھرا قریب ہے کہ اس میں جا پڑے)۔ پس کمال تقویٰ کے حاصل ہونے کے لئے بقدر ضرورت مباحات پر کفایت کرنا ضروری ہے اور وہ بھی اس شرط پر کہ اس میں وظائفِ بندگی کے ادا کرنے کی نیت ہو ورنہ اس قدر بھی وبال ہے اور اس کا قلیل بھی کثیر کا حکم رکھتا ہے اور جب فضول مباحات سے پورے طور پر بچنا تمام اوقات میں اور خاص کر اس وقت (آجکل) بہت ہی دشوار ہے اس واسطے محرمات سے بچ کر حتی المقدور فضول مباحات کے اختیار کرنے کا دائرہ بہت تنگ کرنا چاہئے اور اس ارتکاب میں ہمیشہ پشیمان ہونا چاہئے اور توبہ و بخشش طلب کرنی چاہئے اور اس کو محرمات میں داخل ہونے کا دروازہ جان کر ہمیشہ حق تعالیٰ کی جناب میں التجا اور گریہ و زاری کرنی چاہئے شاید کہ ندامت اور استغفار اور التجا و تضرع فضول مباحات سے بچنے کا کام کر جائے اور اس کی آفت سے محفوظ کر دے۔ ایک بزرگ نے فرمایا اَلْكَسَارُ الْعَاصِيْنَ اَحَبُّ مِنْ صَوْلَةِ الْمُطِيعِيْنَ (گناہگاروں کی عاجزی قربانداروں کے دبدبہ سے بہتر ہے)۔ اور محرمات سے بچنا بھی دو قسم پر ہے ایک وہ قسم ہے جو اللہ کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری وہ ہے جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے اور دوسری کی رعایت نہایت ضروری ہے حق تعالیٰ اغنی مطلق اور بڑا



رحم کرنے والا ہے اور بندے فقرا اور محتاج اور بالذات بخیل اور کنجوس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص پر اس کے بھائی کا مالی یا اور کسی قسم کا حق ہو تو اس کو چاہئے کہ آج ہی اس سے معاف کر لے قبل اس کے کہ اس کے پاس دینار و درہم نہ ہوں۔ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو صاحب حق کے حق کے موافق لے کر اس کو دیدیا جائیگا اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو صاحب حق کی برائیاں اس کی برائیوں پر زیادہ کر دی جائیں گی۔ اور نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے حاضرین نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار و اسبابے وغیرہ کچھ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز و روزہ سب کچھ کر کے آئے مگر ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہو اور کسی کو تہمت لگائی ہو اور کسی کا مال کھایا ہو اور کسی کا خون گرایا ہو اور کسی کو مارا ہو تو اس کی نیکیوں میں سے ہر ایک حق دار کو اس کے حق کی برابر نیکیاں دیدی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کے برابر نہ ہوں تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس کی برائیوں میں شامل کئے جائیں گے پھر اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے (انتہی کلامہ الشریف)۔

ویسے تو ہمارے حضرت دادا پیر صاحب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سب مریدوں میں تقویٰ کا خاص اہتمام ہے اور حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ نہایت خیال سے اس کی جانچ کرتے اور تاکید فرماتے رہتے تھے کہ تقویٰ کا دامن کسی وقت بھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے حتیٰ کہ حضرت کی جماعت اور ان کے خلفاء کی جماعت میں حقہ سگریٹ پان تمباکو چائے وغیرہ مباحات غیر ضروریہ سے نہایت درجہ پرہیز تھا اور بے نمازی اور غیر مسلم کے

ہاتھ کی پکی ہوئی چیزوں اور ان کے برتنوں اور کپڑوں کے پانی کے استعمال سے تا بمقدور پرہیز کرتے تھے حتیٰ کہ جماعت کے بعض لوگوں کو بے تبری میں ایسی چیز جو بے نمازی یا غیر مسلم کی پکائی ہوئی ہو کھانے کا اتفاق ہو گیا تو قلب اس کو قبول نہ کرتا اور تھے ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سفر میں جب ایسی جگہ جانا ہو جاتا تو یہ حضرات خشک سامان یعنی بھنے ہوئے چنے سنو وغیرہ سفر میں ساتھ رکھتے تھے۔

ہمارے حضرت پیر و مرشد قدس سرہ السامی کو تو اس معاملہ میں بہت ہی زیادہ اہتمام تھا حتیٰ کہ بیماری میں ڈاکٹری دواؤں تک سے اس لئے حتیٰ الامکان بچتے تھے کہ ان میں اسپرٹ ہوتی ہے جس کے جواز و عدم جواز میں فقہاء کا اختلاف ہے اور نذر و نیاز (جو آجکل رسمی پیروں میں کثرت سے رائج ہے) کے لینے سے بھی نہایت مبالغہ کے ساتھ انکار فرمادیتے تھے۔ ہاں سنت کے مطابق ہدیہ لینے دینے میں جو کسی رسم کی پابندی کے بغیر ہو اور نفس کو پہلے سے اس کا انتظار و رغبت بھی نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہ سمجھتے تھے اور اہل محبت و قدیم رفق سے جن کی طبیعت سے واقف ہو جاتے کہ بلا کسی نیت و اخلاص کی خرابی کے اور بغیر پابندی رسم و رواج محض محبت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو وہ ہدیہ قبول فرمالیتے۔ اب ذیل میں چند واقعات درج کئے جاتے ہیں جن سے اس امر پر روشنی پڑتی ہے واللہ اعلم بالصواب۔ **اللَّهُمَّ آرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَآرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔**

منقول از مولانا محمد سعید صاحب گوانوی

(۱) ایک روز فرمایا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہندوستانی لوگوں کا

لباس بہت مختصر ہوتا ہے کپڑا تنھوڑا خرچ ہوتا ہے (غالباً کرنہ کا خیال دل میں آیا ہوگا)

اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرتہ زانو کے نیچے تک ہونا چاہئے (حاکم نے  
 بسند صحیح حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ  
 ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا یعنی نصف پنڈلیوں تک) اچانک یہ خیال آنا تھا کہ ہم کھل گیا  
 اور نیچے زمین پر گر گیا۔ الحمد للہ کہ کرتہ سنت کے مطابق پہنے ہوئے تھا اس وجہ سے بدن یعنی  
 ستر عورت نہ کھل سکا اور حد شرعی قائم رہی چنانچہ میں نے توبہ کی اور یقین میں اضافہ  
 ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بالکل صحیح ہے اور ہر سنت میں بڑے بڑے راز اور حکمتیں  
 ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع سنت نصیب فرمائے۔ آمین۔

(۲) ایک روز ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا مولوی اشرف علی صاحب تھانوی سے  
 ملاقات کو بہت طبیعت چاہتی ہے مگر ادب مانع ہے۔ مولوی صاحب موصوف کی طبیعت  
 بہت نازک ہے مجھ سے پورا ادب نہ ہو سکے گا اس لئے ملاقات کی جرأت نہیں ہوتی۔  
 (۳) ایک روز ایک دوست نے آپ کو کچھ رقم کرایہ کے لئے پیش کی تو آپ نے فرمایا  
 کہ بھائی مجھے کرایہ سفر مل چکا ہے مجھے اور اضافہ نہیں کرنا ہے میرا مقصد اللہ کے دین کی  
 خدمت کر کے اس کی رضا حاصل کرنا ہے چنہ مقصود نہیں ہے۔ حضرت صاحب ابتداء  
 میں اپنے خرچ پر سفر کرتے تھے بعد میں جہاں کئی دفعہ آنا جانا ہو چکا اور کافی لوگ داخل سلسلہ  
 ہو کر فیضیاب ہو گئے اور باطنی نعمت کی قدر کرنے لگے تو لوگ حضرت کو دعوت دیتے اور  
 کرایہ کی رقم بھیج دیتے کبھی بکطرفہ بھیج دیتے اور دوسری طرف کا واپسی پر دیدیتے کبھی  
 تشریف آوری پر دونوں طرف کا کرایہ دیدیتے تو آپ اسے قبول فرمالتے تھے اور وہ  
 بھی چنہ کے طور پر نہیں بلکہ خوشی سے جماعت کے کسی مخلص اکیلے یا دو چار نے مل کر  
 کسی ایک کے ہاتھ سے پیش کر دی اور حضرت کو ان کے اخلاص اور محبت پر اطمینان ہوا

تو بقدر کرایہ لے لیا بلکہ اس کو مناسب سمجھتے کہ لوگ خود اس طرح دعوت دیکر بلا یا کریں کہ اس طرح فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور طلب کے ساتھ جو نعمت ملے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے پھر بھی جب کہیں نئی جگہ جاتے تو اپنا کرایہ خرچ کرتے اور نئے لوگوں سے بلا اطمینانِ اخلاص و محبت کرایہ بھی نہ لیتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مؤلف)

(۴) ایک مرتبہ ایک تحصیلدار صاحب داخل سلسلہ ہوئے انھوں نے اصرار کیا کہ حضور ہمارے گھر سے بھی داخل سلسلہ ہونا چاہتی ہے مہربانی فرما کر ہمارے گھر چلیں حضرت ہمراہ ہوئے چنانچہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور داخل سلسلہ فرما کر اور حلقہ کر کے جب واپس آنے لگے تو تحصیلدار صاحب نے کچھ رقم نکال کر پیش خدمت کی۔ فرمایا بھائی صاحب میرا آنا تو رضائے مولا کے لئے ہوتا ہے یہ چیز تو بندہ کے پاس گھر پر بھی موجود ہے معاف کرو۔ چنانچہ نہیں لی۔

(۵) ایک روز دہلی میں جماعت کے ایک آدمی نے حضرت کی دعوت کی تو سامانِ دعوت پر تقریباً اسی روپے خرچ کئے کھانے کے وقت مختلف قسم کے کھانے حضور کے سامنے حاضر کئے۔ حضرت نے بندہ سے فرمایا کہ مولوی صاحب تم نے اس آدمی کو نہیں بتایا کہ فقیر تو معمولی کھانا کھانا ہے یعنی بکری کے بچے کا شور یا یادال وغیرہ فقط میں نے عرض کیا کہ کہہ دیا تھا مگر یہ لوگ مانتے نہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ یہ رقم کسی غریب کو دی جاتی یا طالبِ علمِ دین کے صرفہ میں استعمال ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے دہلی کا سفر مختصر کر دیا فرمایا کہ اگر اور زیادہ رہا تو کوئی دوسرا بھی دیکھا دیکھی ایسا ہی سرا کرے گا خدا اس رسم سے بچائے۔ (قصاب پورہ دہلی میں ایک دفعہ جب کہ حضرت کے ساتھ صرف دو یا تین مہمان تھے ایک شخص نے حضرت کی دعوت میں تقریباً ساٹھ پیسے

آرمیوں کا کھانا پکایا اور جیسے بیاہ شادیوں میں برادری کی دعوت کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو بلایا اور کھانے میں بھی بہت تکلف کیا اور کئی طرح کے کھانے پکوائے جس سے حضرت کو بہت افسوس ہوا اور اس کو سمجھایا۔ شاید یہ وہی واقعہ ہو واللہ اعلم۔ اس علاوہ بھی قصاب پورہ دہلی کے لوگ شروع شروع میں طبیعت سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح تکلف کرتے تھے آخر حضرت کی تعلیم اور توجہ سے جب لوگوں کی اصلاح ہوئی تو تکلف ترک کر دیا۔ (مؤلف)

(۶) ایک مرتبہ زوار حسین شاہ صاحب نے حضرت کی خدمت میں ایک صندوق پیش کیا (یہ چمڑے کا سوٹ کیس حضرت نے اس عاجز کو اپنی رقم دیکر دہلی سے خرید کرایا تھا۔ مؤلف) آپ کو وہ بہت پسند آیا۔ آپ کو خلیل آیا کہ اس سے نفس خوش ہوا، اس لئے صندوق کو استعمال نہیں کروں گا وہ صندوق مکان میں مچان پر ایک طرف عرصہ تک رکھا رہا صاحبزادوں کو بھی نہیں دیا۔ جب یہ عاجز (مولانا گوہانوی) احمد پورہ شرقیہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ صندوق جس پر پڑے پڑے کافی گرد جم گئی تھی بندہ کو عنایت فرمایا۔

ح | (۷) ایک روز بعد نماز مغرب قلمبوسی کی سعادت حاصل  
از صوفی محمد احمد صاحب۔ | ہوئی۔ اس روز حاجی حبیب اللہ صاحب روشکی کے ہاں  
حضرت کی دعوت تھی اور غالباً مچھلی کی تھی لیکن کھانا یا تو قبلہ حاجی عبدالمجید صاحب  
رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر یا حاجی محمد شفیع صاحب مدظلہ کے مکان پر لایا گیا تھا حاجی  
حبیب اللہ صاحب حضرت صاحب کی خدمت میں کھانا پیش کر کے مزید کچھ لانے کیلئے  
چلے گئے تو آپ نے کھانا شروع کر دیا لیکن حضور نے حاضرین کو کھانا کھانے کے لئے

نہیں فرمایا اس عاجز کو خطرہ آیا کہ حضرت صاحب نے کھانا کھانے کے لئے کسی کو بھی نہیں پوچھا فوراً فرمایا کہ تم سب کو اس لئے کھانے میں شامل نہیں کیا کہ صرف میری دعا ہے مالکِ طعام اس وقت موجود نہیں مجھے ان کی اجازت کے بغیر تم لوگوں کو پوچھنے کا حق نہیں۔ اتنے میں حاجی صاحب تشریف لے آئے۔ آپ نے دریافت فرمایا ان سب کو کھانا کھانے کے لئے کہہ دیا جائے؟ حاجی صاحب نے فرمایا حاجی حضور بخوشی کھانا سب کھائیں کھانا بہت بنا ہے۔

(۸) ایک روز یہ عاجز رہتک میں مجلسِ عالی میں حاضر تھا ایک صاحب تالی لائے اور حضرت کی خدمتِ عالی میں پیش کیا آپ نے لینے سے انکار کیا بہت اصرار کے بعد آپ نے وہ تالا ہاتھ میں لے لیا لیکن پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو اتھوں نے جواب دیا حضور میرے والد صاحب کی دکان ہے فرمایا ملکیت آپ کے والد صاحب کی ہے نہ کہ آپ کی آپ کو ان کی ملکیت میں سے دینے کا کچھ حق نہیں یہ کہہ کر واپس کر دیا۔

(۹) ایک دفعہ حضرت قدس سرہ کسی عقیدتمند کے مکان سے حضرت حاجی عبدالمجید صاحب کے مکان پر تشریف لائے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد فرمایا بھئی میرے گلہ اس میں کسی حقہ پینے والے نے پانی پی لیا ہے ایسا نہ کیا کریں دریافت کرنے پر ایک صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کی اور کہا کہ لاعلمی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے پھر گلاس اچھی طرح دھویا گیا۔

(۱۰) ایک دفعہ حضور قصاب پورہ دہلی سے رہتک روانہ ہوئے عاجز بھی مع اہلیہ بڑے اسٹیشن سے اسی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ رہتک میں شاید حاجی محمد شفیع صاحب کے ہاں قیام فرمایا، نچلے کمرے میں سب مرد بیٹھ گئے اوپر کی منزل پر سب عورتیں چلی گئیں انھوں نے مشورہ کیا کہ کسی سوراخ یا جنگلہ میں سے حضرت صاحب کو دیکھیں بہت

کوشش کی لیکن نظر نہیں پڑے۔ حضرت صاحب نے نصیحتوں کے دوران میں فرمایا کہ پیر کے دیکھنے سے کچھ فائدہ نہیں اس کی نصیحتوں پر عمل کرنے میں فائدہ ہے۔ اُس وقت ان جملوں کا مطلب عاجز نہ سمجھ سکا لیکن بعد میں اہلیہ سے معلوم ہوا کہ آج عورتوں نے حضرت کو دیکھنے کی بہت کوشش کی تھی مگر نظر نہیں پڑے۔

(۱۱) ایک مرتبہ رتہ تک میں حضرت کو ریاحی درد ہوا آپ کو اس روز سخت تکلیف تھی فادموں نے عرض کیا حضور سوڑے کی بوتل بازار سے منگوا دیں وہ اچھی رہے گی دریافت فرمایا کیا مسلمان کا کارخانہ ہے عرض کیا نہیں حضور کارخانہ تو ہندو کا ہے۔ فرمایا میں استعمال نہیں کروں گا اللہ پر بھروسہ کرو۔

(۱۲) حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہمانوں کو از مولانا عبدالحلیم صاحب پانی پتی اکثر خود اور ایک ساتھ کھانا کھلاتے تھے لیکن ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مجھ سے پہلے چند نووارد مہمانوں کو کھانا کھلا کر فارغ کر دیا پھر میرے لئے علیحدہ کھانا لائے اور فرمایا کہ کھانے میں فرق نہیں مگر چونکہ یہ لوگ جماعت کے پابند نہیں اس لئے تمہیں علیحدہ کھلایا۔ اسی طرح ایک حقہ پینے والے مہمان کے ساتھ واقعہ پیش آیا تو فرمایا غیر محتاط شخص کے ساتھ کھانا بھی سالک پر اثر انداز ہوتا ہے او کما قال علیہ الرحمۃ۔

(۱۳) ایک مرتبہ آپ گھر سے کچھ کھجوریں پختہ و نیم پختہ لائے اور فرمانے لگے کہ یہاں درختوں کو پھیل آنے سے قبل فروخت کر دیا جانا ہے جو شرعاً ناجائز اور یہ بیع باطل ہے اسی لئے یہ عاجز ایسے پھل نہیں کھاتا اور یہ خریا چونکہ اپنے کنوئیں کی ہیں اس لئے میں نے خود بھی کھائیں اور آپ کے لئے بھی لایا ہوں (سبحان اللہ! ایسا نقوی اکابرین

سلف میں ہی ملتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی اسی قسم کا ہے کہ بازار سے خرید کر پھل نہیں کھاتے تھے کہ ان کی بیع باطل ہوتی ہے کیونکہ پھل آنے سے پہلے بیچ دیتے ہیں واللہ اعلم۔ آجکل ایسے متقی بہت کم ملیں گے۔ (مؤلف)

(۱۴) آپ پان کا استعمال مبلح اور جائز جانتے ہوئے فضول خرچی میں شمار فرماتے تھے۔ گوہانہ کا واقعہ ہے کہ حضرت صاحب علیہ الرحمۃ کے گلوئے مبارک میں کچھ خراگ محسوس ہوئی اور آواز بیٹھی ہوئی معلوم ہونے لگی۔ خدام نے پان کھانے کی فہمائش کی اور پیش کیا آپ نے پان کا بیڑا ہاتھ میں لیکر فرمایا الہی بیہ پان بطور دوائی کھاتا ہوں۔ (۱۵) ایک دفعہ حضرت صاحب علیہ الرحمۃ پانی پت میں استاذنا حضرت مولانا

مفتی عبدالرحیم صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کیلئے تشریف لائے احقر پردہ کا انتظام کرایا اور حضرت والدہ ماجدہ صاحبہ چونکہ نابینا تھیں ان کو دہلیز میں بیٹھا رہنے دیا اور حضرت علیہ الرحمہ سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی۔ آپ والدہ صاحبہ کو دیکھ کر وہیں رک گئے اور منہ دوسری طرف کر لیا اور فرمایا یہ کون ہیں۔ عرض کیا میری نابینا اماں ہیں۔ فرمایا ان سے کہو پردہ کریں میں تو نابینا نہیں ہوں۔

(۱۶) سفر میں اکثر اوقات منہ پر رومال ڈال کر مراقب ہو جایا کرتے تھے تاکہ غیر محرم پر نظر پڑنے سے بچے بھی رہیں اور مشغولیت فکر میں فتور بھی واقع نہ ہوئے اور پیدل چلتے میں بھی سر پر رومال ڈال لیتے تھے اور نظریں نیچی کر کے چلتے تھے تاکہ غیر محرم کیا بلکہ قلب کو اپنی طرف رجوع کرنے والی کسی بھی چیز پر نظر نہ پڑے اور جمعیت حضورؐ میں فتور واقع نہ ہو۔ "نظر بر قدم" پر ہر وقت ہر لحاظ سے عمل فرماتے تھے۔

(۱۷) یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ آپ کو کسی سے کسی طرح کی دنیاوی غرض



نہیں تھی اس لئے سفر میں نیا جوتا عمدہ لباس اور جملہ ضروری سامان گھر سے لیکر روانہ  
 ہونے سے تاکہ کسی کو خیال نہ ہو کہ ہمارا پیر مفلس اور تنگ دست ہے اس کی مالی امداد  
 کرنی چاہئے کیونکہ یہ بھی سوال (مانگنے) کی ایک شکل ہے کہ لوگ کسی کی حالت دیکھ کر  
 اسے زبان حال سے سوال سمجھتے اور امداد کرنے لگتے ہیں۔ بحمد اللہ ہمارے حضرت جہا  
 کے حال یا گفتگو کے انداز سے تو کیا مانگنے کی صورت ظاہر ہوتی، اگر لوگ اپنی خوشی  
 سے حضرت کو کوئی نقدی یا چیز پیش کرتے تو حضرت اس کو بھی نہ لیتے تھے کہ تدر و نیاز  
 آجکل رسم بن چکی ہے اور اصلی مقصد سے طالبین کو روکنے کا موجب ہو گئی ہے۔  
 آپ کے مکان مبارک پر حاضر ہونے والے بعض ضرورتمند ہمانوں کی آپ اپنے پاس  
 اچھی خاصی نقدی کی امداد فرمادیا کرتے (جیسا کہ پہلے بھی کچھ ذکر کیا جا چکا ہے) آپ کے  
 خدام کی درخواست پر آپ کے شیخ نے آپ کو اجازت دی تو آمدورفت کا کرایہ لے  
 لیتے اور حلال کمائی سے مسلمان سے خرید شدہ اشیاء کا کھانا اگر تازی پکائے اور چا  
 تکلف نہ کیا جائے تو ان شرائط پر دعوت طعام منظور فرمالتے تھے اس پر بھی اگر  
 بجمہوری آپ تشریف نہ لاسکتے تو کرایہ واپس فرمادیتے نیز اگر کسی اخلاص و محبت  
 والے مرید نے حضرت کو کوئی چیز مدینہ پیش کی تو غایت اخلاص و محبت کی بنا پر  
 انکار میں دل شکنی کے خیال سے اس کو قبول فرمالتے اور اپنے پیرو مرشد کے لشکر  
 میں دیدینے والا شاہراہ اللہ چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت الحاج حکیم صدیق علی  
 صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تانبے کے دو بڑے منقش کٹورے پانی پینے کے  
 (جو پانی پت کی سوغات ہیں سے تھے) خدمت عالیہ میں پیش کئے آپ نے ان کو  
 شرف قبولیت بخشا اور پھر حضرت غریب نواز خواجہ محمد فضل علی شاہ صاحب

قدس سرہ کے لنگر میں مسکین پورے آئے۔ اس قسم کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہدیہ اور دعوت کی سنت کے منکر نہیں تھے بلکہ خلاف شرع رسمی نذر و نیاز اور خلاف تقویٰ و خلاف شرع دعوت سے آپ پرہیز و گریز فرماتے تھے۔

از حضرت حاجی محمد شفیع صاحب | (۱۸) ایک دفعہ دہلی میں حاجی عبدالغفور صاحب ٹھیکیدار جو محلہ ڈپٹی گنج میں

رہتے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کرنے لگے۔ حضرت نے فرمایا حاجی صاحب مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے آپ کسی غریب آدمی کو دیں۔ حاجی صاحب نے کہا کیا حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نذرانہ نہیں لیا اور دعوت قبول نہیں کی جو آپ نذرانہ اور دعوت قبول نہیں کرتے۔ آپ نے مولوی صاحبان (جو اس وقت موجود تھے) کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کیوں مولوی صاحبان! حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کے وقت حضور کے مکان مبارک میں کیا تھا ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا۔ آپ نے جواب دیا حضور کچھ جوہیں۔ آپ نے فرمایا خیرات کر دو۔ (یہ حدیث اس عاجز کو نہیں مل سکی البتہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فقر و زہد کے متعلق دیگر بہت احادیث ہیں مثلاً عن انس بن مالک رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِيَوْمٍ (رواه الترمذی) یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے روز کے لئے کچھ ذخیرہ نہیں رکھتے تھے دیگر عن عائشہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دَرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَرْضًا بَشِيًّا (رواه مسلم) یعنی آپ نے

مدوقات کے دینار و درہم اور بکری اور اونٹ کچھ نہیں چھوڑا اور نہ کسی چیز کی وصیت کی۔ (یعنی وصیت ترکہ کے لئے کوئی مال چھوڑا ہی نہیں۔ زیادہ تشریح کیلئے کتب ن کی طرف رجوع کریں۔ مؤلف) حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حاجی صاحب ہیں تصوراً تو علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برابری کیسے کر سکتا ہوں حالانکہ میرے گھر میں تو بہت سامان ہے اور ہر طرح کی فراغت ہے۔ میں سنت کا تارک نہیں ہوں ضرورت کے وقت ملے لیتا ہوں لیکن اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ آپ سی حاجتمند کو کیوں نہیں دیدیتے جو مجھ سے کہیں زیادہ مستحق ہے، وہ تمام علماء اور حاضرین اس بات پر قائل ہو گئے اور حضرت نے بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھا دیا کہ بہت سے لوگ بہت زیادہ مستحق ہیں جن کی طرف اہل وسعت کی نظر نہیں جاتی اور پیروں کو روپے و نذرانے دیکر اپنا ناچاہتے ہیں حالانکہ پیروں کی خوشی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ادا کئے جائیں واللہ اعلم

(حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب <sup>۲۶۵</sup> میں دعوت کے چند شرائط تحریر فرمائے ہیں، لکھتے ہیں کہ "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے حق مسلمان پر پانچ ہیں۔ سلام کا جواب دینا، بہار پر سی کرنا، جازہ کے پیچھے جانا، دعوت کا قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا لیکن دعوت کے قبول کرنے میں چند شرائط ہیں۔ اجار العلوم میں لکھا ہے کہ اگر طعام مشتبہ ہو یا دعوت کا مکان اور وہاں کافر شلال نہ ہو یا وہاں ریشمی فرش اور چاندی کے برتن ہوں یا چھت یا دیوار پر حیوانوں کی تصویریں ہوں یا باجے یا سماع کی کوئی چیز ہو یا کسی قسم کے لہو و لعب (کھیل کود) کا شغل ہو یا غیبت بہتان اور جھوٹ کی مجلس ہو تو ان سب

صورتوں میں دعوت کا قبول کرنا منع ہے بلکہ یہ سب امور اس کی حرمت اور کراہت کا موجب ہیں اور ایسے ہی اگر دعوت کرنے والا ظالم یا فاسق یا مبتدع یا شریر یا تکلف کرنے والا یا فخر و مباہات کا طالب ہے تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ اور شرعۃ الاسلام میں ہے کہ ایسے طعام کی دعوت قبول نہ کریں جو ریا و سمع کے لئے تیار کیا گیا ہو۔ اور محیط میں ہے کہ جس بساط پر لہو و لعب کا سامان ہو یا لوگ بغیبت کرتے اور شراب پیتے ہوں تو وہاں بیٹھنا نہیں چاہئے جیسا کہ طالب المؤمنین میں ہے۔ اگر یہ سب موانع نہ ہوں تو دعوت کے قبول کرنے سے چارہ نہیں لیکن اس زمانے میں ان موانع کا مفقود ہونا شواہد سے انتہی کلامہ الشریف (جو لوگ بزرگوں پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ سنتِ دعوت سے انکار کرتے ہیں وہ ان مفاسد کو سامنے رکھ کر نہیں سوچتے کہ ان کا یہ اعتراض درست نہیں ہے واللہ اعلم۔ مؤلف)

(۱۹) ایک دفعہ حضرت نے حاجی محمد شفیع صاحب کو تحریر فرمایا تھا کہ میرے لئے دو گرتے دو تہمد اور دو صافے بنا کر رکھنا جب میں ہندوستان آؤں گا تو لے لوں گا اور خریدنے وقت شاہ صاحب (احقر مؤلف) کو ساتھ لے لینا۔ چنانچہ حاجی صاحب نے حسب ارشاد تعمیل کی لیکن آپ بیماری کی وجہ سے تشریف نہ لاسکے اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا وہ کپڑے حاجی صاحب نے بذریعہ پارسل ڈاک ارسال خدمت کر دیئے بعدہ جب حضرت ہندوستان تشریف لائے تو حاجی صاحب کو بھی اطلاع دی کہ فلاں روز (غالباً پیر کو) پانی پتہ پہنچ رہا ہوں۔ چنانچہ حاجی صاحب حضرت سے ملنے کے لئے پانی پتہ حاضر ہوئے۔ وہاں حضرت نے مولانا مولانا محمد سعید صاحب گوبانوی مدظلہ العالی سے فرمایا کہ میری رقم میں سے حاجی محمد شفیع صاحب کے کپڑوں کی قیمت ادا کر دیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا گوبانوی صاحب کو اپنی رقم بطور

امانت دے دیتے اور حسب ضرورت اس میں سے خرچ کراتے رہتے تھے) مولوی صاحب نے حاجی صاحب سے ذکر کیا اور رقم دینے لگے۔ حاجی صاحب نے کہا مولوی صاحب میری خوشی تو اس میں ہے کہ میں کچھ نہ لوں اور یہ کپڑے حضرت کی تندر ہو جائیں اگر حضرت پھر فرمائیں تو آپ یہی کہہ دیتا۔ چنانچہ مولوی صاحب نے حضرت کے دوبارہ فرمانے پر وہی حاجی صاحب کا جواب عرض کر دیا۔ حضرت نے حاجی صاحب سے فرمایا کہ آپ رقم لے لیں۔ حاجی صاحب نے کہا کہ حضرت کیا ہم اس قابل بھی نہیں کیا ہمیں اتنا بھی حق نہیں کہ آپ کی اتنی حقیر سی خدمت کر سکیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے لیکن آئندہ کو آپ میرے لئے راستہ بند کر رہے ہیں کہ میں آپ سے کوئی کام نہ کرایا کروں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے جب میں نے خود کہہ کر کپڑے بنوائے ہیں تو آپ کو قیمت لے لینی چاہئے ورنہ مجھے آئندہ کے لئے کام کہنے میں رکاوٹ ہوگی۔ عرض جب حضرت نے بھی اصرار فرمایا تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں رونے لگا اور عرض کیا کہ حضرت اوروں کے پیر آتے ہیں وہ ان کے لئے کتنا کتنا خرچ کرتے ہیں آپ ہم سے اتنا بھی نہیں لیتے آپ نے ایک طرف کا کرایہ تو ہمارا منظور کیا ہوا ہے اس میں اس رقم کو محسوب فرمائیں تب حضرت نے مسکرا کر کپڑے رکھ لئے اور وہ رقم کرایہ میں محسوب فرمائی۔

(۲۰) ایک دفعہ حضرت حاجی مولوی عبدالمجید صاحب مرحوم روہنگی کو دس روپے دیکر فرمایا کہ یہ روپے حاجی محمد شفیع صاحب کو دیدیں کیونکہ ان کے ذمہ ہمارے ہمانوں کا خرچ ہوتا ہے ان پر اتنا بار ڈالنا مناسب نہیں۔ حاجی مولوی عبدالمجید صاحب نے وہ روپے حاجی محمد شفیع صاحب کو دیئے۔ حاجی صاحب نے پوچھا یہ کیسے ہیں مولوی صاحب نے کہا حضرت نے خوراک کی امداد میں دیئے ہیں۔ حاجی صاحب نے کہا مولوی صاحب آپ بھی بھولے آدمی ہیں آپ نے کیوں لئے اب آپ واپس کر دیں۔ مولوی صاحب نے کہا

آپ خود ہی واپس کر دیں، غرض حاجی محمد شفیع صاحب نے وہ رقم بڑے اصرار سے واپس  
حضرت یہی فرماتے رہے کہ ہمیں کیا حرج ہے آپ پر میرے مہاتوں کا اتنا بار کیوں ہو۔ غرض  
حضرت اپنے دوستوں پر کوئی بار ڈالنا کبھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔

(۲۱) ایک دفعہ حاجی محمد شفیع صاحب و حافظ محمد یونس صاحب مع اپنی اہلیہ صاحبہ  
اور حاجی حبیب اللہ صاحب حضور کی خدمت میں احمد پور شرقیہ حاضر ہوئے۔ حافظ محمد یونس  
صاحب کی اہلیہ چند کپڑے حضرت کے لئے لائیں۔ رخصت کرتے وقت حضرت نے کچھ اپنے  
ہاں کے تحفے (مٹی کے برتن اور کھجوریں وغیرہ) عنایت فرمائے اور کپڑے جو حافظ محمد یونس  
صاحب کی اہلیہ لائی تھیں واپس فرمادیتے۔ حافظ صاحب نے قبول فرمانے کیلئے بہت  
اصرار کیا تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اچھا میں آپ کی اہلیہ صاحبہ کی طرف سے اللہ کے  
یہ کپڑے قبول کرتا ہوں اب یہی کپڑے اللہ واسطے آپ کو دیتا ہوں آپ قبول کر لیں  
طرح حضرت نے وہ واپس کر دیئے۔

(۲۲) ایک دفعہ حضرت حاجی محمد شفیع صاحب سے کسی جاننے والے نے کہا کہ میرا  
بیوی پر آسیبی اثر ہے اور وہ آسیب گھر میں رہتا ہے آپ اپنے حضرت صاحب سے ایک تعویذ  
لے دیں۔ حاجی صاحب نے ان سے کسی دن آنے کیلئے کہا۔ ایک روز جب حضرت صاحب  
نماز اشراق کمرے سے باہر تشریف لائے تو وہ شخص بھی حاضر خدمت ہوا اس نے مصافحہ  
کرتے وقت حضرت صاحب کے ہاتھ میں ایک روپیہ پیش کیا۔ حضرت نے فوراً وہ واپس کر  
اور اس کو ایک تعویذ اور کیلیں آسیب کے دفعیہ کے لئے پڑھ کر دیں۔ اس کے چلے جانے  
بعد حضرت صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ حاجی صاحب آپ نے اس شخص  
منع نہیں کیا کہ وہ روپیہ نہ دے۔ جس وقت اس نے میرے ہاتھ میں روپیہ دیا تو مجھے اب

محسوس ہوا کہ کسی شخص نے ہتھوڑا مارا ہے آپ اس کا خیال رکھا کریں۔ حاجی صاحب نے معافی چاہی اور عرض کیا حضور مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ یہ شخص روپیہ پیش کرے گا۔

(۲۳) ایک مرتبہ حضرت کے مریدوں میں سے ایک شخص حج بیت اللہ شریف کیلئے

روانہ ہوا اس نے رخصت ہوتے وقت حضرت کی خدمت میں ایک روپیہ بطور نذر پیش

کیا۔ حضور نے قبول نہ فرمایا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ حضور عرض یہ ہے کہ رسول پاک

صلی اللہ علیہ وسلم نذر و دعوت قبول فرمالتے تھے مگر آپ ان دونوں میں سے ایک بھی

قبول نہیں فرماتے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں سنت کا تارک نہیں ہوں مگر اللہ تعالیٰ

نے مجھے سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ عنایت فرمایا ہے لہذا عاجز چاہتا ہے کہ دنیا کٹھی

نہ کرے اور بہت سی مخلوق حاجت مند ہے آپ لوگ ان کو کیوں نہیں دیتے۔

(۲۴) ایک مرتبہ حضرت دہلی قصاب پورہ میں محمد بشیر صاحب کے ہاں مقیم تھے وہ

ایک روز ایک سیٹھ کو لائے جو سگرٹوں کا کاروبار کرتا تھا اس پر کسی ہندو نے بیس پچیس

ہزار روپیہ کا دعویٰ کر دیا تھا۔ محمد بشیر صاحب نے حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کیا

کہ حضور یہ بہت بڑا سیٹھ ہے اس کے لئے دعا فرمائیے کہ ہندو مقدمہ ہار جائے۔ حضرت

کو بذریعہ کشف معلوم ہوا کہ اس سیٹھ کا قصور ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ حق کرے (یعنی جو

حق دار ہے اس کے حق میں فیصلہ کرے) جب وہ سیٹھ چلا گیا تو حضرت صاحب محمد بشیر پر بہت

ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ہم کسی سیٹھ وغیرہ کے رعب میں نہیں آتے اس قسم کے ناجائز

معاملات ہمارے پاس نہ لایا کرو میں فقیر ہوں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ کیا تم کو (ناجائز

کام کیلئے) دعا کرنے کی جرأت اس لئے ہوئی کہ میں تمہارے ہاں کھانا کھاتا ہوں میں

اپنی جیب سے خرچ کر کے اپنا کھانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ حضرت کے چہرے پر اس وقت

بہت جلال تھا اور اس طرح غصے میں آپ کے شاہد بھی دیکھا گیا ہو۔ محمد بشیر صاحب  
معافی مانگی اور بہت تادم ہوئے۔ حضرت صاحب نے معاف فرمایا اور ناراضگی فوراً  
دور فرمادی کیونکہ معافی مانگنے پر آپ کا غصہ جلدی ہی رفع ہو جاتا تھا۔

از سید مبارک علی شاہ صاحب کربلا والے (۲۵) شروع میں جب آپ تشریف  
لانے لگے تو عادت مبارک تھی کہ جتنے

سفر کا پروگرام ہوتا اتنے دن کا گھی اور آٹا وغیرہ ہمراہ لاتے اور فرماتے کہ جب ختم ہو جائے  
تو مطلع کریں۔ اطلاع کے بعد حضور واپس تشریف لے جاتے اس کے دو وجوہ ہوتے  
تھے ایک تو خادموں پر بار نہ ڈالنے کا خیال دوسرے تقویٰ کا لحاظ کیونکہ بازار کا گھی وغیرہ  
آپ استعمال نہیں کرتے تھے ایک دفعہ فرمایا کہ آموں اور دیگر پھلوں کی بیج آجکل ناجائز  
رباطل ہوتی ہے اسی لئے آپ بغیر اطمینان کے آم و دیگر پھل نہ کھاتے تھے۔ ایک دفعہ  
عاجزے بازار کی دھلی ہوئی دال پکوائی اگلے روز فرمایا کہ دال گھر کی دھلی ہوئی چاہئے  
یعنی تقویٰ اور طہارت کے خلاف چیز کا حضرت کے قلب مبارک پر فوراً اثر ہوتا تھا۔ شروع  
میں کرایہ سفر بھی خود ہی خرچ کرتے بعد میں درخواست پر قبول فرمانے لگے تاہم اگر کوئی  
خادم کرایہ کا متی آرڈر کرتا تو جتنا خرچ ہوتا کرتے بقایا واپس کر دیتے تھے۔

از صاحبزادہ مولانا محمد صادق صاحب مدظلہ (۲۶) احمد پور شرقیہ سے چودہ میل کے  
فاصلہ پر گوٹھ چنی ایک چھوٹا سا

قصبہ ہے وہاں موضع لعلو پانچ میں چند بیگیا راضی حضرت کی ملکیت تھی۔ آپ گاہے گاہے  
وہاں تشریف لے جاتے اور ضرورت کے مطابق قیام فرماتے۔ وہاں کا ذکر ہے کہ آپ  
کسی مزارع کے مکان میں رات کے وقت آرام کر رہے تھے۔ مزارعہ اور اس کی اہلیہ



بھی اسی کمرہ میں سو رہے تھے۔ تقریباً رات کے بارہ بجے مزارعہ کنواں چلانے کے لئے پیل لیکر چلا گیا۔ سردی کا موسم تھا اور پوہ کا ہیٹھ، غضب کی سردی پڑ رہی تھی، حضرت والد صاحب نے فرمایا ”کہ جب میں بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں مزارع موجود نہیں ہے میں اور مزارع کی گھر والی ایک کمرہ میں سو رہے ہیں، میں اسی وقت اٹھا اور وضو کیا، اسی کنوئیں پر ایک مسجد بغیر چھت کے بنی ہوئی تھی جس کو مصلیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے میں وہاں جا کر عبادت میں مشغول ہو گیا تا کہ مجھ سے تنہائی میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، یا ایسا نہ ہو کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں میری طرف سے برائی کا وسوسہ ڈالے اس لئے اس عاجز کو اس کمرہ میں جہاں صرف ایک عورت ہو نہیں سونا چاہئے“ چنانچہ آپ نے سردی اور بیداری برداشت فرمائی۔ صبح تک چھ گھنٹہ متواتر عبادت الہی میں مشغول رہے اور مظنہ سور کو دور فرمایا۔ یہ انقوائین مَوَاقِعِ التَّحَمُّمِ پر عمل پیرا ہونے والے حضرات ہیں جنہوں نے اپنی جان پر بازی کھیلی مگر دوسروں کو بدگمانی کا موقع نہ دیا۔

## ترتیب مریدین

از صاحبزادہ مولانا محمد صادق صابڈ ظلہ العالی (۱) حضرت قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس محلہ میں

رہتے تھے اسی محلہ میں مولوی محمد شتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق نواب صاحب آف بھاو لپور کے پرائیویٹ سکریٹری بھی رہتے تھے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی بہت محبت تھی۔ جس برتن میں حضرت والد صاحب مرحوم پانی پیتے اسی برتن کے

اسی جگہ پر لب لگا کر وہ پانی پیتے جہاں پر والد صاحب نے پانی پیا ہوتا۔ دن رات  
 بیشتر حصہ آپس میں اکٹھا گزارتے۔ دونوں حضرات کو دینی کتب کے مطالعہ کا بہت  
 تھا ایک کتاب ختم ہوتی تو دوسری کا مطالعہ فرماتے۔ بعض کتابوں کے پڑھنے کے بعد  
 میں مذاکرہ بھی کرتے۔ اکثر کتابیں علم فقہ و تفسیر و حدیث و تاریخ کے ساتھ تعلق  
 تھیں۔ ایک دفعہ آپس میں مشورہ کیا کہ اب بزرگان دین کے مزارات پر چلیں اور ہر مزار  
 کم از کم دو دن قیام کریں۔ سب سے پہلے سمرندہ حضرت خواجہ محکم الدین صاحب السیر  
 کے مزار پر تشریف لے گئے۔ وہاں دو دن قیام فرمایا بعدہ خیر پور حضرت خواجہ خد  
 صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ اس کے بعد چشتیاں شریف حضرت  
 نور محمد صاحب ہماروی کے مزار پر تشریف لے گئے۔ وہاں بھی قیام فرمایا۔ اسی ط  
 ریاست بھاو لپور کے باقی مزارات پر حاضری دیتے گئے بالآخر دہلی تشریف لے گئے۔  
 مزارات بکثرت ہیں مختلف مزارات پر حاضری دیتے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ قیام  
 کسی دن خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لے جاتے تو کسی دن مرزا  
 جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر مراقبہ فرماتے کسی دن شاہ کلیم اللہ  
 رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد پر انوار پر حاضری دیتے اور کسی دن خواجہ نظام الدین صاحب  
 کی خانقاہ پر مراقبہ فرماتے۔ دہلی کے دوران قیام میں مشہور بزرگوں کے مزارات پر جا  
 رہے حضرات محدثین رحمہم اللہ کی قبور پر بھی حاضر ہوتے رہے۔ جس مزار پر تشریف لے  
 شرعی طریقہ سے ایصالِ ثواب فرماتے دہلی سے آگے اجمیر تشریف تک اپنے اس سفر کو جاری  
 لہ دہلی سے حضرت صاحب قدس سرہ جناب مولانا محمد شتاق صاحب موصوف کی معیت میں پانی پت  
 لائے اور وہاں سے سرند تشریف لے گئے تھے جیسا کہ صفحہ ۵۳ پر بیان ہو چکا ہے۔

اجمیر شریف میں چند دن قیام فرما کر پھر واپس وطن مالوف ہوئے۔ ان دونوں حضرات نے یہ تمام سفر میل کر کیا۔ مولوی صاحب ہی صرف آپ کے ہمراہ تھے۔ دونوں میں محبت کا رشتہ وابستہ رہا محبت میں کمی نہ آئی۔

مولوی محمد شتاق صاحب چونکہ بڑے عہدوں پر فائز رہے تھے اس لئے وہ امیر آدمی تھے۔ ایک موقع پر سیر و تفریح کے لئے حضرت مولوی صاحب موصوف کراچی تشریف لے گئے تو کراچی پہنچے پر اپنا بدن وزن کرایا۔ وہ وزن خط میں لکھ کر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا۔ جس میں یہ بھی تحریر تھا کہ بندہ کراچی سے واپسی پر پھر اپنا بدن وزن کرا میگا کہ کتنی زیادتی ہوئی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو پڑھا اور معاف فرمایا افسوس میں تو مولوی صاحب کو خستی طالب علم سمجھتا تھا یہ تو ابھی بتدی ہیں۔ عبادت الہی میں مشغول رہنے والا شخص اپنے بدن کا وزن نہیں کرانا بدن جتنا کمزور ہوتا جائے اس کی کچھ پرواہ نہیں کرنی چاہئے۔ راہ مولیٰ میں تکلیف اٹھانے کی وجہ سے بدن کا کمزور ہو جانا بزرگان دین میں پایا جاتا ہے نہ کہ بدن کو فریب بنانے کے درپے ہوتا، بدن کے فریب ہونے میں کیا رکھا ہے۔ ذکر کو مست رہنا چاہئے خواہ سارا بدن گھل جائے، بدن کا وزن کرنا بے سود و عبث فعل ہے۔ اسی قسم کا جواب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیارے دوست کی خدمت میں تحریر فرمایا، اس بات کا خیال نہ فرمایا کہ میرا دوست اس میں راضی ہوگا یا ناراض۔ قُلِ الْحَقُّ وَ اِنْ كَانَ مُرًّا۔ آپ نے انھیں احساس دلا دیا کہ بھائی بدن کے وزن کی طرف توجہ نہ کرو ذکر الہی میں مشغول رہو، اس بدن کے موٹا ہونے میں کیا رکھا ہے۔ یہ تھا طریقہ بزرگان دین کا کہ حق گوئی میں اپنے دوست کی ناراضگی کا خیال بھی نہ فرماتے بلکہ سمجھانا اپنا فرض جانتے تھے کہ ایک گہرے دوست کو اس کی غلطی کی طرف متوجہ کر دیا۔ ہمیں بھی اس زمانے میں ان کے اس سوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونا چاہئے۔

(۲) ہمارے گھر سے تین میل کے فاصلہ پر ایک کنواں ہے جہاں کچھ اراضی ہمارے ملکیت ہے۔ وہاں پر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر قیام فرماتے تھے۔ بعض دفعہ دو تین دن بھی رہنا پڑ جاتا تو دورانِ قیام آپ اپنے ہمراہ خواجہ غلام فرید صاحب دیوان (نظموں کا مجموعہ) جو اس علاقہ کے بزرگ تھے جن کا وصال ہو چکا ہے) ہمراہ لے جاتے اور اس کو پڑھتے۔ اس میں جو اشعار آپ کو پسند آتے اس پر اپنے نام کے دستخط فرمادیتے وہ دستخط شدہ دیوان مذکور گھر میں اب بھی موجود ہے۔ یہ عاجز بھی اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہے اس سے مستفیض ہوتا ہے۔ اسی کنوئیں پر ایک حافظ صاحب نابینا رہتے تھے جن کو آپ اشعار یاد کراتے پھر ان سے سنتے، آپ ان اشعار کو پڑھتے تو وہ حافظ صاحب سنتے اور وہ حافظ صاحب پڑھتے تو آپ سنتے۔ حافظ صاحب مذکور زندہ ہیں اب تک ان کو وہ اشعار یاد ہیں بعض دفعہ اس عاجز کو ان حافظ صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا تو ان سے وہ اشعار سنے ہیں جو والد صاحب نے ان کو یاد کرائے تھے اور تخلیہ میں ان اشعار کو وہ خود پڑھ کر محظوظ ہوتے ہیں، اگر کوئی کہے تو اس کو بھی سنا دیتے ہیں، ان کا لہجہ درد بھرا ہے۔ ترنم بھی خاص ہے۔ دل میں سوز سا پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان پر کافی اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حافظ صاحب صوم و صلوة و اشراق و تہجد و دیگر نوافل کے پابند ہیں۔

از مولانا گوہانوی مدظلہ العالی | (۱) ایک روز حاضرین جماعت کو نماز کے کچھ آداب بیان فرما رہے تھے قریب ہی مستورات کے مجمع میں آپس میں کچھ جھگڑا شروع ہو گیا جماعت کے کچھ آدمیوں کا اس طرف خیال بٹ گیا ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو نماز کے مسائل کی طرف توجہ دینی چاہئے اور عورتوں کی

کفنگو کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہئے بلکہ اگر خیال آ بھی جائے تو سمجھو کہ اللہ اللہ کی آواز آرہی ہے (تاکہ انا عند ظن عبدی بنی کا مصداق ہو جائے۔ مولف)

(۳) ایک روز ارشاد فرمایا سالک کو چاہئے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں

پنا عزیز وقت ہمہ تن ہو کر گزارے تاکہ آخرت میں افسوس اور حسرت نہ ہو۔

(۳) ایک روز ارشاد فرمایا مولوی صاحب اللہ اللہ بہت اور کثرت سے کرتے رہا کرو

وہ ہر وقت خدمتِ اسلام کرتے رہو اب جوانی ہے بڑھاپا آنے کے بعد کچھ نہ ہوگا۔

(۴) ایک روز ارشاد فرمایا مولوی صاحب! جب تبلیغ کے لئے جاؤ تو نئے کپڑے

پن کرنا کہ لوگوں کو خیال پیدا نہ ہو کہ کہیں یہ کوئی سائل تو نہیں ہے کیونکہ پرانے کپڑے

پن کرنا تبلیغ کرنا سائل ہونے کی دلیل بن جاتی ہے پھر فرمایا سفر میں جانے سے قبل وضو کر کے

ورامت نماز نفل پڑھ کر رضائے الہی کی نیت کر کے سفر کو جاؤ اور ظاہر اور باطناً سوال سے

بچنا اللہ اللہ بہت فائدہ ہوگا ہاں اگر بغیر سوال کے کوئی چیز مل جائے تو وہ خوشی سے

لے لیا کرو کیونکہ وہ منجانب اللہ ہوگی ع

چیزے کہ بے سوال رسد دادۃ خداست

(۵) ایک روز ارشاد فرمایا کہ ہر کام خدائے تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہو کوئی دیگر

رض نہ ہو ورنہ قیامت میں اور آخرت میں حسرت ہوگی۔

(۶) ایک روز ایک دوست نے اپنا کوئی گناہ بیان کرنا چاہا تو حضرت نے منع

فرمایا کہ گناہ کا ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔

(۷) ایک روز ایک مال دار عورت نے آپ کی دعوت کی حضرت کو معلوم ہوا کہ

مالدار ہے تو فرمایا کہ اے عورت تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے اس نے عرض کیا ہاں

بگ سستی کے ساتھ تو حضرت نے فرمایا تیری دعوت تب منظور کروں گا جب تو گذشتہ سال کی زکوٰۃ حساب کر کے دینے اور آئندہ باقاعدہ دیتے رہنے کا وعدہ کرے گی اور تجھ پر حج فرض ہے اس کو بھی کسی محرم کے ہمراہ ادا کر اور چکی نیت کر۔ جب اس عورت نے پختہ وعدہ کر لیا تب دعوت منظور فرمائی اور جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا "بھائیو! اس عاجز کی دوستی آپ حضرات کے ساتھ محض خدائے تعالیٰ کے لئے ہے اور ہندوستان میں آنے کی غرض بھی یہی ہے (آپ عورتوں سے براہ راست گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ محرم کے ذریعہ فرماتے تھے) یہ واقعہ غالباً گوہانہ کی ایک عورت کنور محفوظ علی خاں صاحب کی صاحبزادی کا ہے جو صدرن کے نام سے مشہور تھی اس نے حضرت کو اپنے کئی سو روپے کے زیورات تیار کر دیے تھے لیکن آپ نے یہ کہہ کر اس کو واپس کر دینے کہ میں نے قبول کر کے اس لئے تم کو دیئے کہ ان سے حج کرو چنانچہ وہ حج کو گئی۔ اس سال جرمنی کی دوسری جنگ کا آغاز ہوا تھا اور سمینٹ میں نار پیڈوں وغیرہ کے خطرات تھے وہ جہاز جس پر وہ سوار تھی راستہ بھول کر کئی روز گم لاپتہ رہا۔ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں جرمنی نار پیڈوں نے تباہ نہ کر دیا ہو۔ کنور محفوظ علی خاں صاحب نے حضرت کو لکھا حضرت نے تسلی دی کہ اللہ کی راہ میں سفر کر رہی۔ کوئی خطرہ نہ کریں۔ مؤلف)

(۸) ایک روز ارشاد فرمایا عاجز جماعت کے اس آدمی سے بہت خوش ہوتا ہوں جو اپنا ہر عمل سنتِ مقدمہ کے مطابق کرے، بڑے بڑے دعوت کرنے والوں اور نذرانہ پیش کرنے والوں سے وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو سنت کے عامل کو دیکھ کر حاصل ہوتی ہے

(۹) ایک روز ایک شخص نے عرض کیا حضور مجھے بیعت فرمائیں حضرت نے فرمایا پیری اور مریدی کے کچھ شرائط ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرید کو پیری کی صحبت

حاصل ہونا ضروری ہے لہذا آپ فلاں خلیفہ صاحب سے مرید ہو جائیں کیونکہ وہ خلیفہ صاحب آپ کے نزدیک رہتے ہیں ان کی صحبت آپ کو حاصل ہوتی رہے گی اور بندہ بہت دور کا رہنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو جناب سے ہی عقیدت ہے حضرت نے فرمایا میرا آپ کے پاس یا آپ کا میرے پاس آنا جانا بوجہ دوری کے نہیں ہو سکے گا اور صحبت ضروری ہے ایک دو صحبت کافی نہیں ہوتی اس نے پھر اصرار کیا آپ نے فرمایا اچھا تم نہیں مانتے تو تمہارے پاس جو لکڑی کا ہنڑ ہے وہ مجھے ایک دن میں سکھا دو میں تمہیں سلوک کا راستہ ایک ہی دن میں بتا دوں گا چنانچہ اس سوال پر وہ تادم ہوا اور اپنی ضد سے باز آیا۔

صوفی نشود صافی تادرنکشد جامے بسیار سفر باید تا پنختہ شود خامے  
 (۱۰) حضرت مولانا مولوی عبدالمجید صاحب روہتکی کا واقعہ ہے کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت (رحمۃ اللہ علیہ) ان کی عبادت کے لئے ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور بندہ (مولانا گوانوی) بھی حضرت کے ہمراہ تھا جب مکان پر پہنچے تو حضرت نے کچھ کلام الہی پڑھ کر ان پر دم کیا۔ مولانا مرحوم رونے لگے تو حضرت نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ میرے معمولات مرض کی حالت میں ترک ہو گئے ہیں حضرت نے ان کے جواب میں فرمایا "مولوی صاحب مریض کو اللہ تعالیٰ اس کے اوراد کا ثواب بغیر پڑھے ہی عنایت فرماتا ہے (یعنی جن کا وہ تندرستی میں پابند تھا اور بعد صحت پھر پابندی کا ارادہ کرے۔ مؤلف) کیوں فکر کرتے ہو؟" اس فرمان سے مولوی صاحب کو بہت تسلی ہوئی۔ پھر فرمایا مولوی صاحب چند باتیں عرض کرتا ہوں ان پر عمل کریں اور وہ یہ ہیں "یہ مرض آپ کا مرض الموت معلوم ہوتا ہے خیر آپ ایسا کریں کہ اپنے فرش (بچھونے) کو بالکل پاک و صاف رکھیں کوئی نجس چیز اپنے بستر پر نہ لگنے دیں۔ الحمد للہ آپ کے لڑکے

اور ان کی بیویاں وغیرہ بھی ہیں۔ پھر ان کے چھوٹے لڑکے عبدالرحمن صاحب کی طرف حضرت مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ بھائی اپنے والد صاحب کا بستر وغیرہ خوب پاک و صاف رکھنا۔ ان سب نے اقرار کیا کہ حضور بہت اچھا انشا اللہ تعالیٰ کوئی نجس چیز بستر پر نہ لگنے پائے گی۔ بعدہ حضرت نے فرمایا کہ یہ عاجز اس لئے تاکید کرتا ہے کہ اخیر وقت میں سلسلہ کے بزرگوں کی رو میں اپنے سچے دوست کی امداد کے لئے بحکم الہی آتی ہیں جب دروازہ پر آتی ہیں اگر اس دوست کے بستر سے بدبو آتی ہو تو دروازہ سے واپس ہو جاتی ہیں یہ ہدایت فرما کر حضرت رہتک سے دہلی اور دہلی سے کاندھلہ تشریف لے گئے۔ کاندھلہ میں بذریعہ خط معلوم ہوا کہ مولانا عبدالمجید صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت صاحب نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا مولوی صاحب چلو مولانا مرحوم کی تعزیت رہتک پہنچ کر کریں۔ چنانچہ رہتک پہنچے اور صاحبزادہ عبدالرحمن صاحب سے ملاقات کی اور فاتحہ خوانی کے بعد مولانا مرحوم کے آخری حالات دریافت فرمائے۔ عبدالرحمن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جناب کے فرمان کے مطابق ہم نے عمل کیا یعنی والد صاحب کے بستر کو پاک و صاف رکھا یہاں تک کہ جب آخری وقت آیا تو والد صاحب بار بار یہی فرماتے رہے "وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، کون ہے، آواز آئی یا زید بستانی" پھر کہا وعلیکم السلام کون ہے آواز آئی شاہ ابوالحسن خرقانی وغیرہ اسی طرح کئی مرتبہ یہی فرماتے رہے یعنی وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ آخری وقت میں بزرگانِ دین کی رو میں آتی ہیں تو ویسا ہی ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت نے فرمایا ایسا ہی ہوا کرتا ہے تم بھی اپنے بزرگوں سے تعلق درست رکھو۔ سبحان اللہ۔

(۱۱) ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جماعت کا ایک آدمی حضرت کی ملاقات کیلئے



احمد پور شرقیہ آیا۔ اس کو حقہ پینے کی بہت عادت تھی۔ حضرت نے اپنے قیاس سے معلوم کیا کہ اس کو حقہ پینے کی بہت طلب ہے۔ حضرت نے اس کے پاس مٹھائی لاکر رکھ دی اور فرمایا یہ کتنی عمدہ چیز ہے اس کو کھاؤ (مقصد یہ سمجھانا تھا کہ لوگ اشرباک کی عمدہ اور لذیذ نعمتوں کو چھوڑ کر حقہ جیسی بدبودار و نقصان دہ چیز کو استعمال کر کے پیسے ضائع کرتے ہیں۔ مؤلف)

(۱۲) ایک روز ارشاد فرمایا کہ بندہ ہمیشہ اپنے وطن سے تمام جماعت کو توجہ دیا کرتا ہے جب توجہ دیتا ہوں تو بعض جماعتی سے فیض واپس آ جاتا ہے اور بعض جماعتی جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے اور بتایا ہوا ذکر بھی کرتا رہتا ہے وہ فیض کو جذب کر لیتا ہے اور اکثر آپ کی اہلیہ سارا فیض جذب کر لیتی ہے اور بعض وقت جب فیض واپس آ جاتا ہے تو اس میں سے یہ آواز آتی ہے کہ وہاں پر جگہ نہیں (یعنی اس کا محل و ظرف اس کے جذب کرنے کے قابل نہیں ہے چنانچہ حضرت مجدد صاحب بھی مکتوب ۲۶۶ جلد اول میں ایک مقام پر انیسویں عقیدہ کے بیان میں فائزہ جلیلہ کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں ”فقر ایک دفعہ ایک شخص کی بیمار پرسی کے لئے گیا جس کا معاملہ نزع کی حالت تک پہنچا ہوا تھا جب یہ فقر اس کے حال کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ اس کے دل پر بہت سی ظلمتیں چھائی ہوئی ہیں ان ظلمتوں کو دور کرنے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ وہ ظلمتیں اس کے دل پر سے دور ہو جائیں لیکن اس کے دل نے قبول نہ کیا۔ بہت سی توجہ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ظلمتیں صفات کفر سے پیدا ہوئی ہیں جو اس میں پوشیدہ تھیں اور وہ کدورتیں کفر اور اہل کفر کے ساتھ دوستی رکھنے کے باعث پیدا ہوئی ہیں توجہ کے ساتھ یہ ظلمتیں دور نہیں ہو سکتیں اچھا“ اس سے معلوم ہوا کہ بعض ظروف فیضان اخذ کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور اس کی اصل وجہ کفر اور صفات کی ظلمتیں ہوتی ہیں جو کفر اور اہل کفر

کے ساتھ دوستی رکھنے سے پیدا ہوتی ہیں اور ان کا پاک ہونا دوزخ کے عذاب پر موقوف ہے اور آخر کار ایمان کی برکت سے خواہ ذرہ بھر ہی ہو دوزخ سے نجات پا جائے گا ہاں اگر وہ بندہ اس کفر و صفات سے توبہ کرے اور کفر اور اہل کفر کی دوستی کو ترک کر دے تو پھر سیاہی اسی دنیا میں بھی دور ہو سکتی ہے اس کی برائی کو اچھی طرح سمجھنا اور کفر اور اہل کفر کی دوستی سے پرہیز لازمی ہے ملخص از کلامہ الشریف)

(۱۳) ایک روز فرمایا کہ مولوی صاحب اب میں جماعت کے ہر ایک آدمی کو خاص نہیں دیتا کیونکہ بعض وقت توجہ دیتے وقت خیال نہیں رہتا اور یہ نعمت زیادہ چلی جاتی ہے اور وہ شخص بے قدر و بے علم ہوتا ہے، اس نعمتِ عظمیٰ کی قدر نہیں کرتا جب وہ نعمت اس سے ضائع ہوتی ہے تو اس عاجز کو بہت رنج ہوتا ہے۔ اکثر آجکل اہل نہیں رہے اور یہ بھی فرمایا کہ اب کسی کو بیعت کرنے کو دل نہیں چاہتا چنانچہ بندہ کے سامنے کتنے عا نے اصرار کیا اور حضرت نے انکار فرمایا۔ (شاید ان کے ارادہ کی حامی یا نیت کی خرابی منکشف ہوئی ہو اس لئے انکار فرمایا ہو حالانکہ باوجود امورِ بالا کے اکثر آپ بیعت فرماتے اور سب کو توجہ دیتے رہے ہیں اور یہ بھی خیال فرماتے تھے کہ ہم اپنی طرف سے تبلیغ میں کمی کیوں کریں جس کی قسمت میں فائدہ پانا ہو گا پالے گا ہمارا اس میں کیا حرج ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ماہی گیر دریا میں جال ڈالتا ہے کہ کوئی بڑی مچھلی پھنسے گی، کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پھنستی ہیں آخر کسی دفعہ بڑی مچھلی بھی پھنس جاتی ہے اور ماہی گیر کی محنت کا رگر ہو جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بزرگوں کے دل میں ایسے خیالات جگہ نہیں پکڑتے بلکہ آئے اور گذر گئے اور تصوف کی اصطلاح میں اس کے احوال کہتے ہیں چنانچہ سید الطائفہ حضرت جنید قدس سرہ و رحمۃ اللہ علیہ نے فر

لَا حَوْلَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيمِ فَحَدِيثُ النَّفْسِ بِعِنَى اِحْوَالٍ مِثْلَ بَجَلِيَّوْنَ كَيْ هِيَ  
 و دکھائی دیتے ہیں اور قائم نہیں رہتے، اگر باقی رہیں تو وہ احوال نہیں ہوتے بلکہ نفس  
 کی باتیں ہیں پس کسی وقت خیال آیا اور ایسا ذکر فرمایا پھر کبھی دوسرا خیال آیا کہ قادر دنیا  
 نہ دیتا اللہ کا کام ہے ہمارا کام تو سچا دینا ہے ہم اپنی طرف سے کیوں کوتاہی کریں ایسا  
 نہ ہو کہ ہماری اس میں گرفت ہو جائے اور آیتِ یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ  
 کا مضمون زیر نظر رہا تو اس پر عمل فرمایا واللہ اعلم بالصواب۔ اس لئے بھی انکار فرماتے  
 ہوں گے کہ پھر ان کے حقوق تربیت ادا نہ کر سکیں گے اور ان مقامات پر آجانہ سکیں گے  
 اور بیماری اور دوسرے عوارض وہاں جانے میں مانع ہوتے ہوں نیز بعض خواہشمندوں  
 کو ان کے قریب کے دوسرے بزرگوں کے پاس جانے اور جمعیت ہونے کی ہدایت اور رہنمائی  
 فرمادیتے تھے چنانچہ بعض کو لاہور میں رہنے کی وجہ سے مولانا احمد علی صاحب لاہوری کی  
 خدمت میں بعض کو کسی اور دوسرے بزرگ کی خدمت میں بھیجا۔ واللہ اعلم

(۱۳۷) ایک روز اس عاجز نے عرض کیا کہ بہت مدت ہوئی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی فرمایا کہ یہ اشعار پڑھو

کجائی یا رسول اللہ کجائی چہ دردیدہ تارم نیائی

منم مشتاق با صد آرزو ہا چہ خوش با شد کہ دیدارم نمائی

یہ بویت زندہ ام ہر جا کہ ہستم برویت آرزو مندم کجائی

جب یہ عاجزات کو پڑھ کر سویا تو خواب میں حضرت صبا یعنی پیر صاحب کی زیارت ہوئی  
 (صبح کو) خدمتِ عالی میں عرض کیا گیا کہ جب کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت  
 کا کیا جانا ہے تو آپ ہی کی زیارت ہوتی ہے فرمایا کہ یہ مقام فنا فی الشیخ کا ہے۔

منقول از حاجی محمد شفیع صاحب (۱۵) ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت صاحب  
رشتہ تک تشریف لائے آپ کی عادت تشریف

کہ جب خاص انعام الہی آپ پر ہوتے تھے اس وقت آپ دوستوں کو توجہ نہ دیتے  
اس لئے کہ اکثر و بیشتر وہی حالت دوسرے شخص پر ہو جاتی ہے اور طرف کے ناقابل  
ہونے اور قوت برداشت کی کمی کی وجہ سے اس کو اس قدر جذبہ طاری ہوتا ہے کہ  
اوقات اس کی جان تک کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے ورنہ اکثر اس کی حفاظت اور دیکھ  
کا حقیقت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی اپنی اور دوسروں کی تکلیف کا باعث تو ضرور ہو  
ہے۔ واللہ اعلم) ایک قوی حالت میں ایک شخص جذبہ محبت میں حضرت سے چمٹ  
اس پر اتنی کیفیت ہوئی کہ وہ زمین پر ٹپنے لگا اس کی حالت نازک ہو گئی حضرت  
پریشانی ہوئی حاجی محمد شفیع صاحب سے فرمایا کہ اس کو اس کے مکان پر لے جاؤ جب تک  
سو نہ جائے اس وقت تک نہ آنا اور کوئی شخص اس کے پاس نہ آئے۔ حاجی صاحب رات  
بارہ بجے اس کو سلا کر واپس آئے اس وقت تک حضرت صاحب نہیں سوئے تھے  
صاحب کی اطلاع پر حضرت کو تسلی ہوئی پھر آپ سوئے۔

(۱۶) ایک شخص دین محمد ساکن کرنال (نومسلم) تھا۔ حضرت کی خدمت  
حاضر ہونے لگا اور بیعت ہوا بڑا فیض حاصل کیا۔ کرنال کے قیام میں ایک دن حضرت  
صاحب کی خدمت میں نہ آیا آپ نے حاجی محمد شفیع صاحب سے فرمایا کہ دین محمد  
آیا اسے ڈھونڈ کر لاؤ حاجی صاحب نے متعدد جگہ تلاش کیا مگر وہ نہ ملا حضرت  
نے فرمایا کہ مسجد میں تلاش کرو چنانچہ تلاش کرنے پر وہ وہاں مل گیا اس کو حضرت  
خدمت میں لائے۔ ایک کمرے میں جماعت کے لوگ اور حضرت صاحب فرش پر آ رہے

کر رہے تھے آپ کی خدمت میں کئی بار عرض کیا گیا کہ حضور چارپائی پر آرام فرمائیں مگر حضرت نے فرمایا کہ نہیں سنت یہی ہے کہ سب دوستوں کے ہمراہ زمین پر آرام کیا جائے جب سب لیٹے ہوئے تھے تو دین محمد کو بہت جوش ہوا اور حضرت حاجی عبدالمجید صاحب کے اوپر ٹرہ گیا اور کہنے لگا بتاؤ میرا پیر کہاں ہے؟ حضرت فرماتے تھے کہ میں ہوں مگر اس کو کچھ جوش نہ تھا بڑی مشکل سے حاجی عبدالمجید صاحب کو اس کے نیچے سے نکالا (یہ دین محمد جب بدب کی حالت میں بازار میں گذرتا تو لوگوں کو کہتا "کردو میرے معبود کو سجدہ پہ سجدہ" اور نماز وغیرہ کے لئے لوگوں کو تائید کرتا اور زبردستی لوگوں کو حتیٰ کہ ہندوؤں کو بھی اس پر مجبور کرتا اور مستی کی حالت میں پھرتا تھا کافی عرصہ بہت زیادہ جذب و جوش کی حالت میں اسی طرح پھرتا رہا عجیب حالت تھی اور حضرت خواجہ غریب نواز دادا پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی اس حالت پر بہت مسرور ہوتے اور اس کے ان الفاظ کو دہراتے "کردو میرے معبود کو سجدہ پہ سجدہ" واللہ اعلم)

(۱۷) حضرت کے مریدوں میں ایک پولیس کنسٹبل صوبہ نامی تھا۔ ایک دفعہ جب حضرت رتھک سے دہلی تشریف لیجا رہے تھے تو راستہ میں سانپلہ کے اسٹیشن پر وہ ملاقات کو آیا اور حضرت سے بغلگیر ہوا اسی وقت اس پر جذب غالب ہو گیا حضرت تو گاڑی میں دہلی روانہ ہو گئے اور صوبہ کو لوگ تھانہ میں لے گئے وہاں وہ سب کو کہنے لگا کہ پڑھو نماز پڑھو وغیرہ اور بار سیٹ کرنے لگا۔ جب ان لوگوں نے حضرت کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک کمرہ میں بند کر دیا جائے اور درود شریف کثرت سے پڑھ کر اس پر دم کیا جائے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا جب مزاج میں کچھ سکون ہو گیا تو لوگوں نے اسے چھوڑ دیا مزید احتیاط نہ کی چنانچہ ایک وقت وہ پھرتے پھرتے ریل گاڑی کے

انجن سے اللہ کا نعرہ مار کر ٹکرا گیا اس کا تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اگرچہ ڈرائیور نے بچانے کی بہت کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ زبان و دل سالم تھے اور دل اس وقت متحرک تھا واللہ اعلم۔ اس واقعہ کی اطلاع جب حضرت کو پہنچی تو بہت افسوس کیا تاکیر کے باوجود لوگوں کے اس کی حفاظت و احتیاط نہ کرنے سے طبیعت کو بہت مل رہا۔ اس کے بعد حضرت ہمیشہ ایسے لوگوں کی خاص احتیاط فرماتے اور اس وقت توجہات سے جو سالک کی برداشت سے باہر ہوں پر مہر فرماتے تھے۔

(۱۸) گوہانہ کے محلہ قاضیان میں قاضی صاحب والی مسجد میں غالباً ظہر کی نماز بعد مراقبہ ہو رہا تھا کہ بڑوتہ کے ایک شخص کو جذبہ ہو گیا اور اسی حالت میں حکیم منصب صاحب کے صاحبزادہ کو جو مراقبہ میں شامل تھا اس قدر زور سے چاٹا مارا کہ بڑی آہ پیدا ہوئی اور سب کا مراقبہ سے خیال ہٹ گیا اور غالباً اس شخص کو حضرت صاحب طرف سے کوئی خطرہ تھا یا ذکر سے توجہ ہٹ گئی تھی جو اس مجذوب کو جذب کی حالت میں ظاہر ہو گئی اس لئے اس نے چاٹا مارا اور دماغی صلاحیت برقرار نہ ہونے کی وجہ سے اس فعل کی خرابی کو محسوس نہ کر سکا لیکن چونکہ اس شخص کی یہ حرکت نہایت ناشائستہ خلاف آداب مراقبہ و مجلس اور دماغی کمزوری کی منظر تھی اس لئے حضرت کو اس کا بہرہ احساس ہوا۔ چنانچہ حکیم صاحب اور ان کے صاحبزادہ صاحب و دیگر جماعت کے لوگوں نے نسی و تشفی دی اور اس بڑوتہ والے شخص کو آئندہ جنتک اس کی دماغی حالت صحیح نہ ہو صلقت شامل ہونے سے روک دیا۔ ویسے خدمت میں آنے جانے اور بیٹھنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ صرف حلقہ مراقبہ میں شامل ہونے سے روکا تا کہ پھر کہیں اپنی اس عدم برداشت و عدم صلاحیت کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جو دوسروں کیلئے تکلیف و خطرات خرابی کا باعث ہو (واد)

(۱۹) کرنال میں حضرت کی خدمت میں ایک سکھ حملہ کرنے کی نیت سے بار بار آتا تھا۔ ایک دفعہ حلقہ ہو رہا تھا اُسے بھی بٹھالیا گیا اس محفل میں بہت جوش ہوا۔ حاجی مدد شفیق صاحب کو جوش کی حالت میں اس سکھ کی نیت کا فتور ظاہر ہوا تو حاجی صاحب نے اس کو پکڑ کر ایک دم بچھاڑ دیا اور اس کے بال پکڑ کر چھاتی پر بیٹھ گئے۔ حضرت صاحب حد میں بہت خوش ہوئے اور وہ سکھ پھر نہیں آیا۔

(۲۰) سید صدر حسین شاہ صاحب حضرت کے ایک مرید جو غالباً ریاست پٹیالہ کے باشندہ تھے اور کینال ڈیپارٹمنٹ (محکمہ انہار) میں ملازم تھے ان کا حضرت صاحب کی خدمت میں بہت آنا جانا رہا اور کافی صحبت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شیخ کی توجیحات سے سلوک میں کافی اسباق طے کئے اور بڑے اچھے حالات تھے حتیٰ کہ مشاربات تک پہنچ گئے اور علمی مشغلہ بھی خاصا رکھتے تھے حضرت صاحب کا ان کے متعلق غالباً ایسا خیال تھا کہ کچھ اور ترقی ہو جائے تو اجازت بیعت سلسلہ عطا فرما دیں لیکن شیطان نے ایسی حرکت کی جس سے ان کے مذہبی اعتقادات میں خرابی اور طریقہ کے متعلق بد اعتقادی پیدا ہو گئی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ سید صدر حسین شاہ صاحب کو خانگی ضروریات کیلئے کچھ نقدی کی ضرورت پڑی اور وہ ان کے عزیز کے ہاں سے پوری ہوتی نظر آئی جو مذہباً شیعہ تھا۔ یہ کچھ عرصہ اس کے پاس اس لالچ میں رہے اور ان کے مذہبی اعتقاد کا انز قبول کر لیا حتیٰ کہ نماز وغیرہ میں سستی اور ترک پیدا ہو گیا اور ذکر و اشغال تو بالکل ہی ترک کر دیئے ڈاڑھی بھی جو حد شرع یعنی یکمشت سے زائد تھی اس سے کم کر دی وغیرہ حتیٰ کہ حضرت صاحب کی خدمت میں آنا جانا اور خط و کتابت بھی ترک کر دی۔ انہی ایام میں جب ایک بار حضرت دہلی تشریف لائے تو قصاب پورہ میں قیام

فرمایا ایک روز حضرت نے عاجز مولف سے ارشاد فرمایا کہ شاہ صاحب! مصدر  
 شاہ صاحب تو آپ کو نہیں ملے، کافی عرصہ سے ان کا کوئی خط بھی اس عاجز کے  
 نہیں آیا اور اب کئی دن ہو گئے کہ وہ ملنے کے لئے بھی نہیں آئے حالانکہ پہلے ان کے  
 خطوط آتے تھے اور سفر کا پروگرام معلوم کرتے رہتے تھے اور دہلی رہتک وغیرہ مقامات  
 ملنے کے لئے بھی آتے رہتے تھے، شاید ان کے اعتقاد میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو، آپ  
 ان کا پتہ تو کریں۔ چنانچہ یہ عاجز حسب ارشاد مصدر حسین شاہ صاحب کے دفتر میں  
 جو کشمیری دروازے کے باہر واقع تھا ملاقات ہوئی۔ سلام مستون وغیرہ کے بعد احوال  
 دریافت کئے اور حضرت سے خط و کتابت نہ کرنے اور حاضر خدمت نہ ہونے کا ذکر کیا  
 جواب دیا کہ اب میں شیعہ ہو گیا ہوں اور میں نے ان کی بیعت فسخ کر دی ہے۔ میں ان  
 خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا تاکہ یہ عرض کروں کہ اب میری آپ سے بیعت نہیں  
 وغیرہ۔ اس عاجز کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا اور اس مختصر صحبت میں ان کو سمجھایا کہ ان  
 پاک کے انعامات جو آپ پر تھے آپ نے ان کی قدر نہ کی اور اس خرابی میں مبتلا ہو گئے اور  
 مذہب شیعہ کی مختصر حقیقت اور خود اپنے احوال ان کو سنائے تاکہ عبرت حاصل ہو،  
 یہ کہہ کر چلا آیا کہ اس خیال سے تو آپ کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت کو آپ سے  
 کوئی دنیاوی لالچ تو ہے ہی نہیں کہ اس میں ان کو کوئی کمی ہو رہی ہے باقی اس خیال سے کہ شاید  
 ان کی نظر کیمیا اثر سے آپ کی اصلاح ہو جائے ضرور آپ کو مشورہ دے گا کہ مل لیں تو اچھا ہے۔  
 چنانچہ شام کو مصدر حسین شاہ صاحب تشریف لائے اور حضرت صاحب سے  
 ملاقات کی حضرت صاحب نے سب حاضرین کو باہر تشریف رکھنے کے لئے کہا اور مصدر  
 شاہ صاحب کو تنہائی میں اپنے پاس بلا لیا حاجی محمد شفیع صاحب بھی غالباً ہمراہ اندر ہی آئے



یہ عاجز اس وقت موجود نہ تھا کسی کام کے لئے گیا ہوا تھا، یہ بات حاجی صاحب نے  
سنائی کہ جب مصدر حسین شاہ صاحب نے حضرت سے کہا کہ میں تو صرف یہ بتانے آیا ہوں  
کہ میں اب شیعہ ہو گیا ہوں اور اب میری بیعت آپ سے فسخ ہو گئی ہے، حضرت کو جلال  
آگیا اور فرمایا کہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، جب آپ کے اعتقاد میں خرابی آئی  
بیعت تو اسی وقت فسخ ہو گئی باقی اب بتا دینے سے رہی یہی بات بھی جاتی رہے گی، کیا  
آپ کو فلاں فلاں حالات نہ ہوتے تھے اور آپ نے فلاں فلاں موقع پر یہ حالات  
نہیں کہے اور لکھے؟ اتنے اسباق آپ کے ہوئے، اب وہ باتیں اس بد اعتقادی اور بد مذہبی  
کے بعد بھی ہوتی ہیں یا نہیں؟ آئندہ رہا سہا اثر بھی نہ رہے گا، اور بہت افسوس فرمایا کہ  
تم نے اس نعمت کی بالکل قدر نہ کی، میرا تمہارے لئے کیا خیال اور کیا کوشش تھی اور تم نے  
دنیا کے لالچ کے لئے یہ مذہب تبدیل کر کے ایسے بڑے مذہب کو اپنے اوپر لازم کر لیا اور  
اس نعمت کو ضائع کر دیا، افسوس صد افسوس، اور مذہب شیعہ پر کافی روشنی ڈالی اور  
سج و غصہ میں چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آواز زور زور سے نکلنے لگی۔ باہر کھڑے  
ہوئے لوگ گھبرا گئے کہ کیا معاملہ ہے اور ایک دم اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت حضرت  
نے فرمایا کہ صحابہ کا معاملہ بعینہ ایسا ہی خانگی تھا جیسا کہ میں اور آپ گفتگو میں مصروف  
تھے اور میں ازراہ ہمدردی تم کو سمجھا رہا تھا، آواز بلند ہوئی تو باہر والوں نے سمجھا کہ  
اندر شاید لڑائی ہو رہی ہے حالانکہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے جس طرح میاں بیوی  
کی تکرار کھرس ہو جائے اور میاں بیوی پر زور زور سے بولنے لگے باہر گلی پڑوس والے  
لوگ یہ سمجھیں اور مشہور کر دیں کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی ہے اور میاں نے بیوی کو  
پیٹ دیا ہے۔ غرضیکہ ایسی جامع تقریر فرمائی کہ مصدر حسین شاہ اور حاضرین دنگ

رہ گئے اور حضرت کو شاید ہی کبھی ایسے جلال میں دیکھا ہو۔ آخر آپ کی طبیعت ٹھنڈی ہوئی، مصدر حسین شاہ نے اپنا ایک خواب بھی سنایا کہ کسی جگہ دو روز تک چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور اس میں ایک مینار کھڑی ہے اور میں (مصدر حسین) اس مینار پر چڑھ رہا ہوں یکایک اس مینار سے گر گیا ہوں اور دو روز تک پانی میں بہتا اور ڈبکیاں کھانا جا رہا ہوں آخر کار تائیدِ نبی سے واپس لوٹا ہوں اور اس خطرناک پانی سے نجات حاصل ہوئی ہے۔ آپ نے سن کر فرمایا آپ کا خواب بالکل صاف ہے، مینار مقاماتِ سلوک ہیں ان پر چڑھنا ان کو حاصل کرنا ہے، پانی گمراہی کا سیلاب ہے، مینار سے گرتا بد اعتقادی کا پیدا ہوتا اور راہِ سلوک کا ترک کرنا ہے، اور میں اس خواب کی تعبیر سے بشارت دیتا ہوں کہ انشاء اللہ تمہیں رجوع الی الحق ہوگا اور توبہ نصیب ہوگی اور پھر تجدیدِ بیعت کرو گے۔

غرضیکہ مصدر حسین صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے پھر اس دوران میں حضرت کے پاس نہیں آئے، کافی عرصہ کے بعد ایک روز اس عاجز کے پاس کابلی گیٹ کے سکول میں آئے اور اپنے حالات پر ندامت کا اظہار کر کے مشورہ طلب کیا اور تجدیدِ بیعت کا ارادہ ظاہر فرمایا اس عاجز نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی تفصیلی کیفیت اور ارادہ حضرت کے پاس لکھیں انشاء اللہ درخواست منظور ہوگی۔ حضرت ہدایت کریم النفس اور رحیم الطبع ہیں اور انشاء باری تعالیٰ ہے جس کو کسی شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے۔

ایں درگہ مادر گہ نومیدی نیست      صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

چنانچہ انھوں نے حضرت کی خدمت میں عریضہ لکھا اور دوبارہ مذہبِ اہلسنت و جماعت اختیار کر کے داخلِ سلسلہ عالیہ ہو کر تجدیدِ بیعت سے مشرف ہوئے اور باطنی ترقیات از سر نو حاصل کرتے رہے۔ پاکستان بننے کے بعد ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ انشاء اللہ علم بالصواب۔

(۲۱) حاجی محمد شفیع صاحب نے سنایا کہ ایک شخص حضرت غریب نواز خواجہ محمد فضل علی شاہ صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا اور حضرت سے اس لئے نہیں ہوا کہ ان کے پیر سے بیعت ہونا بہتر ہے لیکن جب حاجی صاحب کے جذب و کشف وغیرہ کی کیفیات دیکھیں تو فکر مند ہوا کہ اگر میں بھی انہیں سے بیعت ہوتا تو مجھے بھی ایسی باتیں حاصل ہو جاتیں۔ حاجی صاحب نے جب اس کو فکر مند دیکھا تو حضرت سے دریافت کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ اس کو ایسا ایسا خیال ہے اور حقیقت الامر بیان فرمائی (غالباً حضرت کو اس کے خطرات کا کشف ہو گیا تھا اور غالباً اس کو سمجھایا بھی تھا کہ حضرت غریب نواز کے متعلق اپنے اعتقاد میں کوئی کمی نہ کرو و فائدہ انشاء اللہ ہوتا رہتا ہے طبائع مختلف ہوتی ہیں اور ہر کام اپنے وقت پر معین ہے اور یہ بھی حضرت ہی کا فیض ہے جو حضرت کے خدام کے ذریعہ سے ظاہر ہو رہا ہے وغیرہ۔ نیز حضرت صاحب اس حقیقت کو واضح فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ یہ سمجھ کر کہ اس خلیفہ سے بیعت کرنے کی بجائے اس کے پیر صاحب سے جبکہ وہ زندہ ہے کیوں بیعت نہ کریں کہ اس طرح یہ ہمارا پیر بھائی بن جائیگا اور ہم اس کے برابر کے ہو جائیں گے۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ خلیفہ سے بیعت ہونے میں دو فائدے ہیں کہ وہ خلیفہ کی توجہات بھی لیں گے اور اس کے پیر صاحب کی بھی کہ وہ سب اس کی اولادِ روحانی ہیں جیسے دادا کو پوتے اتنے ہی بلکہ زیادہ عزیز ہوتے ہیں جتنے ان والد کے باقی بھائیوں کا معاملہ تو برابری کا ہوتا ہے ایک دوسرے سے فیض کا لینا اس طرح پر متصور نہیں ہو سکتا جس طرح اپنے پیر اور دادا پیر سے لیتے ہیں نیز جب اس کے پیر صاحب سے بیعت ہو کر خلیفہ کو پیر بھائی اور برابر کا سمجھ لیا تو ادب کا وہ لحاظ کہاں رہ سکتا ہے جو فیض کے لینے اور دینے میں ضروری ہے فافہم۔ واللہ اعلم بالصواب۔)

## از احقر مؤلف

(۲۲۲) ایک دفعہ حضرت نے دہلی کے مدرسہ عربیہ غالباً مدرسہ امینیہ کے ایک طالب علم کا ذکر فرمایا کہ جب وہ داخل سلسلہ ہوا اور اس کو ذکر بتایا تو اس کی راہ سلوک میں ترقی کی رفتار بہت تیز تھی کہ آج تک اتنا تیز طبیعت سالک اس عاجز کے پاس نہیں آیا، جو راستہ دوسرے لوگ مہینوں اور سالوں میں طے کرتے ہیں وہ دنوں اور گھنٹوں میں طے کرتا تھا۔ ابھی دو روز بھی داخل سلسلہ ہوتے کو نہیں گزرے تھے کہ مہینوں والی کیفیات باطنی سے مشرف ہونے لگا۔ ایک روز آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آج نماز میں ایسا ایسا نظر آیا ہے یعنی ایک رکعت میں جنت اور ایک میں دوزخ کا نقشہ سامنے نظر آیا اور دربار الہی کا قیام اور حشر کا نظارہ سب آنکھوں کے سامنے تھا اور دوزخ و جنت میں لے جانے کے احکامات دیئے گئے اور ادھر لیجا یا گیا جس سے صبح تکل گئی اور نماز میں (غالباً وہ امامت کر رہا تھا) اس کیفیت کا غلبہ رہا۔ یہ سب کچھ سنا کر کہنے لگا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا حال خراب نہ ہو جائے اور میرا عقاد کو یہ باتیں خراب نہ کر دیں وغیرہ۔ حضرت نے اس کو سمجھایا کہ مولوی صاحب آپ عالم ہیں آپ کو اس قسم کے خطرات نہیں آنے چاہئیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بزرگان دین کو ایسے واردات ظاہر ہوتے رہے ہیں اور دوزخ و جنت کی سیر کرائی جاتی ہے اور حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معراج میں جنت دوزخ کی سیر کرانا احادیث میں وارد ہے نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ (نماز مومنین کی معراج ہے) اس لئے نماز میں مومنوں کو ایسا منظر پیش آجانا کوئی خلاف شرع امر نہیں ہے اور کیا خود حضور کو ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اور ایک حدیث شریف کی طرف اشارہ کیا (فی روایۃ مَرَّ بِسَفِينِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّخَّيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْرَبُ إِلَى

وَفِي صَدْرِهِ آزْيِرٌ كَأَزْيِرِ الرَّحْمِيِّ مِنَ الْبُكَاءِ رواه ابو داؤد (ترجمہ) مطرف بن عبد اللہ نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز پڑھتے تھے اور ان کے سینے میں رونے سے چلکی کی آواز کی مانند آواز آتی تھی) اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ رونے سے نماز نہیں ٹوٹی۔ ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر آہ کرے یا آہ کھینچے یا آواز سے روئے، اگر بہشت یا دوزخ کے یاد کرنے سے ہے تو نماز نہیں ٹوٹی اور اگر درد اور مصیبت سے ہے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ حدیث دیگر میں ہے: عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أَصَلِّي (ترجمہ: انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے دوزخ پیش کی گئی اس حال میں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ بخاری شریف) غرض کہ اس طرح ان کو تسلی ہوئی۔

فرماتے تھے کہ یہ سفرِ دہلی کے شروع ایام کا واقعہ ہے۔ خیال تھا کہ یہ عالم نہایت صالح طبیعت ہے اور بقیہ اسباق بھی اس کے جلدی ہو جائیں گے اگر اجازت بیعت سلسلہ اس کو دیدی جائے تو مناسب ہے لیکن چونکہ حضرت غریب نواز قدس سرہ العزیز کے ارشاد گرامی کے مطابق ان کی حیات مبارکہ میں خلفا اپنے مریدین میں سے جس کو اجازت خلافت کا اہل پانے حضرت غریب نواز کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے اور وہ اپنی زبان مبارک سے اجازت مرحمت فرماتے تھے اس لئے رُک گیا۔ انہی دنوں میں حضرت واپس تشریف لے گئے اور وہ مولوی صاحب وہیں رہ گئے کیونکہ طالب علم تھے پھر اس کے بعد جب دوبارہ حضرت تشریف لائے تو وہ فارغ التحصیل ہو کر جا چکے تھے اس لئے ان سے دوبارہ ملاقات نہ ہوئی۔ جب اپنے پیرو مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے موقع پر خود ہی اجازت دیدینی چاہئے تھی۔

نیز حضرت فرماتے تھے کہ میری طبیعت کبھی کبھی اس کی طرف کھینچتی ہے اور فیضانِ رحمان ادھر ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی ہے بتایا ہوا ذکر و شغل کرتا رہتا ہے نیز فرمایا کہ مجھے خیال ہوا کہ اس کی طبیعت اس قدر تیز رفتار کس وجہ سے ہے وطن و خاندان دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کے والد مدینہ منورہ میں روضہ اطہر اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں اور جاہل کشتوں میں سے ہیں اور یہ بچہ مدینہ منورہ میں ہی پیدا ہوا اور وہیں اپنے والدین کے پاس تعلیم و تربیت حاصل کرتا رہا۔ روضہ اطہر پر مسجد نبوی میں حاضر ہوا اب صرف دورہ حدیث پڑھنے کے لئے دہلی آیا۔ کیونکہ تمام ممالک اسلامیہ میں ہندوستان (دہلی، دیوبند اور سہارنپور وغیرہ) کا دورہ حدیث مشہور ہے، تب یہ بات صاف واضح ہو گئی کہ یہ سب صفائی اور جلال حضور اور غیۃ الصلوٰۃ والسلام کے جواہر پاک کی صحبت کی برکت سے ہے (اب کما قال واللہ اعلم بالصواب)۔

(۲۳) ایک دفعہ فرمایا کہ ہمارے حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ محمد فضل علی شاہ قدس سرہ کی خدمت میں دو شخص بیعت کیلئے حاضر ہوئے وہ دونوں کسی بڑے عہدہ ملازم تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ بیعت کرتا ہوں مگر فائدہ جب ہوگا کہ موٹے دانوں کی تیس گلے میں ڈال کر رکھو اور خصوصاً باہر نکلتے وقت ضرور گلے میں ہو۔ انھوں نے وعدہ مگر بعد میں ایک شخص نے تو اس ارشاد کی کوئی تعمیل نہ کی اور فیضانِ شیخ سے جو دوسرے نے پوری طرح تعمیل کی جب وہ موٹے دانوں کی تیس گلے میں ڈال کر باہر نکلتا تو لو اس کا مذاق اڑاتے اور پوچھتے اچی ملاں صاحب یہ آپ نے کیا کر لیا ہے کیا آپ فقیر ہو گئے کوئی کہتا انھوں نے کوئی ڈھونگ رچایا ہے وغیرہ۔ وہ ان باتوں کو برداشت کرتا رہا لیکن اس روش کو نہ چھوڑا۔ چنانچہ نفس کی اس مخالفت اور شیخ کے حکم

تعمیل سے وہ فائز المرام ہوا اور صاحب اجازت ہو کر خدمتِ اسلام پر مقرر ہوا اور بہت ترقی کی۔ سچ کہا ہے ۵

نہ بچا بچا کے نور رکھا سے ترا آئینہ ہو وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزتِ تری ہے نگاہِ آئینہ ساریں  
بیشک شیخ کے فرمان کی تعمیل میں جو تربیتِ مریدین کے لئے ہو بہت فائدہ ہوتا ہے اگرچہ  
بظاہر وہ معمولی بات ہی کیوں نہ ہو کیونکہ نفس کی مخالفت میں ہی کامیابی و کامرانی ہے۔

(۲۴) حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہمارے حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ

جماعت کے ساتھ کسی جگہ تشریف فرما تھے ایک شخص کو مقامِ قناتی الشیخ کی حالت طاری

تھی وہ کبھی اپنے اعضا اور ڈاڑھی و لباس وغیرہ کو دیکھتا اور کبھی حضرت کے اعضا اور

ڈاڑھی و لباس وغیرہ کو دیکھتا اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کا اپنا جسم نہیں ہے

بلکہ اس کے پر صاحب کا جسم ہے اسی لئے وہ کبھی اپنی طرف اور کبھی شیخ کی طرف دیکھتا کہ یہ تو

بالکل ایک ہی جیسے معلوم ہوتے ہیں حضرت غریب نواز نے بھی اس کی اس حالت کو دیکھا اور

مسکرائے۔ (رابطہ شیخ اسقدر قوی ہونا چاہتا ہے اور شیخ کی ظاہری شکل و صورت و وضع

قطع میں اتباع و بیکری اسقدر پیدا ہو جاتی ہے کہ بعض وقت سالک پر محویتِ یک بینی

غالب آجاتی ہے اور ع "تو دروگم شو وصال این سٹ بس" کے پیش نظر اپنا وجود و شکل و

وضع اس کی نگاہ سے محو ہو کر شیخ کا وجود اور اس کی شکل و وضع اس کی نگاہ کے سامنے جم جاتی ہے

من تو شدم تو من شدم من تن شدم تو جان شدم تاکس نگوید بعد ازین من دیگرم تو دیگر

کا مصداق ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ باوجود دوری اور فاصلہ کے

رابطہ قلب کی بنا پر شیخ کے رنج و خوشی اور مرض وغیرہ سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ واللہ اعلم

بالصواب۔ مؤلف۔

مزید تشریح و تقویت مضمون کیلئے فنائے سگائے کا مختصر بیان مکتوب ۳۵  
مکتوبات احمدیہ سعیدیہ (حضرت شاہ احمد سعید دہلوی بنام حاجی دوست محمد قندھاری  
قدس سرہما العزیز) سے ترجمہ کر کے تحریر کیا جاتا ہے: "فنائی الشیخ مقدم برقنائی الرسول ہر سے  
ازاں روئے کہ چشم نُسْتِ احوال یہ مقصود تو پیر نُسْتِ اول

غلبہ محبت جو کہ مرید رشید کو پیر کامل و مکمل کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے اس محبت کے سبب سے  
ہر ساعت اپنے محبوب کے کمالات کو جذب کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے آپ کو اور ہر چیز کو  
قراموش کر دیتا ہے اور اس کے اندر سے انا الشیخ نہیں رہیں شیخ ہوں) کی آواز نکلتی ہے

درود یوارچو آیتہ شدا ز کثرت شوق ہر کجی نامی نگر م روئے تر اے بینم  
جس وقت کہ اس فقیر کو اس مقام پر پہنچایا گیا یہ دیکھنا (یعنی کیفیت) اس قدر غالب آئی کہ

اپنے تمام حرکات و سکنات اور اقوال و افعال کو اپنے پیرو مرشد کے حرکات و سکنات پاتا  
تھا اور جب شیخ کامل و مکمل حقیقت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے ملحق ہو جائے  
(یعنی حاصل کر لے) اور آں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد خاص اللہ تعالیٰ کی  
جانب سے حاصل ہو جائے تو فنائی الشیخ کے بعد فنائی الرسول کا مقام جلوہ گر ہو جائے گا اور  
اس وقت اپنے آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے ساتھ متحد پائے گا اور  
بشر و شکر کی طرح ملا ہر ادا دیکھے گا بعد ازاں فنائی اللہ سے مشرف ہو جائے گا۔ اور ذات  
بیچوں کے ساتھ انصال کا مشرف خاص پائے گا۔

(انصال بے تکلیف بے قیاس ہست رب الناس رابا جان ناس)  
پس ایسا معاملہ کیا گیا جس کے ساتھ کیا گیا۔ اگر وہ مستہلکین سے ہے تو وہ بحر مشاہدہ میں مستغرق  
رہے گا اور اگر مرجوعین (واپس لوٹنے والوں) میں سے ہے تو بقا کا خلعت پہن کر دنیا کی طرف



ع کرے گا اور اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ارشاد و ہدایت کا معاملہ اس کے سپرد  
جائے گا اور وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہو جائے گا۔ ذالک فضل  
لہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

مستری شمس الدین صاحب اسمعیل آبادی (۲۵) ایک دفعہ یہ فقیر احمد پور شرقیہ حاضر  
ہوا۔ حضرت صاحب کے در دولت پر

چا تو معلوم ہوا کہ حضرت مبارک کو سخت تکلیف ہے اور زندگی کی کوئی امید نہیں۔  
بہر کی رات سخت پریشانی میں گزری، لگے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا بخشی اور حضرت  
نے پردہ کر کر اس فقیر کو اندر بلایا اور فرمایا کہ بیٹا میں سخت بیمار تھا جس کی وجہ سے آپ کو  
بلا سکا اس بعد اپنے دنیا کی بے ثباتی پر جامع تقریر فرمائی جس میں اپنی موت کو یاد کرتا  
ور زندگی کو ایک رنگ تصور کرنا ثابت فرمایا اور فرمایا کہ ”ہم لوگوں کے دماغ اتنے چڑھ گئے  
ہیں کہ اچھی اچھی عمارتیں اور عمدہ عمدہ کھانے اور لباس اور سیر کو کافی روپیہ چاہنے لگتے ہیں اور  
نئی اوقات کو بھول جاتے ہیں ہم کو چاہئے کہ موت کو بھی یاد کریں اور خدا کے ذکر سے  
کافل نہ ہوں وغیرہ“ جس سے فقیر کے دل پر نہایت گہرا اثر ہوا۔ واقعہ وہی کاس کی  
بات مبارک سے جو بات سکتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ نیز فرمایا ”بیٹا! یہ الماری جو نم لائے ہو میں نے  
پنے رب کے محمد صادق (مدظلہ العالی) سے نہیں کہا تھا بلکہ اس نے خود ہی خط لکھ دیا تھا آپ کو سخت  
لیف ہوئی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور اس الماری میں رنگ یا پھول وغیرہ کا جو کام رہ گیا ہے  
سے جلدی ختم کر دو اس میں کوئی عمدہ کاغذ لکھ کر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا عنایت فرمائے تو میں تمہارے ہمراہ ہندو  
آؤں کیونکہ دل بہت تڑپ رہا ہے کہ تسبیح کیلئے جاؤں وغیرہ“۔ یہ الماری عا جز نے وطن کو لایا تھا اور یواری میں لگنے والی تھی۔  
(۲۶) ایک دفعہ فقیر احمد پور شرقیہ پہلی دفعہ آیا ہوا تھا، عا جز نے تو اب صاحب کے

محلات دیکھنے کی اجازت چاہی فرمایا کہ مولوی محمد شریف (چھوٹے صاحبزادہ صاحب) کے ساتھ چلے جانا لیکن اس کے بعد فرمایا کہ واقعی نواب صاحب کے مکانات دیکھنے قابل ہیں مگر سالک کے دل پر ایسی انوکھی اور عجیب عجیب چیزیں دیکھنے سے خدا کی بے فرق آجانا ہے اس لئے سالک کو ایسی چیزیں نہ دیکھنی چاہئیں۔ ان ارشادات۔  
 فقیر پر ایک اثر طاری ہوا کہ پھر محلات کے دیکھنے کا اصرار نہ کیا (حضرت کی توجہات صحت کے اثر سے بلا کچھ فرمائے بھی سالکین کی یہ کیفیت رہتی تھی کہ سوائے ضرور بشریہ و شرعیہ کے حضرت کے در دولت سے ادھر ادھر جانے اور یونہی گھومتے پھرنے سے طبیعت متفر رہتی تھی حتیٰ کہ دوسرے شہروں میں بھی یہی اثر غالب رہتا اور بلا مختلف شہروں کا سفر کرنا اور سیر و تفریح کیلئے مختلف مقامات پر جانا اگرچہ مبارک لیکن مرغوب نہ رہتا تھا۔ مولف)

(۲۷) ایک روز احمد پور شرقیہ میں حضرت علیہ الرحمہ نے اس عاجز کو ارشاد فرمایا کہ پڑھاتے ہوئے فرمایا ایک بزرگ رات کو مکان سے باہر نکلے دیکھا کہ ستارے چمک رہے ہیں کہنے لگے کہ افسوس تو سو رہا ہے اور تیرا رب جاگ رہا ہے۔ حضرت نے ایک شعر پڑھا جو غالباً اس طرح تھا۔ اٹھ جاگ تو دے فقیر اٹو تو ستا پیار تیرا جاگتا۔ یہ فرما کر حضرت کو ایک بخودی سی طاری ہو گئی اور کافی دیر تک مستی کی حالت میں اور خدائے تعالیٰ کی شان میں اشعار پڑھتے رہے۔

(۲۸) ایک دفعہ جب یہ عاجز احمد پور شرقیہ آیا تو چونکہ ریاستی بولی کے نادان تھا اور اتنا لبا سفر اس پریشانی کا پہلے کبھی نہیں کیا تھا اور کئی رات جہاں کی وجہ سے دماغ میں چکر تھا جب اسٹیشن پر پہنچا تو سامان کی وجہ سے پریشان

مانگے نکل چکے تھے آخر تمام سامان جو تقریباً ڈیڑھ من تھا خود اٹھا کر چلا تو راستے میں دو  
 شخصوں سے ملاقات ہوئی جو مدرسہ کے ماسٹر معلوم ہوتے تھے جب عاجز نے اردو  
 زبان میں ان سے پوچھا کہ مجھے محلہ کٹرہ احمد خاں میں حضرت خواجہ محمد سعید مدظلہ العالی  
 کے دولت خانہ پر جانے تو انہوں نے آپس میں ریاستی زبان میں گفتگو کی جس کا مفہوم یہ  
 سمجھ میں آیا کہ یہ شخص جو ہندوستان جانا ہمال کی گوتیاں (دوریاں) بھر کر لاتا ہے وہ بڑا  
 ڈاکو ہے پھر ان میں سے ایک نے عاجز سے کہا کہ چل ہم نہیں جانتے اس ڈاکو کا مکان  
 تم بھی ڈاکو ہو اور وہ بھی ڈاکو ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس اور سخت بلال ہوا۔  
 آخر حضرت کے دولت خانہ پر پہنچا اور ملاقات نصیب ہوئی فرمانے لگے آج یہ عاجز باہر کے  
 سفر پر جانے کو تھا کہ الہام ہوا آج مت جاؤ ایک فقیر احمد پور میں آپ کے پاس آئیوالا ہے  
 اس لئے عاجز رہ گیا اب معلوم ہوا کہ آپ آنے والے تھے۔ اس عاجز نے تمام ماجرا سنایا۔  
 فرمایا کہ ایک دفعہ ہم بھی جب خواجہ غریب نواز حضرت محمد فضل علی شاہ صاحب قدس سرہ  
 کی خدمت میں جا رہے تھے تو ہم کو بھی لوگوں نے پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم اس جاٹ کے پاس  
 کیوں جاتے ہو۔ حالانکہ احمد پور کے لوگ تو ہتھیار ہوتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم نے اس جاٹ  
 کے پاس ایسی بات دیکھی ہے جو ہم نے کسی اور میں نہیں دیکھی۔ پھر جب ہم نے حضرت  
 کی خدمت میں آکر یہ ماجرا سنایا تو فرمانے لگے کہ اوفقیرو! یہ دیکھو۔ آپ نے چراغ اٹھا کر  
 دکھایا کہ اس کے پیچھے اندھیرا ہے اور چاروں طرف روشنی ہے۔ اس فقرے دور دور کے  
 لوگ فیضیاب ہوتے ہیں اور نزدیک کے لوگ فیضیاب نہیں ہوتے بلکہ مغرض ہوتے ہیں  
 حضرت غریب نواز قدس سرہ کے ذکر کے بعد آپ کے آنسو آئے اور روئے اور فرمایا  
 کہ میرا شیخ ولی کامل تھا افسوس ہم نے اس کی قدر نہ جانی۔

(۲۹) ایک روز حضرت صاحب موصوف عاجز کو اپنے کھیتوں کی سیر کرانے کے لئے چلے۔ راستہ میں (اُجڑی ہوئی) ایک بستی دکھائی دی فرمایا بیٹا دیکھتے ہو کہ یہ کیوں نکرے آباد ہوگئی؟ عاجز نے عرض کیا کہ حضرت معلوم نہیں۔ فرمایا کہ یہاں پر زنا کثرت سے ہوا کرتا تھا اس لئے یہ بے آباد ہوگئی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر زنا کثرت سے ہوگا وہ جگہ بے آباد ہو جائے گی۔ حضرت علیہ الرحمہ کا ہر لفظ طالبان طریقت کو گناہ سے نفرت دلانے اور خدائے تعالیٰ کی طرف مائل کرنے میں گزرتا تھا۔ (حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لئے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ دیگر امام احمد، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی اور بھی زنا کی مذمت میں کثرت سے احادیث وارد ہیں اور قرآن پاک میں اس کی مذمت اور حد کا بیان ہے فلیراجع الیہما۔ مؤلف)

(۳۰) حکیم شمس الاسلام صاحب رشتگی کے ہمراہ یہ عاجز از صوفی محمد احمد صاحب حضور کی زیارت سے مشرف ہوا۔ ان دنوں حضور کا قیام

رشتگی میں قبلہ حاجی عبدالمجید صاحب کے مکان میں تھا۔ یہ عاجز دوسرے مردیوں کی طرح دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے ایک حسین انداز اور محبت بھری نظر سے عاجز کی طرف دیکھا اور چند منٹ کے بعد فرمایا اب ہم سب مل کر اللہ اللہ کریں گے تم بھی مٹھ ڈھانپ کر شامل ہو جاؤ اور خیال کرو کہ تمہارا دل اللہ اللہ کر رہا ہے مراقبہ میں

بھی دیر گزری تھی کہ عاجز کا تمام جسم سرد ہو گیا اور لرزے لگا ہر چیز ضبط سے کام لینا چاہا مگر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا بلکہ جلد جلد سانس چلنے لگا مگر اقبہ ختم ہو گیا مگر عاجز کی حالت بڑی دیر تک بدستور رہی تمام جسم تھک کر چور ہو گیا تھا بہت دیر کے بعد حالت سنبھلی گھر پہنچ کر تیز بخار ہو گیا حکیم صاحب نے اگلے روز دوائی دی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دم کرانے کی غرض سے پھر حکیم صاحب کے ہمراہ حاضر خدمت ہوا فوراً بخار اتر گیا۔ فرمایا "کیا ہوا" عرض کیا حضور یہاں سے جانے کے بعد گھر پر بخار ہو گیا تھا مگر یہاں پہنچتے ہی بخار نہیں رہا۔ آپ نے مسکرا کر دم فرما دیا۔ جب گھر واپس ہوا تو بخار کی پھر وہی حالت ہو گئی اگلے روز حکیم صاحب پھر عاجز کو خدمتِ اقدس میں لے گئے وہاں پہنچتے ہی بخار پھر غائب ہو گیا حکیم صاحب نے کہا حضور اس کو پھر بخار ہو گیا تھا فرمایا حکیم صاحب یہ بخار نہیں ہے پھر اس کے بعد اس عاجز کی طرف محبت سے کچھ کچھ وقفہ کے بعد دیکھتے رہے جسم پر لرزہ طاری ہونا شروع ہوا اور دل کی عجیب کیفیت ہو گئی لیکن گھر آیا تو پھر بخار نہیں چڑھا۔

(۳۱) ایک مرتبہ حضور پھر رہتک تشریف لائے یہ عاجز اپنے ماموں صاحب کے ہمراہ قدم بوسی کے لئے حاضر ہوا۔ ماموں صاحب نے ایک سبب بطور ہدیہ پیش کیا۔ فرمایا یہ تکلف نہ کیجئے، غریب غریب اس قسم کے تکلف میں پڑ جاتے ہیں تو ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس لینے دینے کیلئے کچھ نہیں ہوتا تو وہ آنا چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح اللہ کے ذکر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ماموں صاحب نے سبب قبول فرمائے کیلئے بہت اصرار کیا فرمایا اچھا میں لے لیتا ہوں مگر جسے چاہوں وہ سیکتا ہوں آپ کو تو کوئی اعتراض نہ ہوگا؟ کہا نہیں حضور کوئی اعتراض نہیں۔ پھر حضرت نے وہ سبب

اس عاجز کو دیدیا یعنی ہدیہ قبول بھی فرمایا اور ایک طرح سے واپس بھی کر دیا حالانکہ اس سے قبل آپ کو کسی نے بتایا بھی نہ تھا کہ میں ان کا بھانجا ہوں کیونکہ ماموں صاحب تو پہلی بار ہی حاضرِ خدمت ہوئے تھے۔

(۳۲) ایک دفعہ ماموں صاحب کے ہمراہ پھر قدیموسی کا شرف حاصل ہوا ماموں صاحب نے عرض کیا حضور مجھے بیعت فرمائیجئے۔ کچھ دیر توقف کے بعد فرمایا آپ کے پہلے شیخ حیات ہیں؟ کہا جی ہاں فرمایا پھر مجھ سے کیوں بیعت ہونا چاہتے ہیں تمہارے شیخ کامل ہیں تمہارے اسباق بھی کافی ہو گئے ہیں جو تمہیں مفت میں مل گئے ہیں اس لئے تم کو قدر نہیں لیکن جس نے محنت کر کے تم کو ملے کرائے ہیں اس کے جسم کی ہڈیوں سے توجہ دینے وقت کیسے لور دتہ کیا ہو گا ان کی قدر کرو۔ جس شیخ سے فائدہ پہنچا ہے اس کی بیعت فسخ کرنے سے اتنا ہنسا رہا ہے ہاں بعد وصال بیعت ہو گئے تھے کچھ عرصہ کے بعد جب ان کے شیخ کا وصال ہو گیا اور حضرت رہتک میں تشریف لائے تو ماموں صاحب نے آپ سے بیعت کی تشریف لیجانے کے بعد اس عاجز نے حاجی عبدالمجید صاحب سے بیعت ہوتے میں نام ل کر تے ہوئے خود حضرت موصوف سے خط میں درخواست کی جو اباً تحریر فرمایا حاجی عبدالمجید صاحب سے بیعت کر لو وہ میرے خلیفہ ہیں ان میں ادب مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ تم سے نزدیک بھی ہیں بہت فائدہ ہو گا۔ عاجز نے حکم کی تعمیل کی اور جو خطرہ تھا وہ دور ہو گیا۔

(۳۳) رمضان شریف کا ہیبت تھا قبلہ حاجی صاحب سے بیعت ہوئے چھ مہینے گزر چکے تھے نا تجربہ کاری کی بنا پر شکایت عاجز نے حضرت صاحب کی خدمت اقدس میں ایک خط روانہ کیا کہ حضرت حاجی صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) نے دوسرے مرتبہ

کی کئی سبق دیدیے میرا ابھی تک ایک ہی سبق ہے غالباً جس روز حضرت صاحب  
 خدمت میں خط پہنچا ہوگا اسی روز حضرت حاجی صاحب نے اس عاجز کی طرف غور  
 سے دیکھا اور لطیفہ روح عنایت فرمایا۔ تیسرے روز بعد نماز عصر لطیفہ سر عنایت  
 فرمایا اس روز تمام جسم ٹھنڈا ہو گیا اور عنک کے وقت تک بدن پر لرزہ طاری رہا۔  
 حضرت کا سات آٹھ روز بعد نامہ گرامی صادر ہوا جس میں تحریر تھا "سبق تول گئے  
 ہوں گے مگر یہ باطنی معاملات ہیں جو تمہاری سمجھ سے باہر ہیں۔ سبق ملنے میں بزرگی نہیں  
 بلکہ شیخ کی اطاعت میں سراسر فائدہ ہے مقصود اللہ کی یاد کا پختہ ہونا ہے نہ کہ سبق کا بلنا۔  
 (۳۳) ۱۹۳۶ء میں یہ عاجز بی اے، کیلئے علیگڑھ گیا وہاں مرزا اسحق بیگ  
 صاحب سے دوستی ہو گئی اور دو سال تک انہی کے ہاں رہا۔ وہ بذریعہ خط حضرت سے  
 بیعت ہو گئے اور ان تعلیم میں ہم دونوں نے حضرت موصوف (قدس سرہ) کی خدمت میں  
 ایک خط ارسال کیا جس میں لکھا تھا "حضور ہم دونوں خوب قرآن شریف کی تلاوت  
 کرتے ہیں کئی کئی بار سورہ یس شریف کا ورد کرتے ہیں، بڑی دیر تک مراقبہ میں بیٹھتے ہیں  
 دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے۔" دل میں یہ تھا کہ  
 خوش ہوں گے اور تعریف کریں گے۔ کچھ دن بعد مکتوب گرامی پہنچا جس میں لکھا تھا:  
 "جو کچھ اوراد وغیرہ کرتے ہو سب چھوڑ دو۔ تعلیم پر زیادہ وقت لگاؤ اور پختہ وقت  
 نماز یا جماعت پڑھو وقت آنے پر معمولات مذکورہ پر عمل کرنا۔ آپ نے یہاں دونوں کے  
 نفس کی اصلاح بھی فرمادی اور مشورہ سے بھی توازا۔"

(۳۵) رہتک میں ایک روز حضرت موصوف مسجد میو پاریاں محلہ پارہ میں  
 تشریف فرما تھے یہ عاجز بھی قدیموسی کیلئے حاضر ہوا ڈاڑھی کے متعلق گفتگو فرمائی

”لوگ ڈارھی اس لئے منڈاتے ہیں کہ دوسرے ان کو پسند کریں اور نامحرم عورتیں فریفتہ ہوں حقیقت تو یہ ہے ڈارھی نہ رکھنے کے باقی سب پہلے میں سکھوں کو ڈارھی رکھتے ہیں کیا ان کو سرکاری ملازمت نہیں ملتی یا ان کا کوئی دنیوی کام چاہے۔ یہ عاجز ڈارھی منڈاتا تھا بہت شرمندہ ہوا۔“

(۳۶) حضرت قدس سرہ میں ایک خاص کمال تھا کہ جب کسی کو کوئی خواب آتا تھا تو اسی سے دریافت فرماتے تھے۔ ایک روز کربال یا پانی پت میں شرعی مسائل پر روشنی ڈالی نیز تہمد اور پاجامہ وغیرہ کو ٹخنوں سے اونچا رکھنے کی تلقین فرمائی۔ کو خطرہ ہوا کہ معمولی سی بات کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اگلے روز کوئی دس بجے حضرت نے فرمایا کوئی خواب ہوا ہو تو سناؤ۔ عرض کی حضور ایسا دیکھا کہ عاجز کفن میں ہوا ہے اور اس میں پاؤں ڈھکے ہوئے ہیں۔ کسی نے پچی سے کفن ٹخنوں تک کاٹ ہے فرمایا ”آئندہ سے ٹخنوں سے پچی شلوار نہ پہنا کرو۔ محبت کا معیار یہ ہے کہ جو شرمندہ مسئلہ بزرگوں سے پیچھے اس کو بچے چوں و چرا تسلیم کر لیا جائے۔“

(۳۷) مرزا اسحق بیگ صاحب نے کچھ عرصہ کے لئے سرپرست ہمارا دواخانہ دہلی کے ہاں سکونت اختیار کی وہاں چند شطرنج کے کھلاڑیوں نے ان کو بھی شطرنج کھیلنے کا عادی بنا دیا ان کا زیادہ وقت شطرنج میں گزرنے لگا ذکر کی حالت میں کئی حضرت کو پورا کیلے لکھا جواب میں آپ کا نام گرامی موصول ہوا جس کی نقل مندرجہ ذیل ہے:

”حامدا ومصليا۔ من محمد سعيد قریشی ہاشمی مشفق و مخلصی سلمہ ربہ۔ بعد السلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو اپنی یاد کی توفیق بموجب شریعت عطا فرمائے۔ کم کھانا کم بولنا اور کم سونا اور لوگوں سے الگ رہنے۔“



نفس تابع ہو جاتا ہے اس کی عادت ڈالو، وقتِ فرصت ہشتی زیور کے مسائل نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ دیکھا کر داور کچھ حصہ تذکرۃ الاولیاء یعنی بزرگوں کی تصنیف پڑھا کر داور بدستور حضرات کے حلقہ میں جاتے رہو انشاء اللہ صراطِ مستقیم پر رہو گے (۱۳ دسمبر ۱۹۲۲ء) (۳۸) بستوں کے ذاکرین کو اپنے گھر پر لانے اور ذکر وغیرہ کی مجلس قائم کرتے تاکہ گھر والوں کو دیکھ کر رغبت ہو۔ زبان سے ان کو کوئی خاص توجہ نہ دلاتے بلکہ ان ذاکرین کی عملی حالت دکھاتے تھے۔ (بروایت صنا جزادہ صاحب)

## آدابِ مجلس

آپ کی مجلس میں ہر خورد و کلاں تہایت ادب و تعظیم سے بیٹھتا تھا۔ آپ کسی سے کبھی بھی سیفہانہ گفتگو اور ہزل نہیں فرماتے تھے اور نہ کسی اور کو یہ جرات ہوتی بلکہ سب اس طرح خاموش ذکر الہی میں بیٹھے رہتے گویا کہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں اور حسبِ ضرورت

ملہ بخاری شریف کتاب الجہاد اشکی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کے باب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا الحدیث۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ سب لوگ اس طرح ادب سے بیٹھے تھے کہ گویا ان کے سروں پر نرند بیٹھا ہوا ہے کہ جنبش سے وہ اڑ جائیگا۔ الحدیث نیز صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عروہ اسلام لانے سے پہلے قریش کی جانب سے شرائط صلح پر گفتگو کیلئے آتے ہیں تو صحابہ کی وفاداری کا نقشہ قریش کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ میں نے قیصر و کسریٰ نجاشی کے دربار دیکھے ہیں لیکن جو الہامانہ عقیدت کا منظر سامان دیکھا کہیں نہیں دیکھا جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بات کرتے ہیں تو لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور مجلس میں ایک سکوت کا عالم طاری ہو جاتا ہے نظر بھر کر کوئی شخص ان کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ آپ کے دھوکا پانی اور آپ کا بلغم (نھوک) زمین پر گرنے نہیں پاتا بلکہ اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں اور اپنے چہرہ اور ہاتھوں پر مل لیتے ہیں۔ بزرگانِ صحابہ کی مجالس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و برکت سے رعایتِ آداب صلح کا یہ نقشہ بالعموم دیکھنے میں آتا ہے۔

ہر شخص نہایت ادب سے بولتا اور کوئی کسی قسم کی تنگی و تکلیف بھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ آپ کی مجلس میں کوئی شخص کسی سے سرگوشیاں نہیں کرتا تھا جو خلاف آداب مجلس ہے اور قرآن پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ جب مجمع زیادہ ہو جاتا تو حلقہ اور وسیع کر لیا جاتا تاکہ سب کو اچھی طرح جگہ مل جائے اور سب آپ کے ملفوظات و فیوض سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ باوقار رہتے جو کہ ایک شیخ طریقت کی شان کے شایاں ہے تاکہ فیض اخذ کرنے والوں کے دل پر اس کا اثر اور عظمت و بزرگی قائم رہے اور محبت کا اس قدر اظہار فرمائے کہ کسی کو کوئی تکلیف اور تنگی بھی پیدا نہیں ہوتی تھی تاکہ حصول فیض اور استفسار مسائل شریعت و طریقت میں مانع نہ ہو جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب ۲۹ جلد اول کے اخیر میں تحریر فرمایا ہے ”بزرگوں نے کہا ہے کہ پیر کو چاہئے کہ مریدوں کی نظر میں اپنے آپ کو سنجیدہ اور باوقار رکھے نہ یہ کہ ان کے ساتھ اختلاط کا دروازہ کھولے اور ان سے ہم نشینوں کی طرح سلوک کرے اور حکایت و گفتگو سے مجلس گرم رکھے والسلام“ جب تک لوگ آپ کی خدمت میں بیٹھے رہتے آپ بھی بیٹھے رہتے اور کسی کو اٹھ جانے کے لئے نہ فرماتے خواہ کیسا ہی بے وقت ہو جاتا سوائے نماز وغیرہ کے اوقات کے حتیٰ کہ دوپہر یا رات کو لیٹنے کے وقت میں بھی بہت دیر ہو جاتی چونکہ آپ کو رنج کا عارضہ شدید رہتا تھا اور ہر وقت لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کی وجہ سے بوجہ شرم و جب آپ کو رنج روکنی پڑتی اس لئے تکلیف بڑھ جاتی لیکن کسی کو اٹھ جانے کے لئے نہ فرماتے بعد میں مولانا گوہار لوی یا حاجی محمد شفیع صاحب وغیرہ رفیق سفر کو فرماتے کہ آپ لوگوں کو نہیں سمجھاتے اور میں شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا اس لئے تکلیف بڑھ جاتی ہے اور بجائے فائدہ کے سب کے لئے نقصان کا باعث ہو جاتی ہے کیونکہ تکلیف کی وجہ سے

افادہ و استفادہ دونوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ لوگ بھی باوجود مولانا گوہار لوی وغیرہ کے  
 بار بار کہنے اور سمجھانے کے اس بات کو نہیں سمجھتے تھے اور پھر وہی بات واقع ہو جاتی تھی  
 بات یہ ہے کہ سب لوگ پرانے رفیق اور بزرگ کی طبیعت و عادت سے واقف نہیں ہوتے  
 چونکہ شیخ دعوت تبلیغ پر آیا ہوا ہوتا ہے اس لئے سوچتا ہے کہ جس قدر بھی حسن اخلاق  
 محبت اور میل جول کا برتاؤ رکھا جائے گا لوگ اتنا ہی زیادہ رغبت سے آئیں گے، اللہ کا  
 نام سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ میزبان یا رفیق سفر یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ حضرت  
 جب خود بیٹھے ہوتے ہیں اور منع نہیں فرماتے تو تمہارا کہنا کہیں گستاخی میں شمار نہ ہو جائے،  
 حالانکہ یہ منصب میزبان اور رفیق سفر کا ہی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے لوگوں کو الگ  
 کر کے شیخ کے آرام کا کافی خیال رکھا کرے اور الگ وقت میں لوگوں کو اس قسم کے آداب سے  
 آگاہ کر دیا کرے کہ مشائخ اپنے متھ سے اس قسم کی باتیں شاید اس لئے بھی نہیں کہتے کہ  
 اس میں اپنی عزت کرانے اور بڑائی کا شائبہ پایا جاتا ہے، دوسرے پرانے رفیق اس لئے  
 بیٹھے رہتے ہیں کہ سب بیٹھے ہیں تم ہی کیوں اٹھو اور ہر نیا آدمی چونکہ آداب طریقت  
 سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوتا اس لئے وہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے کے آداب  
 اوقات کی پابندی سے ناواقف ہونے کی وجہ سے قاصر رہتا ہے نیز ہر شخص اپنی  
 فرصت کو مد نظر رکھ کر آتا ہے اور اس وقت اس بات کا خواہشمند ہوتا ہے کہ مجھے بھی  
 حضرت کی خدمت میں کافی دیر بیٹھنے کا موقع مل جائے اگرچہ وہ کتنا ہی بے وقت  
 آیا ہوا اور پھر بعض لوگ اس لئے بھی دیر تک بیٹھے ہیں کہ جب سب چلے جائیں گے تو  
 تنہائی میں اپنا فلاں مقصد بیان کر کے دعا و تعویذ وغیرہ کرائیں گے یا مشورہ لیں گے  
 اس طرح چاہے رات کے بارہ ایک کیوں نہ سج جائیں۔ یہ نہایت نا سمجھی کی بات ہے

بلکہ بہتر یہ ہے کہ ایسے عام مقاصد کو ان کے وقت پر کہہ کر استصواب و دعا و نعتوں حاصل کر لیا جائے، اور اگر واقعی کوئی بات تنہائی میں ہی کہنے کی ہے تو خود براہ راست کسی رفیق سفر یا میزبان کے ذریعہ سے کہہ سکتا ہے کہ تنہائی میں کچھ عرض کرنا ہے وہ بزرگ خود ہی تنہائی کا موقع دیدیں گے۔ شاید بعض لوگ بے وقت آکر یہ سمجھتے ہوں کہ بزرگ ہمارے آنے پر ہی بیٹھے ہیں اس سے پہلے تو آرام ہی کر رہے ہوں گے اس لئے بیٹھے بھی رہیں تو کوئی مضائقہ نہیں حالانکہ ان سے پہلے بھی یہی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور تہجد کے بعد سے رات کے سونے تک سوائے دوپہر کے قبولہ لوگوں کا سلسلہ لگا ہی رہتا ہے۔

مشائخ کی خدمت میں آنے جانے اور اٹھنے بیٹھنے کے ان تمام آداب کی رہنمائی مریدین کے لئے ضروری ہے اس لئے اس بیان کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔  
 شریف میں ہے کہ **وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا** اور **مَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ**  
 (یعنی تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے) اور قرآن پاک میں **جَلَدٌ جَلَدٌ نَبِيٍّ كَرِيمٍ**  
 علیہ وسلم کے آداب کی رعایت رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ مزید کتب فن ملاحظہ فرمائیں۔ ہذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔ مؤلف۔

## ملفوظات

بروایت مولانا گوہار نوری (دا) ایک شخص نے رزق کی فراخی کے لئے دعا کی  
 کی تو جواب میں فرمایا کہ "رزاق کی تلاش کرو رزق تمہیں خود بخود تلاش کرے گا" (دا)  
 کی بیاض میں پنجابی کا یہ شعر درج ہے اور اکثر اسے پڑھتے بھی تھے۔

پلے خرچ نہ بنھدے کبھی تے درویش جہاں تکبہ رب و انہاں رزق ہمیشہ  
یعنی درویش اور پرندے اپنے پلے میں رزق باندھ کر نہیں پھرتے جنہیں اللہ پر بھروسہ اور  
کل ہوتا ہے انہیں ہمیشہ رزق حاصل ہے۔

(۲) عاجز (محمد سعید صاحب گوہانوی) کی لڑکی فوت ہو گئی اس کی اطلاع حضرت  
ن خدمت میں بھیجی گئی اور دعا کا سلتجی ہوا کہ اللہ تعالیٰ تسکین عطا فرماویں۔ ارشاد ہوا  
انا للہ وانا الیہ راجعون "نیز فرمایا کہ "آپ کو لڑکی کے فوت ہونے کا غم ہوا مجھے خوشی ہوئی  
اور وہ خوشی یوں ہوئی کہ الحمد للہ آپ کی بھی سفارش کرنے والی ایک آگے پہنچ گئی۔ چنانچہ  
اس مکتوب کے پڑھنے سے غم غلط ہو گیا۔

(۳) ایک دوست نے تحریر کیا کہ میری لڑکی ہر وقت روتی ہے دعا فرمائیں اور  
ایک تعویذ عایت فرمائیں۔ جواب میں ارشاد فرمایا کہ فلاں عمل پڑھ کر دم کرو۔ نیز فرمایا کہ  
دونا بچوں کی غذا ہے بغیر روئے بچے بڑے نہیں ہوتے خواہ بادشاہ کے ہوں۔

(۴) ایک روز ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ دنیاوی اغراض لیکر بزرگوں کی خدمت میں  
پہنچتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لئے نہیں آتا الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو  
سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بخشے۔

(۵) ایک روز ارشاد فرمایا مولوی صاحب خدائے تعالیٰ کی یاد میں اتنی لذت ہے کہ  
اس کا اندازہ بیان سے باہر ہے۔ جنسی لذت جس پر ساری دنیا مقتول ہو کچھ بھی نہیں۔  
خدا کی یاد کی لذت دیر پا ہوتی ہے۔

(۶) ایک روز ارشاد فرمایا کہ مبلغ القرآن اور مبلغ الاسلام کبھی غریب نہ ہوگا۔  
(یہ الفاظ مستری شمس الدین صاحب سے بھی منقول ہیں) اور اس پر اپنے وطن کی ایک

عورت کا قصہ سنایا کہ ہمارے ہم سایہ میں ایک عورت تھی جب تک اس کا خاوند زندہ رہا وہ  
نان نفقہ سے بے فکر تھی مگر خاوند کے فوت ہونے کے بعد فکرِ معاش لاحق ہوئی وہ عورت  
قرآن مجید پڑھی ہوئی تھی اس نے لڑکیوں کو پڑھانا شروع کر دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ  
اس کو مع اہل و عیال معاش سے بے فکر کر کے غنی کر دیا چنانچہ کچھ دن بعد اس کے ہاتھ  
میں سونے کے کڑے دیکھے گئے۔

(۷) ایک روز ارشاد فرمایا کہ طہارتے تعالیٰ کا ذکر دنیا و باقیہا سے بہتر ہے اور  
ذکر کثرت سے کیا کرو۔ دینی و دنیوی فوائد خود بخود حاصل ہوتے رہیں گے۔

(۸) ایک روز فرمایا تم خدا کے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے  
کاموں کی کفایت فرمائے گا۔

(۹) ایک روز ارشاد فرمایا کہ اے فقرو! دراصل تم ہی مالدار ہو تمہارے پاس  
کی دولت ہے جس کو بچا ہے اور دنیا داروں کے پاس دنیا کی دولت ہے جسے فنا ہے  
تم چاہتے ہو کہ اپنے فرائض و مسجات و نوافل کی بجائے دنیا کی دولت کو قبول کر لو؟  
یہ منظور ہے؟ اگر یہ منظور نہیں ہے تو بس خدا تعالیٰ کی یاد سبک عمدہ اور بہترین  
ہے اس پر صبر و قناعت کرو، دنیا کی دولت دین کی دولت سے محروم کرنے والی چیز  
اور بھلائیوں سے محروم رکھتی ہے۔

(۱۰) ایک روز ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک گذرگاہ ہے امیر المؤمنین حضرت  
کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک گذرگاہ ہے یہ رہتے بسا اور سونے کا مقام نہیں  
سلامتی کے ساتھ گذر جانے کا خیال رکھو یہاں ہمیشہ رہنے کا خیال ہرگز نہ کرو ہم کو در  
دائم زندگی کے لذائذ حاصل کرنے کیلئے پیدا کیا گیا ہے اور اس دارالضاد (دنیا) کو اسلئے بنا

کہ یہاں سے آخرت کا توشہ لیکر دارالبقائے جاو اور وہاں ابدی نعمتوں کے فرے لوٹو۔  
 (۱۱) ایک روز ارشاد فرمایا کہ شہر میں اللہ اللہ کرنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا جنگل  
 میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر میں لوگوں کے گناہوں کا دھواں اٹھتا ہے اس لئے وہ  
 فیض کے آنے میں حائل ہو جاتا ہے اور اس کے متعلق اپنا انکشاف بھی فرمایا کہ اس عاجز کو  
 بھی یہی آواز آتی ہے کہ میری تجلی جنگل میں براہ راست ذکر کے قلب پر نزول کرتی ہے۔  
 (۱۲) ایک روز فرمایا کہ زیادہ وعظ نہیں کرنا چاہئے ورنہ لوگ واعظ کہنے لگیں گے اور  
 باطنی فیض حاصل کرنے سے محروم رہ جائیں گے۔

(۱۳) ایک روز فرمایا کہ جتنا فائدہ ذکر اللہ کے بتلنے سے ہوتا ہے اتنا وعظ کرنے  
 سے نہیں ہوتا۔

(۱۴) ایک روز فرمایا مولوی صاحب اگر آپ کا کوئی دوست ہو اور باطنی نعمت  
 سے محروم ہو تو اس کو ضرور بالضرور ذکر قلبی تعلیم کیا کرو، یہ دوستی کا حق ہے چاہے وہ  
 کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو شریا نہ کرو۔

(۱۵) ایک روز فرمایا کہ جو عالم ظاہری علم پڑھ کر باطن کی طرف غور نہیں کرتا وہ  
 ایک آنکھ والا ہوتا ہے۔

(۱۶) ایک روز فرمایا کہ احکام الہی کے مقابلہ میں اذکار الہی کی کوئی حیثیت نہیں  
 سب سے پہلے احکام الہی بجالاؤ اور اس کے بعد اذکار کرو۔ (اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر  
 قول و فعل میں شریعت مقدسہ کی پابندی اور سنت نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا اتباع  
 ہی حقیقی ذکر ہے اور اصلی یاد الہی ہے اور اذکار و اشغال جو قرآن شریف و حدیث شریف میں  
 وارد ہوئے ہیں اس کے معاون و مددگار اور طبیعت کو اس کے موافق و سازگار بنانے والے ہیں

اور جس طرح جسمانی صحت و تربیت کے لئے اطباء و حکما نے اپنے تجربات کی بنا پر مفید اور  
مضر غذاؤں کا بیان کیا ہے اسی طرح روحانی تربیت و صحت و ترقی کیلئے اللہ تعالیٰ نے  
اپنے فضل و کرم سے اپنی آسمانی کتابوں میں روحانی غذاؤں کی مکمل فہرست جس میں تمام  
مفید اور مضر چیزوں کی پوری تفصیل موجود ہے بھیجی ہے جس کو شریعت اور مذہب کہتے ہیں  
اور انبیاء علیہم السلام نے اپنی زندگی کا صحیح نمونہ پیش کر کے اس کی مکمل تشریح کر دی ہے خصوصاً  
اسلام نے تو اس تفصیل کو اس حد تک پہنچایا ہے کہ ہر مفید و مضر غذا کے درجے بھی بتا دیے  
چنانچہ استعمال کے لئے فرض واجب سنت مستحب مباح و غیرہ کے مراتب قائم فرما کر  
ضرورت کی نوعیت دکھائی تو پرہیز کے لئے حرام، مکروہ تحریمی و مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ  
کی تقسیم سے بچنے کی ضرورت کے مدارج بتا دیے اور اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ نازل  
فرما کر اطمینان و لا دیا کہ اب اندیشہ نہیں کہ شاید کسی مضر کو مفید سمجھ کر کھالینے سے ہلاک ہو جائیں  
صرف اس عطا کردہ مکمل فہرست پر عمل کرنا نجات کے لئے کافی ہے۔ مگر جب تک دل میں  
اللہ تعالیٰ کی محبت قائم نہیں ہوتی ان احکام شرعیہ اور مرضیات الہیہ پر عمل مشکل ہوتا  
ہے اس لئے اس کے حصول کے لئے شریعت کی روشنی میں اذکار و اشغال کی تعلیم دی جاتی ہے  
کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا غلبہ حاصل ہوتا ہے مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ  
ذَكَرَهُ میں اسی رمز کا بیان ہے اور محبت کی حالت میں محبوب کے احکام بجالانے میں  
تعب و تکلیف کی بجائے لذت محسوس ہوتی ہے جو کبر و نخوت اور جملہ عاداتِ ردیہ و خبیہ  
کو ختم کر کے خشوع و مسکنت، بلند ہمتی، تواضع، زہد و طاعت، اخلاص، رضا جوئی وغیرہ  
اخلاقِ حسنیہ کی توفیق دیتی اور کسی عضو اور حس سے بھی کوئی خلاف انسانیت و خلاف  
حکم خدا و رسول کام سرزد نہیں ہونے دیتی۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي



تَحِبُّكُمْ وَاللَّهُ فِي أَسْمَاءِ رِزْقِ بِيَانِ قَرِيْبًا أَوْ رِزْقِ مَحَبَّتِ كَرْنِ وَالْوَالِدِ كَوَاتِبَاعِ مَحْبُوْبِ خِدَا  
 سُوْلِ اَللّٰهِ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا اَلْحَمْدِ دِيَا كِيَا اَوْرَاسِ كُو مَقْدَمِ رُكْهَا هِيَا اَوْرَاسِ كِي مَحَبَّتِ كَا  
 رُو سِدَا رُقَرَارِ دِيَا هِيَا، اَوْرِ جُو شَخْصِ جِسْ سِي زِيَادَه مَحَبَّتِ كَرْتَا هِيَا اَسْ كُو زِيَادَه يَادِ هِيَا كَرْتَا هِيَا  
 سِي يَادِ كَا سِدَا رَاتِبَاعِ شَرِيعَتِ پَرِ هِيَا هُوَا يِ هِيَا وَجِهَ هِيَا كِي مَسْلَمَانِ كَا هِرْ قَوْلِ وَ هِرْ فَعْلِ  
 وَ عِيْنِ شَرِيعَتِ كِي مَسَالِقِ اَوْرِ سُنْتِ كِي اِتْبَاعِ مِي هُو حَقِيْقِي ذِكْرِ هِيَا اَوْرِ دَوَامِ ذِكْرِ اَوْرِ  
 يَادِرَاشْتِ سِي هِيَا مَقْصُوْدِ هِيَا وَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَوْلَفِ

(۱۷) اِيك رُو زَقْرِيَا يَا كِي مَرِيْدِيْنِ ذِكْرِ اَزْ كَارْ كَرْتِي هِيَا كِي اِنْ كُو سُنْتِ نَبُوِي كِي مَحَبَّتِ  
 هُو جَا ئِي اَوْرِ جَبْ تِكْ يِي بَاتِ حَالِ نِي هُوَا سُو قَتِ تِكْ مَقْصُوْدِ حَالِ نِي هِيَا هُو تَا۔

(۱۸) اِيك رُو زَقْرِيَا يَا كِي بِي شَرِيعِ پِي رُو سِي سِي جُو وَرْنِي بِلَا سِي بِنْتَلَا هُو جَا وُ كِي۔  
 (۱۹) اِيك رُو زَقْرِيَا يَا كِي دُوَا دِي بَا طِنِي فَيْضِ سِي اَكْثَرِ مَحْرُوْمِ رُكْهَا كَرْتِي هِيَا اِيك كُو لُوِي  
 دُو سِرَا مَالِدَارِ۔ مَوْلُوِي اَسْ لِي كِي وَ هُوَا پِنِي عِلْمِ پَرِ غُرُوْرِ كَرْتَا هِيَا رَا اَلْعِلْمِ حِجَابِ لَا كِبَرِ نَبْرُكُوْنِ كَا  
 مَشْهُورِ مَقْوَلِ هِيَا) اَوْرِ مَالِدَارِ پِنِي اَلِ پَرِنَا زَكْرْتَا هِيَا يِي لُو كِ اَكْثَرِ اَهْلِ اَللّٰهِ كُو قَرِيْبِ بَارِ تَهْوُو  
 كَرْتِي هِيَا لِي كِنِ اِكْرَانِ مِي سِي كُو نِي كَا مِيَا بِ هُو كِيَا تُوَا سِي سِي بِيْتِ مَخْلُوْقِ خِدَا رَا هِ رَا سُنْتِ پَرِ  
 آجَاتِي هِيَا (يَعْنِي عَالَمِ سِي بُو جِهَ اَعْتِقَادِ عِلْمِي اَوْرِ مَلِكَةِ تَبْلِيغِ كِي، اَوْرِ مَالِدَارِ سِي بُو جِهَ اَثْرَاتِ  
 وَ تَعْلَقَاتِ دِيَا وِي كِي مَوْلَفِ)

(۲۰) اِيك رُو زَارِ شَادِ قَرِيَا يَا كِي هِيَا لُو كِ چُو رُو كُو بِيْتِ بَرَا سَمَحْتِي هِيَا مَلِكِ اَكْثَرِ مَحَبَّتِ  
 مَرْدُوْرِي اَوْرِ مِلَا زِمْتِ كَرْنِي وَ اَلِي اَوْرِ تَجَارِ بِي چُوْرِي كَرْتِي هِيَا اَوْرِ سَبِ بَرَا چُوْرُو هِيَا جُو نَمَازِ  
 مِي چُوْرِي كَرْتَا هِيَا۔ (حَدِيْثِ شَرِيْفِي مِي هِيَا: عَنِ اَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ  
 صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةٌ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَا يَتِمُّ رُكُوعُهَا وَلَا سُجُودُهَا

(رواہ احمد) یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بہت برا اعتبار چرانے وہ آدمی ہے جو اپنی نماز سے چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اپنی نماز سے کیونکر

ہے۔ فرمایا وہ نہ نماز کا رکوع پورا کرتا ہے اور نہ اس کا سجدہ۔ (مشکوٰۃ باب السجود)

(۲۱) ایک روز حضرت نے عاجز (مولانا گوہانوی) سے فرمایا کہ مجھے کھاڑا اعلیٰ

دیا کرو کیونکہ میں ہر لقمہ حضور کی کے ساتھ کھانا ہوں۔

(۲۲) ایک روز ایک نمبردار آیا جو بہت امیر تھا مگر دنیوی اکھنوں اور جھگڑوں

پری طرح پھنسا ہوا تھا اس نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا دعا فرمائیں کہ میں مصیبت

سے بچ جاؤں۔ فرمایا جاؤ اللہ بہتری کرے گا۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ آپ بھی

اس نمبردار جیسا دو لقمہ بنا چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے انشاء اللہ ویسا ہی ہو جائیگا۔ اس

حضرت پر ایک خاص حالت طاری تھی فرمایا میری وجہ سے نہ رکنہ جو دل چاہتا

وہ کہو۔ میں نے عرض کیا حضور مجھے امیری نہیں چاہئے۔ فرمایا مولانا اگر دو لقمہ بننے

خواہش کرتے تو ضرور ہو جاتے مگر عذاب میں پھنس جاتے۔

(۲۳) بھائی عبدالرحمن صاحب کربال والے نے فرمایا کہ میں نے سر نہ شہ

جانے کے لئے حضرت صاحب سے اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت کے ساتھ ساتھ

کرنے اور دیگر آداب کی ہدایات دیں اور فرمایا کہ فلاں جالی کے پاس بیٹھ کر مراقبہ

جب میں واپس ہوا تو عرض کیا کہ حضور آپ عرس کے موقع پر کیوں تشریف نہیں لے

فرمایا جب تمہیں مجھ سے کوئی خاص بات کرنی ہوتی ہے تو سب لوگوں کے سامنے کیوں

کرتے (مقصود یہ تھا کہ میں بھی مجرد صاحب قدس سرہ العزیز کی خدمت میں خاص تنہائی

حاضر ہونا چاہتا ہوں اور عرس کے موقع پر تنہائی نہیں ملتی۔

زمولوی عبدالمحلیم صباپانی پتی | (۲۴) کم کھانے کم سونے کم بولنے کی عادت ڈالو۔  
(۲۵) قبض و بسط دونوں سے سالک کی آزمائش

وا کرتی ہے۔

(۲۶) نفس و شیطان سالک کے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔

(۲۷) شیطان سالک کی زبانی اس کا حال و خواب سن کر بہکانے کی زیادہ سعی کرتا ہے  
وَمَا قَالَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَاللَّهِ اعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَعْمُ۔

صاحبزادہ مولانا محمد صادق صاحب | (۲۸) ارشاد فرمایا دنیا فانی ہے درویش کو  
اس میں دل نہیں پھنسانا چاہئے بلکہ اس سے

خبر موڑ کر باقی کے ساتھ یاری کرنی چاہئے تاکہ باقی کے ساتھ خود بھی باقی ہو جائے۔ اکثر  
وقات یہ کلمہ در زبان ہوتا۔ اَللّٰهُمَّ الرَّقِیْقَ الْاَعْلٰی

زمستری شمس الدین صاحب | (۲۹) حضرت صوفی علی نواز صاحب کے روایت ہے کہ  
ایک روز حضرت نے فرمایا کہ الحمد للہ یہ فقیر فخر سے نہیں

تا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے اور فضل جنان ہے کہ اس فقیر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سائیں  
ذکر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح علم لدنی عطا فرمایا ہے (واللہ اعلم)

(۳۰) اس سفر میں جو آپ کا آخری سفر ہے اور جس میں آپ نے بمقام پانی پتہ وصال  
فرمایا دوران سفر ریل گاڑی میں عاجز نے عرض کیا کہ حضرت! بہت لوگوں کو یہ عاجز دیکھتا

ہو کہ مرشد کے گزرنے کے بعد مریدین ویسے زا کر اور پابند شریعت نہیں رہتے اس کی کیا وجہ ہے  
فرمایا کہ شیخ کے فرمان کو پوری طرح سے بجا نہیں لاتے بلکہ سستی کرنے لگتے ہیں اگر شریعت مفقود

ہو پابندی اختیار کریں تو ان کے ویسے ہی حالات باقی رہیں اور ویسے ہی ذکر اذکار کا سلسلہ قائم رہے۔  
اللہ کا درونی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا رواہ الشیخان (مؤلف)

## چند ناصحانہ حکایات

آپ مسائلِ تصوف کو بیان فرماتے ہوئے وضاحت کیلئے بعض دفعہ کوئی حکایت بھی بیان فرمادیتے تھے بطور نمونہ چند حکایات جو آپ سے سُنی گئیں درج ذیل ہیں:-

(۱) ایک بزرگ جب ایک بھٹیاری کے مکان کے سامنے سے گذرتے تو بھٹیاریا جس نے ایک بکر پال رکھا تھا اس بزرگ سے سوال کرتی کہ اے بزرگ تیری ڈاڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی۔ وہ بزرگ یہ فرما کر چلے جاتے کہ پھر کبھی جواب دوں گا۔ یوں زمانہ گذرنا گیا اور وہ بھٹیاری ہمیشہ اس بزرگ سے یہی سوال کرتی اور بزرگ صاحب یہی جواب دیکر روانہ ہو جاتے۔ آخر وہ وقت آیا کہ بزرگ کی عمر کا جام لبریز ہو گیا اور اس دارِ فانی سے عالمِ جاودانی کو رحلت فرما گئے۔ جب ان کا جنازہ اس بھٹیاری مکان کے سامنے سے گذرا تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے لوگوں نے بتایا کہ فلاں بزرگ کا جنازہ ہے۔ بھٹیاری نے کہا کہ یہ تو میرا دین کا بھائی ہے اور میرا اس بہت روحانی تعلق تھا اگر تم لوگ ان کا جنازہ رکھ کر ذرا ایک طرف ہو جاؤ تو میں اس کی آخری زیارت کر لوں۔ لوگوں نے اس کو موقع دیدیا۔ جب بھٹیاری قریب اور کپڑا اٹھایا تو وہی سوال کیا اور کہا کہ تو اچھا بزرگ ہے روزِ وعدہ کرنا رہا کہ تیرا ہم پھر دوں گا اور جواب دیئے بغیر اس دینا سے چل دیا۔ اس بزرگ نے اللہ تعالیٰ کی سے اس وقت فرمایا کہ میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا اب میں کہہ سکتا ہوں میری ڈاڑھی تیرے بکرے کی ڈاڑھی سے بہتر ہے کہ اس اتباعِ سنت کی برکت سے اللہ پاک نے میری بخشش فرمائی اور خاتمہ بالخیر ہوا۔

نتیجہ: مدارِ اعمالِ حسنِ خاتمہ پر ہے۔ جب تک خاتمہ بالخیر نہ ہو کسی عمل یا وضع پر  
 رنی بھروسہ نہیں کرنا چاہئے۔ حدیث شریف میں ہے انما العبرة بالخواتیم اور کما قال  
 علی اللہ علیہ وسلم یعنی اعتبار خاتمہ پر ہے۔ (یہ حکایت غالباً حضرت خواجہ نظام الدین  
 ولیاوردہلی والوں کے متعلق ہے۔ واللہ اعلم)

(۲) ایک بزرگ کی مکاشفہ میں شیطان سے ملاقات ہوئی تو اس سے کہا کہ اے  
 عین! تو کیوں لوگوں کو ہر وقت بہکانا ہے۔ شیطان نے جواب دیا کہ حضرت! میں تو صرف گڑ  
 ریشہ لگانا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا۔ بزرگ نے فرمایا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے  
 سب تیری ہی بد معاشیاں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو برائی پر لگانا اور لڑانا رہتا ہے۔ شیطان  
 نے کہا حضرت آپ یہیں تشریف رکھے اور ملاحظہ فرمائیے کہ میں تو صرف گڑ (ریشہ) لگایا  
 کرتا ہوں پھر لوگ خود ہی آئادہ شرارت و اسارت ہو جاتے ہیں چنانچہ اسی وقت ایک  
 حلوائی کی دکان پر گیا اور اس کی کڑھائی میں سے ایک انگلی مٹھائی کے شیرے کی بھر کر سامنے  
 دیوار پر لگادی بشیرہ پر مکھیاں جمع ہو گئیں، مکھیوں پر چھپکلی آگئی۔ حلوائی کے لڑکے نے ایک  
 بیل پال رکھی تھی اور وہ اس وقت اس کو ہاتھ پر لئے بیٹھا تھا بیل چھپکلی پر لپکی، اس  
 وقت بازار میں سامنے ایک باز گیر ہاتھ پر باز کو بٹھائے ہوئے کھڑا تھا۔ باز نے جو بیل  
 دیکھی اڑا اور بیل کو مروڑ دیا۔ حلوائی کے لڑکے نے جو بیل کو شکار ہوتے دیکھا تو غصہ  
 میں بھر گیا۔ جلتی ہوئی لکڑی بھٹی میں سے نکال کر باز کے دے ماری۔ باز گیر نے جو باز کے  
 پیچھے بھاگا آ رہا تھا باز کی یہ گت بنتے دیکھی تو حلوائی کے لڑکے کو پٹیا۔ اتنے میں حلوائی  
 بھی جو کہیں کام سے گیا ہوا تھا آگیا اور لڑکے کی حمایت میں باز گیر سے گتھ گیا اور  
 لڑائی خوب گرم ہو گئی، لوگ باگ اکٹھے ہو گئے، عدالت تک نوبت پہنچ گئی، بڑی

مشکل سے لوگوں نے بیچ میں پڑ کر معاملہ رفع دفع کرایا۔ شیطان نے اس بزرگ کے پاس آ کر عرض کیا، دیکھا حضرت! میں نے تو صرف شیرہ کی انگلی لگائی تھی۔ اب یہ لڑائی میں نے تو نہیں کرائی (بقول شاعر سے)

کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر فعل بند تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر  
نتیجہ: انسان کا اپنا نفس ہی اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتا رہتا ہے اِنَّ النَّفْسَ  
الْمَّارَةَ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي اِنَّ رَبِّي لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (ترجمہ: نفس ہی برائی  
کی طرف لے جانے والا ہے مگر جب کہ میرا رب رحم کرے بیشک میرا رب غفور رحیم ہے) نفس کو  
قابو میں رکھنا چاہئے اور جلد بازی سے بچ کر سوچ سمجھ کر شریعت مقدسہ کی روشنی میں  
عمل کرنا چاہئے

بڑے موزی کو بار نفس مارہ کو گریارا نہنگ از دہا و شیر نریارا تو کیا مارا  
دگیر۔ نظر آدمی اس کو نہ جانے گا گو ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا  
جسے عیش میں یا رخدانہ رہی جسے طیش میں خوفِ خدا نہ رہا  
(۳) شیطان کے مکروں پر آگاہ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے یہ بڑے بڑے بزرگوں کو  
چکر میں ڈال دیتا ہے اور جیسا کوئی آدمی ہوتا ہے اس کے پاس اسی کے مطابق شکل  
بدل کر جاتا ہے عالم کے پاس بڑا عالم بن کر اور صوفی کے پاس بڑا صوفی بن کر جاتا ہے  
جاہل کو جاہلانہ وضع قطع کے ساتھ بہکانا ہے غرضیکہ عجیب عجیب ڈھنگ کرتا ہے حضرت  
غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے ہی کہ شیطان نے  
ایک بدلی میں روشنی کی صورت میں نمودار ہو کر یہ کہا کہ "اے عبدالقادر اب تو تو ہمارا بہت  
مقبول بندہ ہو گیا ہے اب تجھے کثرت عبادت اور اس قدر نماز روزہ کی پابندی کی

ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اور ہوتا تو بہک جاتا مگر اللہ پاک نے ان کو علم سے نوازا اور تائید  
ایزدی شامل حال تھی سمجھ گئے کہ یہ شیطانی آواز ہے کیونکہ عبادت سے تو رسول مقبول  
صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری نہیں ہوئے اور باوجود اس قدر عبادت کرنے کے یہی فرماتے رہے  
مَا عْبَدْنَا لَكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ رَءَى اللَّهُ هِمَّ نَبِيِّ كَمَا حَقَّ  
عبادت نہیں کی اور تجھے جیسا کہ حق ہے نہیں پہچانا پس لا اول پڑھی اسی وقت وہ بدلی  
چھٹ گئی اور شیطان نے آواز دی کہ اے عبدالقادر! تو اس دفعہ بھی میرے حملہ سے  
صاف بچ گیا امخ

(۴) ایک بزرگ کو تو یہ آواز دیکر حکم دے ہی دیا تھا کہ جو شخص تیری زیارت کر لے گا  
وہ جنتی ہے خواہ عمل کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ وہ بزرگ سوار ہو کر بازار میں پھرنے لگے  
اور خادم آواز لگانا تھا کہ جو شخص اس بزرگ کی زیارت کرے گا وہ جنتی ہے خواہ عمل کیسے  
ہی ہوں۔ غرض جب ایک دوسرے بزرگ کو پتہ چلا تو اس نے ان کو سمجھایا اور روکا کہ  
جب تک ایمان اور اسلام (اعمالی صالحہ) حاصل نہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی  
کوئی فائدہ نہ دیتی تو آپ کی کیا ہستی ہے اپنے گھر بیٹھو اور اس حرکت سے باز آؤ۔  
چوکنغاں را طبیعت بے ہنر بود پیمبر زادگی قدرش نیفرود

(۵) ایک دفعہ شیطان نے ایک بزرگ کو جو صبح کی نماز کے وقت تلے بے جرسورے  
تھے جگایا۔ بزرگ نے پوچھا تو کون ہے جو آج مجھے جگانے کیلئے آیا ہے میں نے تجھے پہلے  
کبھی نہیں دیکھا۔ شیطان نے کہا کہ میں شیطان (ابلیس) ہوں۔ بزرگ نے پوچھا کہ تو تو اُلٹا  
لوگوں کو نماز وغیرہ سے غافل کرنے والا ہے پھر یہ آج تیرا مجھے اٹھانے کا کیا مقصد ہے اور  
یہ نیکی میں امداد کرنے سے تیرا کیا مطلب ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ بات تو یہی ہے کہ

میں نیکی سے غافل کرتا ہوں لیکن آپ کو نماز کے لئے اٹھانے میں میری یہ حکمت ہے کہ اس میں میں نے آپ کو ثواب کی زیادتی سے روکا ہے اس لئے کہ اگر آپ سوتے رہتے اور نماز قضا ہو جاتی تو آپ کو بہت افسوس ہوتا اور آپ اس قدر روتے کہ یہ عجز و نیاز اور اس کی قبولیت و ثواب آپ کو بہت زیادہ ملتا۔ آپ نماز قضا کر لیتے تو نماز کا ثواب بھی آپ کو پورا مل جاتا اور ندامت و توبہ و استغفار کا مزید ثواب آپ کو ملتا۔ میں نے آپ کو جگا دیا تاکہ صرف نماز کا ثواب ہی آپ کو ملے زیادہ اور تو کچھ نہ لے سکیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کو اپنی غفلت پر ندامت نہ ہوتی اور وہ گڑا گڑانے والا نہ ہوتا تو میں اس کو ضرور اور تھکی دیتا کہ سوتا رہے اور غافل ہو کر نماز قضا کرے۔ غرضیکہ شیطان کے بڑے مکر ہوتے ہیں (بالکل ایسا ہی قصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے جو مولانا رومؒ نے اپنی شنوی کے دفتر میں حکایتِ ہفتم بمقامِ معرفت میں تفصیل سے درج کیا ہے جس میں شیطان کا جواب یہ درج ہے۔)

گر نمازت فوت می شد آن زباں	می زدی از دردِ دلی آہ و فغان
آن ناسف آن فغانِ آں نیاز	در گزشتے از دو صد ذکر و نماز
من ترا بیدار کردم از ہیب	تا نہ سوزاند چنان آہِ حمیب
تا چنان آہے نباشد مر ترا	تا بدلاں را ہے نباشد مر ترا
من حسودم از حسد کردم چنین	من عدوم کار من مکرست و کین

(۵) استقامت اور خاتمہ بالخیر کے متعلق اکثر پنجابی کا یہ شعر پڑھتے۔

گھڑے بھرن پہا ریاں گھڑے رنگ رنگ  
بھریا وہ دا جانے جہا توڑ چڑھے  
(ترجمہ) پانی بھرنے والی عورتیں رنگ رنگ کے گھڑے بھرتی ہیں اس کا گھڑا بھرا ہوا جانے



چاہئے جو اس کو صحیح سالم منزل تک لیجائے یعنی سالکین راہِ طریقت اپنے لطائف کے گھڑوں میں رنگ رنگ کے اتوار ذکر الہی سے بھرتے ہیں بہت سے ان میں سے راستہ ہی میں توڑ دیتے ہیں اور ذکر و اشغال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمام باطنی دولت کو ضائع کر دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اخیر عمر تک ان کی حفاظت کرتے ہیں اور موت کی منزل تک ان کو صحیح سالم لیجالتے اور برابر اعمالِ صالحہ اور اذکار و اشغال میں مصروف رہتے ہیں حتیٰ کہ منزلِ مقصود یعنی **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** (ای الموت) کو پہنچ جاتے ہیں۔ دراصل بھرنے والے تو یہی ہیں اور کما قال **وَاللّٰهُ اعْلَمُ** آپ سے بہت سی حکایات اور تشریحاتِ مسائلِ تصوف سنی گئی ہیں مگر جو کچھ طوالت اسی پر اکتفا کیا جانا ہے۔

## حُسنِ سلوک

از مولانا گویا نومی صاحب | (۱) ایک دوست ہمیشہ اپنے خطوط میں تخریر کیا کرتے تھے کہ دعا فرمائیں۔ آپ نے جواب میں تخریر فرمایا کہ یہ عاجز ہمیشہ جماعت کے لئے بلا مانعہ دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جماعت کو نفس و شیطان کے پوشیدہ پھندوں سے محفوظ فرمائے نیز دعا بھی تہجد کے وقت کرنا ہوں۔ میرا اور معمول خواہ کچھ ترک ہو جائے مگر جماعت کے حق میں دعا ترک نہیں کرتا۔

(۲) ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بندہ حضرت کے ہمراہ سفر میں تھا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دستور تھا کہ اپنی رقم کرایہ وغیرہ کے لئے اپنے کسی رفیقِ سفر کے حوالہ کر دیتے تھے خنانچہ آپ نے جو رقم اس عاجز کے حوالہ کی بندہ سے غلطی یہ ہوئی کہ اپنی رقم کے ساتھ

اسے خلط ملط کر دیا۔ جب سفر ختم ہوا اور حضرت اپنے وطن واپس ہونے لگے تو فرمایا مولوی صاحب میری رقم کا حساب کر کے مجھے دیدو اور اپنی رقم اپنے پاس رکھ لو۔ بندہ کے سمجھ میں حساب نہ آیا اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میری رقم کتنی ہے اور حضرت کی کتنی، سہو ہو گیا اور ایک حیرانی سی ہوئی۔ جب مخدوم العالم صاحب نے میری پریشانی دیکھی تو فرمایا، مولوی صاحب کیوں پریشان ہوتے ہو میرا اور آپ کا معاملہ تو ایک ہے اس میں کوئی فرق کی بات نہیں۔ آپ مجھے (اپنے حساب سے) تھوڑے پیسے دیدیں اور آپ زیادہ لے لیں چنانچہ حضرت نے خود تھوڑی رقم لی اور مجھے زیادہ عنایت فرمائی (سبحان اللہ کیا شان تھی)۔

(۳) ایک دفعہ بندہ اپنی پہلی اہلیہ کو لیکر احمد پور شرقیہ آیا ہوا تھا اہلیہ مرحومہ کو حضرت صاحب سے از حد محبت تھی اس نے اپنا تمام زیور نکال کر حضرت کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور کہا کہ خدا کے واسطے اس کو قبول فرمائیے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ بیٹی مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے مجھے کچھ ضرورت نہیں اہلیہ نے کہا کہ یہ زیور خاص میرا ہے مولوی صاحب کا اس میں کچھ حصہ نہیں آپ قبول فرمائیں ورنہ اس خادمہ کو روکے ہوگا۔ حضرت نے اس کی دلجوئی کے لئے یہ زیور رکھ لیا بعدہ جب ہم احمد پور شرقیہ کے قیام کے بعد واپس جانے لگے تو اس بندہ کو حضرت صاحب نے فرمایا مولوی صاحب تمہاری اہلیہ نے محبت کے جوش میں اپنا تمام زیور مجھے دیدیا ہے اب واپس کرنا ہوں تو وہ ناراض ہوتی ہے۔ میں یہ تم کو دیتا ہوں جب اپنے وطن پہنچو تو یہ اس کو دیدینا اور اس کو یہ کہہ دینا کہ تمہارے پیر نے یہ نہایت خوشی سے قبول فرما کر واپس فرما دیا ہے اس وقت بندہ کی زبان سے یہ نکلا کہ حضور اس میں سے آدھا قبول فرمائیں اور آدھا یہ عاجز اپنے سامان میں رکھ لیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں یہ سارا اس کو دیدینا۔

جماعت کے کسی آدمی سے فرمایا کہ مولوی صاحب کی مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے اور ان کی اہلیہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا مال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدھا مال دیا یہ واقعہ کتب احادیث میں وارد اور مشہور ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی واقعہ کے بیان میں فرمایا ہے

پروانہ کو چراغ ہی بلب کو بھول بس صدیق کیلئے خدا کا رسول بس

جب حضرت کی یہ بات سنی تو عاجز کو بہت شرم آئی۔ سبحان اللہ کیا شان تھی۔

(۴) ایک دفعہ ایک آدمی اپنی شیرخوار خور دس سالہ بچی کو حضرت کی خدمت میں لایا اور عرض کیا کہ حضرت اسے دم کریں۔ وہ بالکل رو دھ پینے والی ہی بچی تھی۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے اسے دم کیا۔ کسی نے کہا "حضور اس سے تو پردہ نہیں یہ تو بالکل شیرخوار بچی ہے اسے آنکھیں بند کر کے کیوں دم کیا؟" فرمایا "شرعی پردہ تو اس سے نہیں ہے لیکن یہ تقویٰ ہے نہ کہ فتویٰ۔"

(۵) ایک دفعہ عورتوں کا مجمع جمع تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے جو بالکل ہی ضعیف تھی آنکھوں اور دانتوں سے بھی معذور تھی پردہ کے پیچھے سے کہا حضور مجھے آپ سے لہی محبت ہے اور اللہ کے واسطے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا "بوڑھی ہو یا جوان غیر مرد کو دیکھنا یا اس کے سامنے آنا از روئے شریعت منع ہے" وہ رو پڑی۔ آپ نے فرمایا "رونے کی کوئی بات نہیں ایک آسان سا طریقہ تمہیں بنانا ہوں کہ رات کو میری بتائی ہوئی تسبیحات دو گنی چو گنی پڑھ لو اور اللہ سے التجا کرو کہ خداوند! خواب میں مجھے میرے پیر صاحب کو دکھا دے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور خواب میں زیارت ہو گئی۔"

(از مولانا عبدالحلیم صاحب پانی پتی) (۶) میرے احمد پور شرقیہ کے دوران قیام میں حضرت نے مجھے ارشاد الطالین وغیرہ کا درس دیا تھا۔ اولاً جب درس کے لئے مجھے مکان کے اوپر لے گئے تو بالائی کمرہ کی چارپائی باہر تھی اور اس پر ایک سادہ بستر تھا آپ نے بستر الپیٹ کر اٹھالیا اور فرمایا تم چارپائی اٹھالو حسب الحکم ایسا ہی کیا دوسرے روز بستر مجھے دیا اور چارپائی آپ نے خود اٹھائی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ بستر اٹھالیں میں چارپائی لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ آج چارپائی کا میرا نمبر ہے کل تمہارا تھا۔ علی ہذا القیاس ایک مہینہ تک یہی ترتیب جاری رہی۔

(۷) ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گوہانہ سے بڑوتہ جانے کا قصد فرمایا درمیانی مسافت دوڑھائی میل تھی۔ چار شستوں کی ایک بیل گاڑی لائی گئی جس میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا گوہانوی، حکیم منصب علی اور یہ فقیر سوار ہو گئے چونکہ رفقائے سفر کی تعداد (آپ کے علاوہ) سات تھی اس لئے چار ساتھی پیادہ پا چلے ایک سوا میل پہنچ کر آپ نے پیدل چلنے کے لئے فرمایا اور اتر گئے اور فرمایا کہ اب پیادہ ساتھیوں کا حق ہے۔ عرض کیا کہ آپ تو تشریف رکھیں آپ کو تو بخار ہے۔ فرمانے لگے کہ قیامت کے روز جب اس کے متعلق سوال ہوگا تو جواب دوں گا۔ غرض کچھ انتظار کے بعد وہ ساتھی آگئے (کیونکہ وہ پیدل ہونے وجہ سے ذرا پیچھے رہ گئے تھے) آپ نے ان کو سوار کیا اور باقی مسافت ہم خدام کے ساتھ پیدل طے فرمائی۔

(از صاحبزادہ مولانا محمد صادق صاحب) آپ اکثر آیہ "لَا تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" تلاوت فرمایا۔

ایک دفعہ آپ کو خیال آیا کہ اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ آپ کچھ اراضی کے مالک تھے آپ نے اپنی زمینوں میں سے محبوب زمین کا خیال فرمایا تو شہر کے قریب ایک کنواں ہے جو بباکھی والا کنواں کے نام سے مشہور ہے اس پر آپ کی جس قدر اراضی تھی اپنے پر صاحب حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ محمد فضل علی شاہ صاحب کو ہبہ کر دی چنانچہ آج تک ان کے خاندان میں بطور وراثت چلی آتی ہے اس کا کچھ حصہ خواجہ غریب نواز قدس سرہ کے لشکر میں کام آتا ہے۔

اس کے علاوہ پچیس بیگھے زمین مادی شاہ والے کی آپ کی وصیت کے مطابق وراثت خیرات میں لگائی جس کی کچھ آمدنی آپ کے پر صاحب کے لنگر کو جاتی ہے اور کچھ احمد پور شرقیہ کی مساجد اور مقابر کے لئے خرچ ہوتی ہے۔ آپ باوجودیکہ امیر نہ تھے مگر دل کے نہایت غنی تھے (ان الغنا غنی النفس) اور بے دریغ روپے پیسے اور کپڑے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم فرماتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چمڑے کا ایک بکس (سوٹ کیس) خرید فرما کر لائے، کچھ دن گزرے کہ ایک درویش ملنے کے لئے آیا آپ نے وہ بکس (سوٹ کیس) اسے بخش دیا۔ کبھی گھر میں زائد از ضرورت شے نہیں رکھتے تھے جو چیز

لے حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ابو طلحہؓ مدینہ کے نصاریٰ کھجوروں کے اعتبار سے بہت مالدار تھے (ان قال) پس جب یہ آیت اتری لن ننالوا البر الا یہ۔ تو ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! بیشک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "ہر زبہ پاؤ گے نیکی کو" الا یہ۔ اور تحقیق میرے مال میں مجھے بے حیا بہت محبوب ہے اور تحقیق وہ صدقہ ہے واسطے اللہ کے، امید رکھتا ہوں اس کی نیکی کی اور امیدوار ہوں اس کے اللہ کے نزدیک ذخیرہ رکھنے کا، پس لے اللہ کے رسول آپ اس کو جہاں مناسب سمجھیں رکھیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش شاباش یہ مال نفع دینے والا ہے اور تحقیق جو تو نے کہا میں نے سنا اور میں مناسب جانتا ہوں کہ تقسیم کر دے اسے قرابت داروں میں۔ ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ! ایسا ہی کروں گا۔ پھر ابو طلحہ نے اس بارے میں حیا کو اپنے قرابت داروں میں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کیا۔ متفق علیہ از مشکوٰۃ تشریف باب ما حصل من

ضرورت سے زائد دیکھتے تو رائے خیرات کر دیتے۔ دروازہ پر ایک فقیر سائل آیا، والدہ  
محترمہ (آپ کی اہلیہ صاحبہ) نے اپنے کانوں کی بالی جو سونے کی تھی کانوں سے اتار کر  
پھینک دی کہ فقیر اسے لیجاؤ اور کام میں لاؤ۔ (یہ بھی حضرت کی صحبت اور ان کی سعادت  
کی برکت تھی) گھر کا اثاثہ اتنا ہوتا کہ جس سے کام چل جائے۔ بعض دفعہ آپ بھوکے  
رہتے اور اپنی روٹی مسافر کو دیریتے۔ **يُوْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَّلَوْ كَانَتْ بِهِنَّ خَصَامَةٌ**  
پر پورا پورا عمل تھا۔

ہمارے محلہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت مولوی محمد منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ  
وصال فرما گئے ہیں وہ بھی بڑے حضرت کے خلیفہ تھے ان کا بیان ہے کہ میں درزی کا کام  
کرتا تھا بعض دفعہ سلائی کا کام کم آتا، سارا دن بیکار سا بیٹھا رہتا تو حضرت قریشی صاحب  
(قدس سرہ) میرے پاس بازار میں میری چھوٹی سی دکان پر تشریف لاتے اور پوچھتے کہ  
آج کیسا گذرا جب ان کے سامنے یہ ذکر ہوتا کہ کام آج نہیں ملا تو آپ اپنی جیب سے  
چھپا کر ایک روپیہ نکالتے اور میرے حوالے فرماتے، اسی ایک روپیہ سے میرے تین چار  
دن کا بخوبی گزارہ ہو جاتا کیونکہ اس زمانہ میں بکری کا گوشت ڈیڑھ آنہ کا ایک پاء  
ملا تھا۔

اسی محلہ میں ایک اور درویش سوہن جلوہ تیار کر کے گذرا اوقات فرماتے۔  
رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اس کو آپ اپنے ہمراہ اعتکاف میں بٹھاتے اور اس کو  
روٹی اپنے گھر سے دیتے اور اس کے گھر کا خرچہ بھی دیتے۔ اعتکاف سے فراغت کے بعد  
اس کی اتنی خدمت فرماتے کہ ایک ماہ تک وہ بغیر کاروبار گھر بیٹھے گذرا اوقات کرتا تھا  
غریب و فقرا میں کھانا تقسیم فرماتا آپ کا شیوہ تھا بعض اوقات سنت ابراہیمی کی

پیروی کرنے ہوئے کسی غریب کو ہمراہ لا کر کھانا کھلاتے، ہاتھ دھلاتے اور اس کا پس خوردہ تبرک سمجھ کر خود کھاتے۔ گھر میں مٹی کے برتن استعمال فرماتے۔ پلیٹوں میں آپ کو کھانا مرغوب نہ تھا۔ کبھی بیگ یعنی تھیلا استعمال نہیں فرمایا بلکہ تکیہ کے غلاف میں کپڑے بھر لیتے۔ جب ضرورت ہوئی اس میں سے کپڑے نکال کر پہن لئے اور باقی کپڑے اس میں رکھے رہتے۔ اسی سے سرہانے کا کام بھی لیتے اور کبس کا بھی وہ بظاہر ٹھیلاتا تھا لیکن سرہانے کا کام بھی دیتا تھا کیا اچھی ترکیب نکال رکھی تھی کہ ایک پنتھ دو کاج۔

**لنگر** (روٹ) حضرت صاحب کالنگر عام تھا آپ کے دروازہ پر جو آگیا روٹی سے خالی نہیں گیا عام مسافر بھی یہاں آ کر روٹی کھاتے تھے واقف ہوں یا ناواقف زائر ہوں یا محض اجنبی آپ سب کو کھانا کھلاتے تھے۔ ایک روز کسی نے عرض کیا حضور تمام درویشوں کا یہی قاعدہ چلا آتا ہے کہ محنت و مشقت کر کر ذکر بتلاتے ہیں اور درویش بنانے میں مگر حضور کے ہاں نہ کام ہے نہ کاج مفت میں فیض ملتا ہے حضرت نے فرمایا بات یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان درویشوں کو جس طرح ملا وہ اسی طرح آگے دیتے ہیں چونکہ انہوں نے خود محنتیں اٹھا کر فقیری لی تھی اس لئے وہ آگے بھی اسی طرح دیتے رہے ہیں اور ہم پر چونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل رہا ہے تو ہم آگے بھی اسی طرح بلا محنت و مشقت درویشوں کو دینا چاہتے ہیں۔

**مہمان نوازی** جناب صوفی علی نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عاجز مؤلف کو سنایا تھا کہ وہ ایک دفعہ احمد پور شرقیہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گرمی کا موسم تھا رات کو حضرت نے مکان کی چھت پر لیٹنے کا انتظام فرمایا چونکہ صوفی صاحب موصوف سفر کے تھکے ماندے تھے جلدی لیٹتے ہی سو گئے حضرت والا نے خیال فرمایا کہ گرمی زیادہ اور ہوا بند ہے شاید اللہ کے اس مہمان کو اچھی طرح

نیندہ آئے اور قیامت کے روز تجھ سے اس کے متعلق سوال ہو چنانچہ نیکھالے کر اوپر  
 رہے پاؤں تشریف لائے اور قریب بیٹھ کر تمام رات صوفی صاحب کو نیکھا کرتے رہے  
 اور وہ تمام رات خوب بے خبر ہوتے رہے صبح جب تہجد کے لئے اٹھنے کا وقت قریب ہو  
 تو آپ نیچے تشریف لے گئے اور نماز تہجد وغیرہ میں مشغول ہو گئے۔ دن میں جب حال  
 احوال دریافت فرمانے لگے تو پوچھا کہ صوفی صاحب رات کو گرمی تو نہیں لگی۔ صوفی صاحب  
 نے عرض کیا حضرت مجھے تو رات خوب ہوا لگتی رہی اور خوب نیند آئی کہ پتہ بھی نہ چلا۔ آپ  
 یہ سن کر خاموش رہے۔ غرض آپ نے مہمان نوازی کا اس درجہ حق ادا کیا کہ آپ نے سارے  
 رات جاگ کر نیکھا کر کے مہمان کو سلا یا۔ صوفی صاحب کو غالباً صاحبزادہ صاحب پتہ چلا  
 کہ رات والد صاحب آپ کو نیکھا کرتے رہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(از سید مبارک علی شاہ صاحب) ایک دفعہ عاجز دولت خانہ پر حاضر ہو  
 دسمبر کا مہینہ تھا فرلنے لگے کہ ہندوستان میں روضہ کے لئے گرم پانی کا رواج ہے  
 تہجد کے وقت گرم پانی کر لیا کرو۔ یہ فرما کر لکڑیاں اٹھا کر لائے اور کلہاڑی سے خود  
 انگلیٹھی کے مطابق کرنے لگے۔ عاجز نے اصرار کیا کہ بندہ خود کر لے گا فرمایا نہیں یہ میرا کام  
 پھر کھجور کی کچھ سوکھی شاخیں لائے کہ پہلے ان کو آگ لگا لیا کرو تاکہ آسانی سے موٹی لکڑی  
 میں لگ جائے۔

ہمانوں کو اکثر رخصت کے وقت اسٹیشن تک پہنچانے آتے اور فرط محبت میں  
 کے متعلق ہدایات فرماتے۔ شہر کے باہر کچھ دوز تک تو ضرور ہی تشریف لاتے اور پھر ہمان  
 کے اصرار پر واپس تشریف لیجاتے اور رخصت کے وقت ہمانوں کو ہدیے مرحمت فرماتے۔  
 جس ہمان کے آنے کی پہلے سے اطلاع ہو جاتی تو خود اسٹیشن پر لینے کے لئے تشریف



اصحابزادوں میں سے کسی کو یا بھائی عبدالرحیم صاحب وغیرہ کو بھیجتے۔ دورانِ قیام  
 میں بہانوں سے ان کی ضروریاتِ طبعی (سرمد۔ صابن۔ تیل وغیرہ) کے متعلق دریا  
 مارا کر ان کو دیتے اور ہر طرح سے ان کی خاطر داری اور آرام کا خیال رکھتے۔ ذاکرین  
 کے لئے الگ بیٹھنے کا خاص بندوبست فرماتے تھے۔

(از صوفی محمد احمد صاحب) ایک دفعہ گوہانہ میں سالانہ جلسہ پر حاضر ہونے  
 کیلئے دونوں خادموں (مرزا اسحاق بیگ و صوفی محمد احمد صاحبان) کو علی گڑھ اطلاع دی  
 گئی۔ تاریخِ معینہ پر دونوں گوہانہ میں زیارت کے لئے حاضر ہوئے۔ بہانوں کیلئے گائے کا  
 گوشت پکا تھا جس میں لوی دگھیا پڑی ہوئی تھی۔ ہمیں سالن اچھا نہ لگا جب سب احباب  
 کھانا کھا کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم بھی اٹھ گئے اور ہوٹل کی تلاش میں بازار کی طرف روانہ ہوئے  
 راستے میں ایک مسجد کے دروازے کے قریب کھڑے ہوئے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مولانا  
 محمد سعید صاحب گوہانوی بدظلمہ العالی جلد جلد تشریف لارہے ہیں دریافت فرمایا کہ  
 "علی گڑھ کے طالب علم آپ ہی ہیں" عرض کیا "جی ہاں" فرمایا "حضرت صاحب کھانا  
 کھانے کے لئے یاد فرما رہے ہیں" ہم نے بھوٹ کہہ دیا کہ ہم نے تو کھانا کھا لیا ہے۔ مولانا صاحب  
 فرمانے لگے "بھئی ہمارے ساتھ چلو جو کچھ کہنا ہے حضرت سے کہنا۔ خدمتِ اقدس میں حاضر  
 ہونے نہایت محبت سے دریافت فرمایا تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ فرمایا  
 "وہ تو فیروں کا کھانا تھا تم کالج کے طالب علم ہو غالباً تم کو پسند نہ آیا ہو گا کچھ دیر  
 بیٹھو تمہارے لئے قورمہ اور پلاؤ تیار کرایا ہے"۔ یہ فرما کر حضرت صاحب تشریف لیگے  
 تھوڑی دیر کے بعد فرمان کے مطابق نہایت لذیذ کھانا لایا گیا۔ دونوں نے خوب سیر  
 ہو کر کھایا۔ مرزا صاحب خاموشی سے کہنے لگے کہ بھئی ہوٹل تو چلتا ہی پڑے گا کیونکہ

بغیر جائے کے گزارہ شکل ہے۔ یہ الفاظ ابھی ختم ہی ہوئے تھے کہ حضرت صاحب جلد شریف لائے اور فرمانے لگے کہ کہیں جانا مت۔ چائے ابھی تمہارے لئے تیار ہو جاتی ہے یا زاری کھانے سے قلب پر سیاہی آجاتی ہے۔ غرض چائے بھی آگئی۔ اس روز ہم دونوں بہت شرم ہوئے (اس واقعہ سے آپ کے کشف کا بھی اظہار ہوتا ہے)۔

الحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ فِي الْبَشَرِ ہمارے حضرت صاحب قدس سرہ العزیز ورحمۃ اللہ علیہ اور مربع الفی تھے آپ کو دیر میں

یعنی بہت ہی کم مواقع میں غصہ آتا تھا اور پھر جلدی ہی اُتر جاتا تھا اور وہ بھی شریعت مقدسہ کے معاملے میں ہی غصہ آتا تھا پھر جو ہی معذرت پیش کی جاتی تو فوراً معاف بھی کر دیتے تھے اور اس طرح ہو جاتے تھے گویا کہ غصہ آیا ہی نہیں تھا۔ کسی سے غصہ یا محبت کرنے میں حدودِ شرعیہ سے تجاوز نہیں ہوتا تھا اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی کے لئے ہوتا تھا کہ حدیث شریف میں آیا ہے: "عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ فِي اللَّهِ" راہ ابوداؤد (یعنی اعمالِ باطنی میں سب سے بہتر خدا کی راہ میں دوستی رکھنا اور خدا کی راہ میں دشمنی رکھنا ہے) دیگر عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَابْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ رِوَاہ ابوداؤد (یعنی جو شخص اللہ کے لئے محبت رکھے اور اللہ کے لئے دشمنی رکھے اور اللہ کے لئے دے اور اللہ کے لئے منع کرے (یعنی ہر کام رضائے الہی کے لئے کرے) پس تحقیق اس نے ایمان کی تکمیل کی۔

ہمارے حضرت صاحب کا غصہ بھی مریدوں اور احباب کی اصلاح کیلئے ہوتا ہے

وردہ بھی دو ایک دفعہ سے زیادہ دیکھنے کا موقع اس عاجز مولف کو پیش نہیں آیا ویسے  
 حض غلطیوں پر معمولی لہجہ میں تغیر آجانا اور سمجھانے اور ہدایت فرمانے کے بعد رفع ہو جانا  
 وریات ہے۔ حضرت ہمیشہ نہایت نرمی اور محبت کے انداز میں سمجھا دیتے اور متنبہ  
 یاد دیتے تھے۔ واللہ اعلم۔

کل (از صاحبزادہ مولانا محمد صادق صاحب) آپ کا توکل اس درجہ کا تھا کہ کبھی  
 آپ نے کل (آئندہ) کا فکر نہیں فرمایا بلکہ فرماتے رہتے تھے کہ توکل والے  
 فیروں کو نہ زبان سے سوال کرنا چاہئے اور نہ سوال کی صورت بتانی چاہئے۔ اور سوالی  
 نے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کہیں سے کپڑا پھاڑ لیا یا جوتی ٹوٹی ہوئی پہن لی اور غریب  
 سی خستہ صورت بنالی تاکہ لوگ محتاج سمجھ کر دیدیں، یہ سب توکل کے خلاف ہے اور  
 تیری کو بچپل ہے، بلکہ اپنے آپ کو چھپائے رکھے تاکہ کسی پر فقیری کا راز ظاہر نہ ہو  
 حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اکثر لوگ آیا کرتے تھے اور یہ گمان کرتے کہ  
 آپ کے پاس کیمیا کا نسخہ ہے کیونکہ انہیں بظاہر آمدنی کے کوئی معقول ذرائع معلوم  
 تھے حالانکہ آپ کا گذارہ زمیندارہ کی آمدنی پر تھا جس کے لئے خود محنت و مشقت  
 پاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی توکل علی اللہ حاصل تھا جو تسکین قلب کا موجب

وجہا تھا بقول اقبال مرحوم

عام گفتگو کیلئے اگر میں کیمیا گر ہوں یہی سوزِ نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے

عام لوگوں کو خطرات اور پریشانی لاحق ہوتی ہے جو انہیں بہت کمالنے کے باوجود  
 ہی رہتی ہے مگر آپ کو کمال درجہ کی طمانیت حاصل تھی جسے دیکھ کر لوگ ایسا غلط گمان  
 لیتے کہ یہ کیمیا گر ہے۔ اول اول بیشک توکل کرنے والوں پر سختیاں گذرتی ہیں مگر جب

توکل میں سچتہ ہو جاتا ہے تو نفعِ عظیم ہوتا ہے (واشدا علم بالصواب)۔

(از حاجی محمد شفیع صاحب) ایک مرتبہ مزارعین گندم وغیرہ بانٹ رہے تھے آپ بھی بٹائی کے لئے وہاں تشریف لے گئے اور مراقبہ میں بیٹھ گئے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ تو غفلت میں ہیں اس لئے کچھ گندم چرا لے اور برابر کا حصہ نہ دیا۔ حضرت اس حالت میں بیٹھے رہے اور توکل پر خدا جو کچھ بلا صبر و شکر کے ساتھ لے لیا۔

(از صاحبزادہ مولانا محمد صادق صاحب) ایک روز کسی نے آپ سے **اخلاص** کیا حضور نماز میں اخلاص کیا چاہئے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ رسول

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اخلاص کے یہ معنی ہیں کہ نماز میں یہ خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہم دیکھ رہے ہیں اگر یہ نہ ہو تو اتنا ضرور خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے (ذکرہ)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِحْسَانَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّ يَرَاكَ الْحَدِيثُ أَدْمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) پھر اس نے عرض کیا کہ یہ بات کس طرح سیر ہوتی ہے۔ فرمایا یہ بات اللہ تعالیٰ کی حضوری سے سیر ہوتی ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل ہوگی تو یہ خیال سچتہ ہو جائے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس طرح خشوع و خضوع نصیب ہوگا۔

خَشَعَ يَدَيْهِ فَقَدْ نَالَ مَنَالًا۔

(از مولانا گوہانوی) ایک روز فرمایا مولوی صاحب بفضلہ تعالیٰ بندہ کو آج تک

زنگبر کا خیال تک نہیں آیا اور نہ یہ خیال آیا ہے کہ میں پیر ہوں اور یہ میرے مرید ہیں (ولہ) ایک روز فرمایا کہ میں رات کے بعد اپنے شہر احمد پور شرقیہ میں کچھ

زیر خریدنے کیلئے گیا کیونکہ اس وقت کوئی سودا لانے والا موجود نہ تھا اہل شہر

کو دیکھ کر کہا: شاہ صاحب! ہم نے تو یہ خیال کیا تھا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں حضرت نے فرمایا  
ت ہوئی میں تمہاری جانب سے فوت ہو چکا ہوں تمہارا خیال درست ہے۔  
رازمولانا عبدالحلیم صاحب) کیتھل کالگری کا خراد کیا ہوا سامان بہت مشہور تھا  
میں شمار ہوتا تھا اور دور دور جاتا تھا۔ جب آپ کیتھل تشریف لائے تو میں نے  
نے ایک دوست کے ہاتھ کچھ سامان منگا یا لیکن جب حضرت کو اس میں سے بہترین سامان  
خانے کی کوشش کی تو ارشاد فرمایا کہ ”مولوی صاحب! میری طبیعت تو آخرت کے سامان  
سے خوش ہوتی ہے اس سے نہیں۔“

**سليم ورضا** | آپ اللہ کی رضا میں راضی رہتے اور تمام امور میں تسلیم و تفویض پر  
کار بند رہتے کبھی زبانہ کی کسی قسم کی سختی و تکلیف کا شکوہ نہیں کیا  
درادعیہ مستونہ کا ورد اپنے اپنے موقع و محل کے لحاظ سے فرماتے رہتے تھے۔ اگر کوئی  
مکر وہ اور غیر مطبوع پیش آنا یا کوئی سختی یا تکلیف اٹھانی پڑتی تو نہایت متانت سے  
رداشت کرتے اور کوئی ناخوشگوار کلمہ زبان سے نہ نکالتے بلکہ یہ دعا پڑھتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ  
عَلٰی کُلِّ حَالٍ اور بعض دفعہ وَنَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ بھی اضافہ فرماتے  
وَاللّٰہُ اَعْلَمُ انعامات الہیہ اور خوشی کے وقت اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ یَا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی اِنْعَامِہِ و  
اِحْسَانِہِ پڑھتے۔ یہ شعر بھی ورد زبان ہوتا ہے

اے خدا قربانِ احسانت شوم

ایں چہ احسان است قربانت شوم

خطوط میں بھی اپنی بیماری و تکالیف وغیرہ کا حال بہت کم تحریر فرماتے اور اس میں بھی  
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ ضرور تحریر فرماتے تھے (واللہ اعلم بالصواب)

آپ کی عادت مبارک ہمیشہ لمبے مراقبے کی تھی۔ ایک دفعہ یہ عاجز عصر کی منہ  
 پڑھا کر گھر چلا گیا اور حضرت والا عصر کی نماز کے بعد مسجد کے حجرہ میں مراقبہ میں بیٹھ گئے۔  
 عاجز بھی گھر سے فارغ ہو کر حضرت والا کے ساتھ مراقبہ میں بیٹھ گیا۔ مغرب کے قریب  
 حضرت مراقبہ سے فارغ ہوئے اور فرمایا "مولوی صاحب! مجھے کسی زہریلی چیز نے کاٹ  
 لیا ہے" وقت تنگ تھا۔ مغرب کے وقت کے لئے اٹھے تو کھڑے ہوتے ہی چکر اکر گر گئے۔ عیا  
 رونے لگا۔ جب حضرت کو اٹھایا تو فرمایا "جلدی مجھے وضو کراؤ"۔ یہ کہہ کر پھر گر گئے۔ ب  
 نے ادھر ادھر تلاش کیا کوئی چیز نظر نہ آئی۔ البتہ ایک موٹی زنبور (کالی بھڑ) پھر رہ  
 تھی جس نے حضرت کو تقریباً سات جگہ کاٹا تھا اس کو بارہ اتنے میں آپ ہوش میں آئے۔  
 اور بالکل تندرست آدمی کی طرح وضو فرمایا۔ مغرب کے تین فرض ادا کرنے کے بعد  
 جب دو سنت مویکہ کھڑے ہو کر استقلال کے ساتھ پڑھ چکے تو اس کے بعد پھر بیوی  
 ہو گئے اور بہت دیر کے بعد ہوش آیا۔ بدن چونکہ بہت نازک تھا تقریباً ایک ہفتہ تک  
 یہ تکلیف رہی مگر کسی قسم کی شکایت نہیں کی۔

ایک دفعہ ارشاد فرمایا "مولوی صاحب مجھے دردِ گردہ شروع ہو گیا ہے تو  
 میں پانی گرم کر کے لاؤ" اللہ والی (میری اہلیہ) نے پانی گرم کیا۔ اس پانی کو عاجز نے پ  
 میں ڈال کر اور ڈاٹ لگا کر کپڑے کی کسی تہوں سے پکڑ کر حضرت صاحب کے پاس ل  
 آپ نے اپنا کرتہ مبارک اٹھا کر ننگے پیٹ پر شانہ کے پاس ناف سے ذرا اوپر بوتل کو پ  
 پانی اتنا تیز گرم تھا کہ پیشاب کے راستہ سے چربی بگھل کر نکلی مگر اُن تک نہیں ک  
 اسی درد کی حالت میں آپ نے عشا کی نماز باجماعت ادا فرمائی اور بہت دیر تک  
 بھی فرمایا۔ اس عاجز نے عرض کی کہ حضرت آپ کو سخت تکلیف ہے مراقبہ مختصر ک

پہلے تھا۔ آپ نے فرمایا ”مولوی صاحب! یہ وقت آپ دوستوں کے ساتھ کب نصیب ہوتا ہے یہ تکلیفیں تو سب ختم ہو جائیں گی مگر یہ وقت نہیں ملے گا۔“  
 (از حاجی محمد شفیع صاحب) ایک دفعہ سردی کا موسم تھا۔ حاجی محمد شفیع صاحب حضرت کے ہاں حاضر ہوئے دیکھا کہ حضور بہت سخت بیمار ہیں چار پانی کٹی ہوئی ہے، یعنی پیشاب پاخانہ وغیرہ کے لئے جسم میں بہت لقاہت ہے۔ یہ دیکھ کر حاجی صاحب رو پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ حاجی صاحب روتے کیوں ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی رضائیں بہت خوش ہوں۔ راضی برضا رہنا ہی اصلی مقصد ہے۔ (واللہ اعلم)

دعا و تصرفات کمالات و کرامات | (از مولانا گوہار نوری صاحب)۔ (۱) حضرت مولانا مولوی عبدالرحیم صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ

کا بیان ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات پر میرا عقیدہ زیادہ ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز میں حدیث پڑھا رہا تھا ایک حدیث ایسی مشکل آئی کہ میں اس کا مطلب نہ سمجھا اور نہ کسی طالب علم کی سمجھ میں آیا۔ اسی شش و پنج میں بندہ کو کتاب پر ہی غنودگی آگئی تو حال میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں اور بندہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے اور عرض کیا کہ حضور میرے اس بچے عبدالرحیم کو اس حدیث کا مطلب نہیں آتا حضور اپنی زبان مبارک سے اس کو سمجھا دیں چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے اس حدیث کا مفہوم سمجھایا۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو جو مطلب سمجھایا گیا تھا طلبا کو نہایت آسانی سے سمجھا دیا۔ اس وقت سے میں حضرت صاحب (علیہ الرحمہ) کے کمالات کا بہت قائل ہو گیا۔

(۲) جب مولانا مولوی مفتی عبدالرحیم صاحب پانی پتی (رحمۃ اللہ علیہ) نے

حضرت علیہ الرحمہ سے بیعت ہوتے کا ارادہ کیا تو داخل سلسلہ ہونے سے قبل فرمایا کہ آپ میرے  
کو اس شرط پر بیعت کر لیں کہ آپ میرے متعلق کسی سے یہ نہ کہیں کہ مولوی عبد الرحیم میرے  
مرید ہو گئے ہیں کیونکہ بندہ کی پانی پت شہر میں شہرت بہت زیادہ ہے ہاں مجھے کچھ فائدہ  
ہو گیا تو خود بخود بیعت کا اظہار کر دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب! اس عاجز  
کی غرض صرف رضائے مولا ہے شہرت کی طلب نہیں اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو فائدہ  
تو اختیار ہے کہ بیعت کو ترک کر دیں۔ چنانچہ اس شرط پر بیعت فرمائی۔ بعدہ دوسرے  
خود بخود مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ میں مرید ہو گیا ہوں آپ لوگ بھی ان بزرگ  
فیض حاصل کریں چنانچہ بہت سے طالب علم داخل سلسلہ ہوئے۔

(۳) فرمایا ایک روز یہ عاجز ذکر کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک کواد دیوار  
بیٹھا ہوا نظر آیا عاجز کو خیال ہوا کہ کوئے کے بھی قلب ہوتا ہے چنانچہ عاجز نے اس کو  
کی طرف توجہ کی تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔

(۴) اصغر علی صاحب فرماتے ہیں مجھ پر ایک مقدمہ قائم ہو گیا تو حضرت والد  
ناراض ہوئے اور فرمایا تم نے کچھ غلطی کی ہے اس کے بعد مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت کو جو  
معلوم ہوا تو دعا فرمائی اور میں رہا ہو گیا۔

(۵) محمد یوسف صاحب گوہانہ والے کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ صاحبہ  
فرمایا کہ حضرت صاحب سے کہنا کہ ہم حضرت صاحب سے اللہ تعالیٰ کا نام سنا چلتے ہیں  
سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے بعد مراقبہ میں بیٹھ جائیں جب مراقبہ میں  
تو معلوم ہوا کہ حضور کی زبان مبارک سے اللہ اللہ کی آواز آرہی ہے۔

(۶) جب یہ عاجز حج بیت اللہ شریف سے واپس احمد پور شرقیہ پہنچا تو ان



پاکستان بن چکا تھا اور ہندوستان کے مسلمان ہندوؤں کے مظالم برداشت کرتے ہوئے  
 رقبہ وطن و ہجرت کر کے پاکستان میں آ رہے تھے بعض کو اسپیشل کاریوں کے راستے سے اور بعض  
 اقلوں کے ذریعہ سے پہنچ رہے تھے۔ ہندوؤں اور سکھوں وغیرہ کی طرف سے قتل و غارت  
 برپا تھا انقلاب کی وجہ سے دل میں اہل و عیال کی طرف سے نہایت بے چینی اور فکر و امانگیر  
 تھی کیونکہ وہ دو لاکھ کے قافلے کے ساتھ چار پانچ سو میل پیدل چل رہے تھے کبھی خیال آتا تھا  
 کہ لاہور جا کر کسی کیمپ میں تلاش کروں یا بھاؤل نگر سے کچھ معلومات کروں۔ اسی سٹش وینج  
 میں تھا کہ ایک دوست نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صاحب کی ملاقات ہوئی اور فرمایا  
 مولوی صاحب سے کہدو کہ اتنے پریشان کیوں ہیں جب چار ماہ عرب میں گزارے ہیں کم از کم  
 ایک ہفتہ تو احمد پور میں رہو۔ اس خبر کو سن کر کچھ مطمئن ہوا چنانچہ یہ واقعہ صبح ہوا کہ میں  
 بار (ہفتہ) کو احمد پور شرقیہ میں آیا تھا اور اگلے اتوار کو میرے اہل و عیال صبح سالم خیریت  
 کے ساتھ احمد پور شرقیہ آ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ سچ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی زندہ ہوتے ہیں  
 (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا أَلَا بَل)

(۷) ایک مرتبہ حضرت صاحب سرہند تشریف لے گئے۔ یہ عاجز (مولانا گوہانوی)  
 آپ کے ہمراہ تھا جب اسٹیشن سے اتر کر فرنگ گڑھ سے ذرا آگے پیدل پہنچے تو ایک بزرگ  
 تشریف لائے آگے بڑھ کر حضرت سے مصافحہ کیا اور سامان لینا چاہا آپ نے دینے سے انکار  
 کیا لیکن بزرگ نے کہا کہ حضرت مجدد صاحب نے عاجز کو بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ جاؤ  
 قطب سدر آ رہے ہیں ان کا استقبال کرو۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں وہ نہیں ہوں وہ کوئی  
 اور ہوگا۔ بزرگ نے فرمایا آپ ہی ہیں اور جو ولیہ مجھے بتایا ہے آپ کو اسی کے مطابق پاتا ہوں  
 اس کے بعد جب بھی وہ ملتے اسی طرح ادب کرتے رہے۔

(۸) صاحبزادہ مولانا محمد صادق صاحب سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ مسجد میں اخیر عشرہ رمضان المبارک کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور چچا صاحب (حضرت عزیز محمد قریشی صاحب) و عبداللہ خاں صاحب و حاجی فیض محمد صاحب وغیرہ بھی تھے۔ ستائیسویں شب کو تمام حاضرین کو شب قدر نظر آئی اور ایک دم تمام مسجد سفید بلاق و روشن ہو گئی۔ سب لوگ سجدہ میں گر گئے اور بخشش کی دعا مانگنے لگے۔ کافی لوگوں کو بلایا اور دکھایا سب نے دعائیں مانگیں۔

(۹) (از حاجی محمد شفیع صاحب) ایک مرتبہ حضرت اس عاجز کے مکان پر تشریف فرما تھے جماعت کے سب دوست اجاب بھی حاضر خدمت تھے حضرت صاحب نے مراقبہ اور توجہ دی۔ رستک کے ایک شخص شہاب الدین پر توجہ کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ جذبہ کی حالت میں اچھلنے کودنے لگا اس کے سر پر چوٹ آئی آخر اس کی حالت مرنے کے قریب ہو گئی۔ حضرت نے بہت دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا اور اس کی حالت ٹھیک ہو گئی۔

(۱۰) میرے بھائی غلام بسین کو جو اکھیلنے کی بہت عادت تھی میں نے دعا کے لئے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا دہلی بلالو چنانچہ اس کو دہلی بلالیا گیا حضرت صاحب نے اس کو کوئی نصیحت نہیں کی ایک رات اپنے پاس رکھا صبح کو فرمایا کہ اس کو رخصت کر دو۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب سے آج تک میرے بھائی میں کوئی بُری عادت نہیں رہی۔

(۱۱) مجھے بیعت سے پہلے گلی کوچے میں پیشاب کرنے میں کوئی حجاب نہ تھا۔ تہ بند گھٹنے سے لو پرتک چڑھا کر بیٹھ جاتا لیکن جب سے حضرت سے بیعت ہوا گلی کوچے میں عام جگہ پیشاب نہیں کیا اور جہاں پردہ کی جگہ پیشاب کے لئے بیٹھتا ہوں تو تہ بند کو اس طرح گھٹنے ڈھکے ہوئے اٹھاتا ہوں کہ ستر بے طریقہ نہیں کھلتا اور دیکھتے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا

حضرت کی توجہ شریف سے خود بخود اتباع سنت کی عادت ہو جاتی تھی۔

(۱۲) از سید مبارک علی شاہ صاحب (عاجز جس محکمہ میں ملازم تھا اس کی طرف سے تخفیف کا حکم آگیا اور میرا نام بھی تخفیف میں آگیا۔ عاجز اپنی کمزوری کی وجہ سے بہت پریشان ہوا۔ سوائے اس کے کہ اپنے پیر صاحب کو لکھوں اور کوئی چارہ نظر نہ آیا لہذا لکھا۔ حضرت نے جواب عنایت فرمایا کہ گھبراؤ نہیں تمہاری بابت تو پہلے سے دعا منظور ہو چکی ہے۔ عاجز کو فوراً طینان ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے تخفیف کے محکمہ نے عاجز کی ترقی منظور کر دی۔

(۱۳) ایک دفعہ غریب خانہ پر کھانا تناول فرما رہے تھے اور عاجز کے گھر میں امرڈ کا ایک پٹر تھا جس کی بابت عاجز بدگمان ہو چکا تھا کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے اب اس پر پھل نہیں آئے گا اور عاجز کی بیوی چونکہ عمر رسیدہ ہو چکی تھی اس نے ایک دفعہ امرود کی بابت اعتراض کیا کہ تمہاری قسمت میں تو اس کے پھل ہیں ہی نہیں۔ اس روز اتفاقاً ہی حضرت نے خود ہی دریافت فرمایا کہ اس کو امرود لگتے ہیں؟ عاجز نے وہی بیوی والے الفاظ دہرا دیے کہ یوں کہتی ہیں تمہاری قسمت میں تو اس کے پھل نہیں ہیں۔ حضرت نے تبسم فرمایا اور کہنے لگے کہ نہیں اس کو پھل آجائے گا لہذا دو چار دن کے بعد دیکھا تو کلیاں نمودار تھیں اس وقت یقین ہو گیا کہ یہ حضور کی دعا کی برکت ہے ورنہ یہ پٹر تو کسی سال پرانا تھا۔

(۱۴) خاکسار مؤلف کو اس طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ جناب صوفی علی نواز صاحب مرحوم نے سایا انھوں نے حضرت صاحب سے سنا کہ ایک دفعہ جب حضرت صاحب قدس سرہ حضرت مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ و قدس سرہ العزیز کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے تو حضرت مجدد صاحب سے روحانی ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا کہ رات کو ذمہ ناپی میں (روضہ کے اندر آجانا۔ عرض کیا کنڈی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ فرمایا آج آپ کیلئے کنڈی کھلی رہے گی

چنانچہ عشا کی نماز کے کافی دیر بعد جب سب لوگ مزار شریف سے واپس ہو چکے تو (فرمایا کہ) میں حاضر ہوا دیکھا کہ خادم ایک طرف لیٹا ہوا سو رہا ہے اور دروازہ کھلا ہوا ہے یہ عاجز اندر گیا تو حضرت مجدد صاحب قدس سرہ نے فرمایا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دو۔ چنانچہ اس عاجز نے ایسا ہی کیا اور بیٹھ گیا۔ اس کے بعد حضرت مجدد صاحب (مثالی جسم کے ساتھ) مزار شریف سے باہر تشریف لے آئے اور اس طرح تشریف فرما ہو گئے جیسے تم میرے سامنے بیٹھے ہو اور فرمایا کہ اب تو یہاں کوئی نہیں ہے اسلئے پردہ کی کیا ضرورت ہے چنانچہ رات بھر حضرت صاحب موصوف حضرت مجدد صاحب قدس سرہ کی خدمت میں حاضر رہے جب تہجد کیلئے لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہوا تو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا اب آپ چلے جائیں خادم اٹھنے والا ہے چنانچہ آپ رخصت ہو کر دروازہ کھول کر باہر آئے اس کے بعد خادم مزار شریف بیدار ہوا (واللہ اعلم بالصواب)

مثالی جسم میں بزرگوں کا نظر آتا علماء و صوفیاء کے نزدیک مسلم ہے اس کی تفصیل کتب فن میں موجود ہے۔ ہمارے حضرت صاحب کو نزول ارواح بکثرت ہوتا تھا بیٹھے بیٹھے بھی اور چلتے پھرتے بھی۔ اگرچہ آپ اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے لیکن آپ کے چہرہ اور دوسرے آثار سے اندازہ ہو جاتا تھا۔ کئی دفعہ جب کسی بزرگ کی روح مبارک سے کسی مرید کے متعلق کوئی ارشاد و ہدایت معلوم کیا تو اس کو تعلیم کے لئے الگ موقع پر فرمادیتے تھے۔ کئی دفعہ اس عاجز سے بھی ایسا فرمایا اور ایک مکتوب گرامی میں بھی تحریر فرمایا "امید ہے کہ امتحان جس کا آپ نے ذکر کیا تھا دے چکے ہوں گے اس کا نتیجہ اگر آگیا ہو تو اطلاع دیوں اور آئیں ایسے امتحان انگریزی کی ہرگز ہرگز تیاری نہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کو رزاق مطلق سمجھ کر امتحان خاتمہ بالخیر کی تیاری میں عمر چند روزہ گزاریں۔ یہ بات حسب فرمان پیر پیراں

حضرت خواجہ محمد باقی بائندہ تحریر کی گئی ہے۔

نیز ایک دفعہ دہلی میں حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد باقی بائندہ قدس سرہ کے مزار مبارک پر مراقبہ کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے راستہ میں اس عاجز سے تنہائی میں فرمایا کہ شاہ صاحب حضرت خواجہ صاحب قدس سرہ نے تمہارے متعلق فرمایا ہے کہ ان سے کہو یہ اکثر ہمارے پاس آیا کرے اب یہ کم آنے لگا ہے۔ کیا تم اب مزار پر کم حاضر ہوتے ہو عرض کیا کچھ کستی واقع ہوتی رہی ہے۔ فرمایا آنا جانا رکھا کرو اس سے بہت فائدہ ہوگا حضرت نے خود فرمایا ہے اس لئے تم سے کہا ہے۔ او کما قال واشر اعلم بالصواب۔

دہلی، پانی پت، کرنال وغیرہ مقامات پر جہاں بھی آپ تشریف لیجاتے وہاں کے اہل اللہ کے مزارات پر آپ ضرور تشریف لے جاتے اور مزارات پر حاضر ہونے کا طریقہ بالکل شرع تشریف کے مطابق ہونا کہ مسنون طریقہ پر سلام پڑھ کر صاحب مزار کی طرف متوجہ کر کے کھڑے ہو جاتے (پہلے قبلہ کی طرف ہوتی کیونکہ میت کا منہ قبلہ رخ ہوتا ہے) اگر ادھر جگہ نہ ہوتی تو جہر جگہ مل جاتی کھڑے ہو کر (ہاتھ لٹکے ہوئے) حسب توفیق قرآن پاک کی سورتیں پڑھ کر ایصالِ ثواب کرتے اور اگر فرصت اجازت دیتی تو پھر بیٹھ کر مراقبہ کرتے اور مراقبہ کے بعد دعائیں مانگ کر تشریف لیجاتے۔ مزارات پر جہاں آپ تشریف لیجاتے بکثرت کشفِ قبور ہوتا اور ان کی ارواح سے روحانی ملاقات حاصل ہوتی واشر اعلم۔ ہر جگہ کے عام مومنین کے قبرستان میں بھی تشریف لیجاتے اور اہل القبور کو سلام مسنون کے بعد ان کی ارواح کو حسب توفیق قرآن پاک کی سورتیں پڑھ کر ایصالِ ثواب کرتے کہ زیارتِ قبور مسنون ہے اور اس سے انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔

(۱۵) (ولہ) آپ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تحدیث کے لئے بعض حالات و

واردات کا ذکر فرمادیتے تھے۔ ایک روز فرمایا کہ یہ عاجز اکثر اپنے مکان کے بالا خانہ میں عصر سے مغرب تک ذکر اور مراقبہ کیا کرتا تھا۔ ایک روز محلہ کا ایک شخص بلا اور کہنے لگا شاہ صاحب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک آسمان سے آپ کے بالا خانہ تک نور کا ایک ستون نظر آتا رہتا ہے یہ کیا چیز ہے میں اکثر اس کو دیکھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہوتا ہوگا اور اب **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** کی تعمیل میں ظاہر کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ ذکر کی برکات سے تھا **ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ** (او کما قال)

(۱۶) (ولہ) ایک دفعہ (۱۹۳۷ء میں) آپ رہتک تشریف لائے جس مکان میں آپ کا قیام تھا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آپ قیلوہ فرما رہے تھے۔ آپ کے قریب ہی ایک چارپائی پر حاجی محمد شفیع صاحب اور اس کے متصل ہی دوسری چارپائی پر یہ عاجز مولف بیٹا ہوا تھا ایک حضرت صاحب نے ہم دونوں کو جگایا اور فرمایا مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سامنے کے چوبارے کی فلاں جگہ سے اشارہ کر کے فرمایا اینٹیں اس طرح سے نکل کر گر رہی ہیں اور پھر یہ چوبارہ اور صحن اور تمام دیوار اس طرح اس طرح گر رہی ہے اس لئے تمہیں اٹھایا ہے۔ اس وقت کوئی اتار کسی خطرے کے نہ تھے مگر اب کچھ ہو رہا تھا اور ابھی ظہر کی اذان میں ذرا دیر تھی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے اتنے میں بوندا باندی شروع ہوئی اور زور شور کی بارش ہونے لگی اور رفتہ رفتہ چوبارے کی اینٹیں نکلیں پھر دیوار گری اور صحن کی دیوار بھی گرنے لگی۔ چنانچہ جس طرح سے حضرت نے نفوڑی دیر پہلے ظاہر فرمایا تھا اسی طرح سے گزنا گیا اور صحن میں پانی رگ گیا۔ ہم لوگ حضرت صاحب کے ہمراہ مسجد میں چلے گئے۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت کو درد گردہ کی شکایت

شروع ہو گئی جو رفتہ رفتہ بڑھتی گئی۔ بارش بھی زور پکڑتی گئی اور شہر میں مکانات گرنے لگے تو حاجی محمد شفیع صاحب حاجی عبدالمجید صاحب اور دوسرے حاضرین کے مشورہ سے حضرت حاجی محمد شفیع صاحب کے مکان کے قریب کی مسجد کے حجرہ میں حضرت کا قیام کرایا تاکہ حاجی صاحب کے گھر کا قرب ہونے سے چیزوں کے لانے لیجانے اور تیمارداری میں سہولت ہو۔ غرضیکہ تمام رات اور اگلے روز بھی حضرت صاحب کو تکلیف بڑھتی گئی اور کوئی قائدہ نہ ہو۔ ادھر بارش کا زور ہوتا رہا اور مکانات گرتے رہے مگر اللہ کا فضل و کرم رہا کہ جانی نقصان سے لوگ محفوظ رہے۔ دوسری رات کو ایک ڈیرہ بجے کے قریب زلزلہ بھی آیا آخر حضرت صاحب کو کشفِ حال ہوا کہ یہ عذابِ الہی ہے تو بہ استغفار کریں اور دعائیں مانگیں اور زور زور سے اذانیں دیں چنانچہ آپ کے فرمانے کے مطابق ہم سب نے یکے بعد دیگرے زور زور سے اذانیں دینی شروع کیں دوسری مساجد سے بھی اذانوں کی آوازیں بلند ہوئیں، اکثر لوگ مسجدوں میں آکر گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرتے اور دعائیں مانگتے تھے، حضرت صاحب نے بھی دعائیں فرمائیں چنانچہ اللہ پاک نے فضل و کرم فرمایا ہوا زور شور سے چلنے لگی اور تمام بادلوں کو صبح تک اڑا کر مطلع صاف کر دیا اور سورج نکل آیا چنانچہ اس عاجز نے کپڑے دھو کر سکھائے حضرت صاحب کی صحت بھی ٹھیک ہوتی گئی اور بالکل آرام ہو گیا۔

چونکہ شہر کے تمام راستوں اور سڑکوں وغیرہ پر بکثرت پانی جمع ہو گیا تھا اس لئے غالباً دودن اور قیام کر کے تیسرے روز سبیل گاڑی (چھکڑا) پر چار پائی رکھ کر حضرت کو اس پر بٹھا کر اسٹیشن پر پہنچایا تب بھی اسٹیشن کی سڑک پر اتنا پانی تھا کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے پاؤں کو لگتا تھا۔ آپ اسٹیشن سے احمد پور شرقیہ (اسٹیشن ڈیرہ نواب) کے لئے

سوار ہو گئے اور یہ عاجز دہلی کو روانہ ہو گیا۔ یہ طوفانی بارش تقریباً ۳۶ گھنٹے تک رہی اور بہت جگہ ہوئی اور رہتک کے لئے تو یہ تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت صاحب کی دعا و کرامت سے اس مصیبت سے لوگوں کو نجات حاصل ہوئی۔

یہ عاجز جب دہلی پہنچا تو سیدھا اپنے مکان پر گیا خیال تھا کہ وہ بوسیدہ مکان ہے کہیں گرنہ گیا ہو جا کر دیکھا کہ ابھی صبح سالم کھڑا ہے لیکن گرنے کے قریب ہے چنانچہ اس عاجز نے تالا کھولا سامان نکالا جب سامان کا آخری پھیر الیکر آیا تو مکان دھڑام سے بیٹھ گیا۔ یہ سب حضرت کی کرامت تھی کہ سامان بچ گیا اور یہ عاجز بروقت پہنچ کر سامان کو باہر نکال لایا اور ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں رکھ کر مقفل کر دیا۔ دراصل یہ موسم چھٹیوں کا موقع تھا اور عجزاً اتفاقاً اس مکان کے خیال سے ادھر کو آ گیا تھا ورنہ بیدھا رہتک سے گھر چلا جاتا ہے

کار سازِ ما بفکرِ کارِ ما      فکرِ مادرِ کارِ ما آزارِ ما دوا شد  
ایک شخص جانِ محمد نامی موضعِ گاڑی ضلعِ رہتک کا رہنے والا جو بالکل  
ان پڑھ بہت موٹی زبان اور موٹے لب و لہجہ کا آدمی تھا حضرت سے داخلِ سلسلہ ہو  
اور ذکر کی برکت سے اس کو دین کی تعلیم کا شوق ہوا اس نے حضرت سے دعا کی درخواست  
کی حضرت نے اس کو پانی پت غالباً مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب پانی پتی کے واسطے  
سے کسی مدرسہ میں داخل کرادیا حضرت کی دعاؤں اور ذکر کی برکت سے اس نے بہت جلد  
قرآن شریف پڑھ لیا اور باوجود اس قدر سخت زبان ہونے کے تقوڑے ہی عرصہ میں پانی پت  
لہجہ میں اس قدر صاف اور صحیح قرآن شریف پڑھنے لگا کہ دیکھنے اور سننے والے حیران رہ گئے  
اور اکثر نادان لوگ اس کے چہرہ پر ذکر کے انوار کی برکت اور نورانیت دیکھ کر اس کو کچھ مٹوئی جیسا آپ نماز پڑھا



(۱۷) (از مولانا عبدالحلیم صاحب) بندہ فارغ التحصیل ہو کر تعلیم القرآن کی خدمت  
لے ۲۹ شعبان کو جب کیتھل پہنچا تو ستر روپے کا مقروض تھا میں نے حضرت صاحب  
خدمت میں اپنی تنگدستی کا عرضہ لکھا کہ عید پر گھر جانا ہے ستر روپے کا فرضہ سر پر ہے  
کی ادائیگی کے لئے دعا فرمائیں چنانچہ رمضان المبارک کی ۲۸ تک اللہ تعالیٰ نے ستر  
روپے دے دیئے اور بندہ گھر جا کر قرضہ سے سبکدوش ہوا۔

(۱۸) ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور پانی پت تشریف لائے میرے بڑے بھائی حضرت  
بلانا حافظ عبد الکریم صاحب کے چھوٹے صاحبزادہ سلیمان اچھی خاصی عمر تک گونگے  
ہے ان کے حق میں حضرت صاحب سے دعا کی درخواست کی گئی۔ آپ نے دعا فرمائی اور  
پینے کے لئے نقوش دیئے۔ الحمد للہ بچہ پونے لگا۔

(۱۹) ایک مرتبہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں ایک صاحب کے ہاں مقیم ہوا اس  
بیوی کو جن ستانے تھے انھوں نے حضرت صاحب کی چار پائی اس جگہ پچھادی جہاں  
جن اس کی بیوی کو ستانا تھا۔ جن حسب معمول آیا اور حضرت کے ایک پاؤں مبارک کا  
انگشت (انگوٹھا) پکڑ کر پانے لگا تو حضرت صاحب علیہ الرحمہ نے اپنا دوسرا  
مبارک اس جن کے ہاتھ پر مارا۔ حمہ کا۔ اساتھی کہنے لگا ان کو مت چھڑو یہ ڈاکر  
بے نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ کہہ کر دونوں جن چلے گئے اور پھر اس گھر میں کبھی نہ آئے، وہ  
صاحب خانہ حضرت صاحب کے بہت مرمون منت ہوئے۔

(۲۰) (از مستری شمس الدین صاحب اسماعیل آبادی) جب پانی پت میں حضرت کا  
صال ہو گیا اور فقیر کو اطلاع ہوئی تو فقیر بے حواس ہو گیا اور گریہ و زاری کی کچھ حد نہ رہی  
خرم قدم مبارک پر پہنچا اور حضرت کے مزار پر بیٹھا روتا رہا اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا

کہ جیسے کوئی زندہ موی توجہ دے رہا ہے جس سے باطنی ترقی بہت زیادہ ہوئی، واقعی اولیاءِ شریفہ زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت کے واسطے بحق ہونے کے بعد فقیر نے حضرت کی بڑی کرامت یہ دیکھی کہ جب حضرت صاحب کا تذکرہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مقدسہ کی بہت محبت ہو جاتی ہے اور ایک قسم کی رقت طاری ہو جاتی ہے، یہ حضرت کی کرامت تھی کہ آپ سے ہر آدمی محبت سے پیش آتا تھا چنانچہ کئی دفعہ جبکہ پھر بھارت ہوتی تھی آپ کا ٹکٹ ہندو اور سکھوں نے لیکر دیا ہے اور گاڑی میں لوگ آپ کو اچھی جگہ دیدیتے تھے۔

(۲۱) از عبد اللہ خاں صاحب احمد پوری) عاجز کو ایک روز خیال آیا کہ حضرت صاحب کے

مقام کیا ہے، خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضرت صاحب پر آسمان سے اتوار کی بارش ہو رہی ہے اتنے میں ایک بزرگ تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت صاحب قطبوں کے قطب ہیں۔

(۲۲) (از صوفی محمد احمد صاحب) مرزا صاحب کے ایف اے کے سالانہ امتحان میں

تاریخ اور منطق کے پرچے بہت خراب ہوئے اور پاس ہونے کی امید نہ رہی۔ حضرت صاحب کی خدمت اقدس میں دعا کے لئے عرض کیا۔ آپ نے تکرر فرمایا "دعا کی گئی ہے انشاء اللہ بہتری ہوگی مگر تمہارے لئے محنت کرنا فرض تھا آئندہ خیال رکھنا۔" جس کا نتیجہ نکلا یہ عاجز دیکھنے کے لئے گیا۔ تھوڑے کلاس میں پاس ہونے والے طلباء میں مرزا صاحب کا نام کہیں نہیں ملا اس لئے گمان ہوا کہ شاید ناکام ہو گئے ہیں لیکن اوپر دیکھتا ہوں تو سینکڑے کلاس والوں میں مرزا صاحب کا نام تھا۔

(۲۳) ۱۹۳۸ء کا ذکر ہے کہ حضرت رہتک تشریف لائے۔ قدمبوسی کیلئے حاضر

مسکرا کر فرمانے لگے "آؤ ماسٹر صاحب بیٹھو۔ تم نے بی اے پاس کر لیا ہے تم کو ماسٹر کہوں یا پو۔ میرے خیال میں تمہارے لئے ماسٹری اچھی رہے گی۔ عاجز نے عرض کیا حضور

ماسٹری کے لئے تو بی ٹی پاس کرنا ضروری ہے جس کے لئے ایک سال اور چاہئے فرمایا  
 کیا یہ قانون ہے کہ بی ٹی کرنے کے بعد ہی ماسٹر ہو سکتے ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا  
 بھائی! یہ قانون تو دنیا کے لوگوں کا بنایا ہوا ہے خدا کا قانون نہیں ہے۔ لہذا دنیا کا  
 بنایا ہوا قانون توڑا جاسکتا ہے خدا تم کو ماسٹری بنانے اسی میں مصلحت ہے مگر سر جبر کا  
 وقت ہوتا ہے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی چنانچہ ۱۶ جولائی ۱۹۳۱ء میں دہلی کے  
 پائی ٹیکنک ہائی اسکول میں بطور مدرس میرا تقرر ہوا اور وہاں کے پرنسپل مسٹر وڈ نے  
 اپنا نظریہ اس طرح ظاہر کیا کہ میں بی ٹی وغیرہ کو اہمیت نہیں دیتا بلکہ میں تو یہ  
 جانتا ہوں کہ جب کوئی امیدوار میرے کمرے میں قدم رکھتا ہے تو میں فوراً سمجھتا ہوں  
 لیتا ہوں کہ یہ استاد بننے کے قابل ہے یا نہیں۔

(۲۴) ایک روز مجلس اقدس میں حاضر تھا فرمایا "مرزا صاحب تو علی گڑھ میں  
 رہ گئے اور تم یہاں (دہلی) چلے آئے، نوں کی جدائی ٹھیک نہیں خدا کرے وہ بھی یہیں  
 لگ جائیں عرض کیا حضور یہ تو ناممکن ہے وہ تو بی ٹی کر چکے ہیں ان کا علی گڑھ میں ہی کہیں  
 تقرر ہو جائے گا دہلی میں آ نہیں سکتے۔ یہاں تو قومی سکول ہیں یا کمیٹی کے ہیں اور ان سکولوں  
 کے لئے دہلی کا باشندہ ہونا ضروری ہے۔ فرمایا اللہ مالک ہے۔ کچھ دن کے بعد کمیٹی کے  
 اسکولوں میں مدرسوں کی ضرورت پڑی مرزا صاحب نے بھی درخواست دی، ان کو بلا یا  
 گیا اور ان سے دہلی کا باشندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگا گیا، بفضلہ تعالیٰ ان کو حسب منشا  
 سرٹیفکیٹ مل گیا اور ان کا تقرر بھی ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد یہ عربک ہائی سکول دریا گنج میں  
 آگئے۔ اتفاق سے ٹیکنیکل ہائی سکول میں مدرس کی ایک جگہ نکلی وہاں ان کا تقرر ہو گیا  
 حضرت کی دعا سے دونوں ایک ہی سکول میں ہو گئے پھر پاکستان بننے پر دونوں نے

پاکستان جانے کے لئے رضامندی ظاہر کی۔ کراچی پہنچ کر دونوں جیکب لائن ہائی سکول میں کام کرنے لگے اور ایک ہی جگہ رہنے لگے۔ پھر اس عاجز کا تبادلہ مکان کے قریب کے سکول میں ہو گیا تو چند مہینے بعد مرزا صاحب کا تبادلہ بھی اسی سکول میں ہو گیا۔ یہ حضرت کی دعاؤں کی برکت و کرامت ہے۔

(۲۵) ایک مرتبہ تک میں یہ عاجز اپنے چھوٹے بھائی کے ہمراہ قدمبوسی کے لئے حاضر ہوا۔ دریافت فرمایا تمہارے چھوٹی بھائی کیا کرتے ہیں؟ عرض کیا "تویں جماعت میں پڑھتا ہے" فرمایا "کوئی ہنر کیوں نہیں سکھاتے تاکہ فائدہ مند ہو" عاجز نے عرض کیا حضور! اگر تعلیم چھڑا کر کوئی ہنر سکھایا تو جہاں اس کی شادی ہونا قرار پائی ہے وہاں شادی نہیں ہوگی دسویں جماعت پاس کرنا بہتر ہے۔ فرمایا حکم نہیں لگانا بلکہ راتے دینا ہوں ہونا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد دورانِ تعلیم میں ہی بھائی کی شادی ہو گئی دسویں جماعت میں فیل ہو گیا آخر کار صنعتی تعلیم حاصل کی اور اسی کی بدولت خوب روزی کمانی اور کماد ہا ہے یہ حضرت کی کرامت تھی کہ جو کچھ زبان مبارک سے نکل گیا وہ ہو کر رہا۔

(بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ "قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید" واللہ اعلم)

(۲۶) (از صاحبزادہ مولانا محمد صادق صاحب) حضرت کے پاس ایک طالب علم

ادام الدین رہتا تھا اس کو بڑے حضرت صاحب (اپنے پیر صاحب) سے بیعت کرایا تھا۔ حضرت صاحب جب اس کو اپنے پیر صاحب کے یہاں روانہ فرماتے تو جذب و محبت میں دن کے دن وہاں پہنچ جلتا حالانکہ دوسرے لوگ دو دن میں مشکل پہنچ سکتے تھے کیونکہ فاصلہ بہت تھا اور رات بھی چکر دار تھا۔

(۲۷) ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ رات کے وقت کنوئیں والی مسجد میں

نماز تہجد پڑھنے کے لئے گئے وہاں ایک عورت بھی رتنی ہے جو تہجد گزار عابدہ ہے وہ بھی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے گئی کیونکہ دیہاتی عورتیں گھر کے قریب والی مسجد میں نماز ادا کرتی ہیں۔ وہ اب بیان کرتی ہے کہ میں نے تمہارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد کے اندر دیکھا کہ ان کے جسم کے اجزاء الگ الگ ہو گئے ہیں۔ میں بڑی خوف زدہ ہو گئی، اسی وقت آپ اپنی اصلی حالت میں آگے اور فرمایا کہ تو مت ڈر۔ میں محمد سعید ہوں یہ میرا راز کسی کو نہ بتلانا میرے ایک جسم کے کئی اجزاء ہو جاتے ہیں، کتنی ہی دفعہ ایسا ہو چکا ہے جو کچھ تم نے آج دیکھا ہے وہ کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ میری زندگی میں اس راز کو چھپائے رکھنا۔ ہاں اگر تو زندہ رہے اور میں مر جاؤں تو اس بھید کو ظاہر کر دیتا چنانچہ اس عورت نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد یہ راز فاش کیا۔ وہ عورت اب تک زندہ ہے کافی سن رسیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس عورت کو جو یہ معاملہ دکھایا گیا اس میں کیا راز تھا وہ اپنا چشم دید واقعہ بتلاتی ہے بزرگانِ دین کے متعلق اس قسم کے واقعات پہلے لوگوں سے بھی سنتے ہیں آئے ہیں اور کتابوں میں بھی ملتے ہیں۔

(۲۸) اسی کنوئیں پر ایک شخص عظیم بخش داد پوترہ رہتا ہے وہ بتلاتا ہے کہ مجھے آسب کی تکلیف رتنی تھی ایک رات مجھ پر جنات کا کافی اثر ہوا۔ میں گھبرا گیا۔ بلکہ کنبہ کے سارے افراد سخت پریشان ہو گئے، مجھے آپ کے والد صاحب نے پکڑ لیا اور ایسا زور دار طمانچہ مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جن کا اثر مجھ سے جانا رہا آج تک مجھے پھر اس قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ نے اس شخص کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ ایک دن یہ عالم دین ہو گا۔ چنانچہ اب وہ بڑھاپے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے

کافی علمی دسترس رکھتا ہے اسی کنوئیں والی مسجد میں وہ اب قرآن شریف اور  
دینی کتب کی تعلیم دیتا ہے۔

## آپ کے کشف و کرامات

علم غیبی کس نبی داند بجز پروردگار  
مصطفیٰ ہرگز ننگے ننگے جبریل  
گر کسے گوید کہ می دانم از آں باور مدار  
جبریل از خود ننگے ننگے کردگار

آپ کے کشف و کرامات بیان کرنے سے پہلے یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ کرامت دو قسم  
کی ہوتی ہے، ایک حسی یعنی کسی کے دل کے حال سے واقف ہو جانا، پانی پر چلنا، ہوا میں  
اڑنا وغیرہ عام لوگ اکثر اسی کو کرامت جانتے اور کمال سمجھتے ہیں اور اسی کو کشف و خوارق  
عادات سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ دائمی اور اختیاری نہیں ہے۔ دوسری معنوی یعنی شریعت  
قائم رہنا، اچھے اخلاق کی عادت ہونا نیک کاموں کا پابندی اور بے تکلفی سے ادا ہونا  
حسد و کینہ اور دوسری بُری عادتوں سے دل کا پاک ہونا، کوئی سانس غفلت میں  
تہ گذارنا وغیرہ اور ان امور پر استقامت حاصل ہونا، یہ بڑا کمال اور کابلیں و خواص کے  
نزدیک اصلی کرامت ہے جس میں استدراج کا بھی شبہ نہیں، بخلاف پہلی قسم کے کہ  
اس میں استدراج کا شبہ موجود ہے اور غیر مسلموں اور غیر محتاط و غیر متقی مسلمانوں کو  
بھی بعض مجاہدات کی پابندی اور نفس کشی سے یہ خوارق عادات حاصل ہو جاتی ہیں اس  
کامل بزرگ حسی کرامت کے ظاہر ہونے وقت بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ استدراج نہ  
یا خدا نخواستہ اس سے نفس میں غرور پیدا نہ ہو جائے یا اس کی وجہ سے عام لوگوں میں  
شہرت و انتیاز پیدا ہو کر ہلاکت کا سبب نہ ہو۔ ہمارے حضرت پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ

کراماتِ معنوی کا مجسمہ تھے اور ہر آن و ہر حال میں شریعتِ مقدسہ کی پابندی، اخلاقِ حمیدہ کی پیروی، رذیلہ سے پرہیز، اتباعِ سنت و آدابِ طریقت کی رعایت اور ہر وقت ذکرِ الہی میں مستغرق رہنا، زہد و تقویٰ، صبر و شکر، رضا و تسلیم وغیرہ مقاماتِ عشرہ آپ کی طبیعتِ ثانیہ بن چکے تھے اور آپ کو دیکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس کی مثال معدودے چند بزرگوں میں شکل سے ملے گی اس لئے آپ کے تمام کمالات و کراماتِ معنوی کا احاطہ و بیان مشکل ہے تاہم اس کتاب کے مختلف ابواب و فصول میں حسبِ توفیق اس پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اب اس عنوان کے ذیل میں آپ کی بے شمار حسی و کوئی و زبانی کشف و کرامات میں سے صرف معدودے چند کا بیان کیا جاتا ہے جو حضرت صاحب کے خود کشف و کرامات کے اخصار میں حد درجہ مبالغہ کرنے کے باوجود لوگوں پر ظاہر ہوئیں اور وہ بھی مرورِ انقلاباتِ زمانہ کے سبب کچھ یاد رہیں کچھ نہیں۔ پھر بعض اجاب کی دائمی مفارقت یا بُعدِ زبانی و مکانی بھی ان واقعات کے حصول میں مانع ہے۔ تاہم ولایت کے لئے کشف و کرامات کا پایا جانا یا ظاہر ہونا ضروری نہیں اور نہ کثرتِ خوارقِ فضیلت کا سبب ہے مگر چونکہ تتبعِ شریعت کی کرامت اس کے منتسبین کے لئے زیادتی اعتقاد و محبت کا ذریعہ ہے اور محدثین کرام نے بھی صحابہ کرام کی کرامات کا باب الگ باندھا ہے اس لئے اتباعِ سنتِ سلفِ صالحین کرتے ہوئے جو کچھ حاصل ہو سکا درجِ ذیل ہے اللہ تعالیٰ افرط و تقریط سے درگزر فرمائے۔ حضرت قدس سرہ کی ذات اس سے بری ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

منقول از مولانا مولوی محمد سعید صاحب گوبانوی۔

(۱) ایک مرتبہ فرمایا کہ مولوی صاحب اب انج دورو پے من ہے جتنا چاہو خریدو

ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ غلہ کی تکلیف میں پڑیں گے چنانچہ تھوڑے دنوں کے بعد

اناج پر کنٹرل ہو گیا اور لوگ بہت مشکل میں مبتلا ہو گئے۔

(۲) ایک مرتبہ کیتھل کی جماعت کی دعوت پر آپ کیتھل تشریف لے گئے۔ ایک مکان میں جو جماعت کے لوگوں نے حضرت کے قیام کے لئے تجویز کیا تھا آپ کا قیام مکان میں داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا یہ مکان کس کا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ مکان ایک بیوہ کا ہے، فرمایا بیوہ کا کوئی بچہ ہے عرض کیا کہ ہاں ایک بچہ فرمایا کہ یہ مکان کرایہ پر ہے یا مفت؟ لوگوں نے جواب دیا کہ حضور عارضی طور پر مانگا ہے۔ فرمایا جاؤ کرایہ مقرر کر کے آؤ ورنہ عاجز مسجد میں جا کر قیام کرے گا۔ چنانچہ لوگ بیوہ کے پاس گئے اور کرایہ مقرر کر کے آئے۔ اس کے بعد آپ نے چارپائی پر آرام فرمایا تو بہت اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ کیا چارپائی کا کرایہ مقرر کر دیا ہے اگر نہیں کیا تو کرایہ مقرر کر آؤ۔ چنانچہ چارپائی کا کرایہ بھی مقرر ہوا، تب آپ نے آرام فرمایا۔ بعدہ بندہ (مولانا محمد سعید صاحب) سے تنہائی میں فرمایا کہ مولوی صاحب جب میں مکان میں داخل ہوا تو یہ آواز آئی کہ ”یہ یتیم کا مکان ہے یہ یتیم کا مکان ہے“ اور جب چارپائی پر لیٹا تو چارپائی سے بھی یہی آواز آئی کہ ”یہ یتیم کی چارپائی ہے“ اسی وجہ سے عاجز نے اصرار کیا تھا لوگ حلالہ و حرام کا خیال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرمائے۔

اس واقعہ کو جناب مولانا عبدالحلیم صاحب پانی پتی نے بھی روایت کیا ہے اس طرح سے وضاحت ہے کہ وہ مکان حاجی امام الدین صاحب مرحوم کا تھا جب نماز کی نواز کے لئے ہم حرام وضو کر رہے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب میری زبان پر آیت ”وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ“ سے بار بار آ رہی ہے آخر کیا بات ہے۔ حالانکہ مکان کے متعلق بھی دریافت کر چکا ہوں کہتے ہیں کہ ہمارا ہی تو ایک خادم ہے۔



عرض کیا کہ حضرت یہ مکان نوحاجی امام الدین صاحب مرحوم کا ہے جنہوں نے اپنی زوجہ اور کچھ بالغ و نابالغ اولاد چھوڑ کر وفات پائی ہے۔ فرمانے لگے اس آیت شریفہ سے اسی طرف اشارہ ہے چنانچہ غالباً بعد نماز عصر متوسلین کو حکم دیا کہ محلہ کے چند ثقہ اور معتبر آدمیوں سے اس قسم کے مکان کا کرایہ معلوم کرو اور اس کے مطابق ایام قیام کا کرایہ بیوہ کے سپرد کرو اور آئندہ احتیاط رکھو۔ (مسئلہ یہ ہے کہ یتیم کے مال سے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اور بعد بلوغ اجازت نہ دے استقلاع جائز نہیں اگرچہ وہ نابالغ یتیم اجازت بھی دیدے لیکن رواج کے مطابق اس کا معاوضہ و کرایہ ادا کر دیا جائے تو استقلاع جائز ہو جائے گا اور اگر اولاد میں ایک بھی نابالغ ہے تو غیر منقسم مال موروثہ سے کسی بھی بالغ حصہ دار کو حق نہیں کہ کسی دوسرے کو استقلاع کی اجازت دے سکے۔ واللہ اعلم۔ خاکسار مولف)

(۳) ایک مرتبہ فرمایا کہ مولوی صاحب آپ نے دوسری شادی کی ہے اب تک کوئی امید ہے یا نہیں۔ بتدہ نے عرض کیا "نہیں" فرمایا اچھا ہو جائے گا اور جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام عبدالقادر رکھنا اور دوسرا ہو تو عبدالملک اور تیسرا ہو تو عبدالخالق۔ چنانچہ جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔

(۴) ایک مرتبہ بتدہ نے عرض کیا کہ حضور اس عاجز کے پاس تھوڑی سی زمین ہے اس کی کاشت خود تو کر نہیں سکتا اس لئے یہ خیال ہے کہ فروخت کر دوں۔ فرمایا نہیں فروخت نہ کرو کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ یہ تھوڑی سی زمین تم کو کام دے گی۔ چنانچہ پاکستان آکر اس کا نتیجہ برآمد ہوا کہ جب یہاں پر یہ دریافت کیا گیا کہ تمہارے پاس آراضی ہے تو چونکہ تھی اس لئے اقرار کر لیا اور یہاں بھی زمین مل گئی اگر نہ ہوتی تو یہاں زمین کیلئے جھوٹا یونا پڑتایا اس سے محرومی رہتی، اس سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔

(۵) ایک مرتبہ یہ عاجز اپنے شیخ کی خدمت میں احمد پور شرقیہ آیا ہوا تھا ایک روز ایک اہلحدیث (غیر مقلد) مولوی صاحب جو دہلی اہلحدیث کے کسی مدرسے فارغ التحصیل ہو کر آیا تھا مجھے ورنہ غار ہا تھا کہ آپ مولوی ہوتے ہوئے ان پیروں کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اور کہا کہ میں نماز عصر کے وقت کتب احادیث لا کر آپ کو سمجھاؤں گا کہ پیرپستی کی کیا برائیاں ہیں۔ چنانچہ وہ عصر کے وقت بہت سی کتابوں کا ذخیرہ لیکر آیا۔ حضرت صاحب بھی عصر کی نماز میں شریک تھے۔ امامت کے بارے میں کچھ بحث تھی (غالباً یہ تھی کہ حضرت صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت عزیز محمد صاحب قریشی کو جو اگرچہ بڑی کتابوں کے عالم تو نہیں ہیں مگر ضروری مسائل نماز روزہ وغیرہ وغیرہ دیگر امور شرعیہ سے خوب واقف اور نہایت متقی و تابع سنت ہیں اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت محبت کرنے والے مریدوں میں سے ہیں ارشاد فرمایا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ اس اہل حدیث مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کا لڑکا مولوی محمد شریف جو دہلی سے فارغ التحصیل ہو کر آیا ہے وہ امامت کرے کہ عالم ہوتے ہوئے جاہل کی امامت درست نہیں۔ واللہ اعلم بمولف) حضرت نے فرمایا جس کو تقویٰ اور اتباع سنت حاصل ہو اگرچہ اس کو علم فقہ اور ہی ہو وہ امامت کرنے کا زیادہ مستحق ہے، بہ نسبت اس عالم کے جو زیادہ علم رکھتا ہو اور عمل اور تقویٰ سے خالی ہو (اور غالباً یہ فرمایا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی اگرچہ کتابوں کا اتنا عالم نہیں لیکن نہایت متقی اور باعمل ہے اور حتی الامکان کبھی تکبیر اولیٰ بھی ترک نہیں کرتا اور یہ میرا لڑکا باوجودیکہ فارغ التحصیل عالم ہے لیکن اس میں اس قدر تقویٰ نہیں اور نماز باجماعت میں بھی سستی کر جاتا ہے۔ مولف) غرضیکہ حضرت موصوف نے بڑے بڑے دلائل سے اس آیت شریفہ کی تشریح فرمائی اِنَّ اَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقِئَكُمْ الْآيَةَ چونکہ ان مولوی صاحب کا باطنی خطرہ دو سو سوہ حضرت  
 علیہ الرحمۃ پر منکشف ہو گیا تھا اس لئے آپ نے اس قدر تقریر فرمائی کہ آپ کی آنکھیں  
 سرخ ہو گئیں۔ وہ مولوی اس تقریر کو سن کر شرمندہ ہوا اور اپنی کتابیں بغل میں دبا کر چپ  
 باپ چلا گیا۔ بعدہ ہم کو حیرت ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب اللہ تعالیٰ نے  
 جس طرح حضرت سائیں تو گل شاہ صاحب قدس سرہ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا اسی طرح  
 مجھے بھی عطا فرمایا ہے (او کما قال)

(۶) ایک روز ارشاد فرمایا کہ میں ایک دفعہ ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے  
 قریب ایک دوسری چارپائی پڑی ہوئی تھی اس دوسری چارپائی سے آواز آئی (زبان حال  
 سے جو صاحب کشف کو سنائی دیتا ہے۔ واللہ اعلم۔ مؤلف) کہ تو بہت خوش نصیب ہے تجھ پر  
 ایک ذکر اللہ کرنے والا لیٹا ہوا ہے (اس عاجز مؤلف کو یہ بھی یاد ہے کہ حضرت صاحب نے  
 یہ بھی فرمایا کہ اس چارپائی نے کہا کہ کل کو یہ تبلیغ کے لئے ہندوستان چلا جائے گا اور میں  
 محروم رہ جاؤں گی واللہ اعلم) میں فوراً اس چارپائی سے اٹھ کر دوسری چارپائی پر لیٹ گیا  
 پھر دونوں چارپائیوں نے کہا کہ اب تو ہم برابر ہو گئے۔

(۷) ایک مرتبہ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں کہ میرا بھائی جو  
 لواطت کے مرض میں مبتلا ہے اس کو اس کام سے نفرت ہو جائے۔ حضرت نے دعا  
 فرمائی بعدہ صبح کے وقت اس عاجز (مولوی محمد سعید صاحب) سے فرمایا کہ مولوی صاحب  
 جس شخص کے بارے میں دعا کی گئی تھی اس کے متعلق یہ معلوم ہوا ہے کہ اب اس کے حق میں  
 دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے لواطت کی اتنی کثرت کی ہے اور اس نے اتنا پافانہ  
 کھا ہے کہ منہ تک آ گیا ہے اب وہ مر رہا ہے گا چنانچہ جب حضرت رحمت ہو گئے تو

وہ آدمی اسی مرض میں مبتلا رہ کر چند دنوں کے بعد مر گیا۔

(۸) ایک روز ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب آپ کی گھروالی کی قبر پر مراقبہ مرحومہ سے بہت باتیں ہوئیں ہیں نے دوران گفتگو مرحومہ سے پوچھا کہ تیرے ساتھ منکر قبر میں کیسا سلوک رہا۔ تو کہا کہ آپ کی جوتیوں کے صدقہ سے جب منکر نکیر آئے تو معاً میری حضرات سلسلہ کی روحیں آئیں اور انھوں نے نکیرین سے کہا کہ یہ ہماری بچی ہے اسے آسانی سے سوال کرو۔ نیز حضرت نے فرمایا کہ قرآن شریف پڑھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مولوی صاحب میری قبر پر نہیں آتے مولوی صاحب سے کہنا کہ میرا ایک گلاس چاندی کے ٹن ہیں وہ خدا کی راہ میں خیرات کیوں نہیں کئے۔ چنانچہ ارشاد کے مطابق میں نے خیرات کر دیئے۔

(۹) ایک مرتبہ بندہ ہمراہ تھا گوہانہ کے ایک قبرستان میں مراقبہ کیا تو حضور بہت جلد مراقبہ سے اٹھ کر باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ مراقبہ اس لئے جلد ختم کیا کہ قبر پر عذاب ہو رہا ہے اس کا اثر اس عاجز کے قلب پر پڑا تو عاجز کو قے آنے لگی میرا قہر اگیا ہے

۱۔ امام مسلم نے زید بن ثابت سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بغلہ (سواری کے چمپر) پر سوار کے باغیچے کے پاس سے نکلے اور ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے کہ یکایک آپ کا بغلہ بدکا، قریب تھا کہ آپ گر پڑتے پھر وہاں پانچ چھ قبریں تھیں آپ نے پوچھا کوئی ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ ایک نے عرض کیا ہاں میں جانتا ہوں۔ پوچھا کس زمانے کی قبریں ہیں؟ اس نے عرض کیا یہ لوگ شرک کے زمانے میں مرے ہیں تب آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں عذاب میں مبتلا ہیں۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم آئندہ مردے کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا جو عذاب میں مبتلا ہوں تمہیں سنو ادیتا پھر آپ نے ہماری طرف منہ کر کے فرمایا پناہ مانگو اللہ کی عذاب سے ہم نے کہا الہی تیری پناہ ہے قبر کے عذاب سے۔ پھر فرمایا پناہ مانگو اللہ کی ظاہر اور باطن کے قسوں سے ہم نے کہا الہی تیری پناہ ہے ظاہر اور باطن کے قسوں سے پھر فرمایا پناہ مانگو اللہ کی عذاب سے ہم نے کہا الہی تیری پناہ ہے

(۱۰) ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ہمیشہ یہ شوق تھا کہ ہر مزار پر مراقبہ کر کے صاحب مزار کا حال معلوم کرتا تھا کہ یہ صاحب کس مقام کے ہیں اور کتنے اسباق کئے ہیں۔ ایک روز ایک بزرگ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ کیوں کسی کارا زافشا اس وقت سے رک گیا۔

(۱۱) ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم قصبہ تھانہ میں حضرت کے ہمراہ تھے جمعہ کی نماز کے لئے جامع مسجد گئے اور نماز پڑھ کر واپس ہوئے تو بتدرہ سے فرمایا مولوی صاحب! حد میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور وہ یہ ہے کہ دنیا میرے پاس آئی اور اس وقت جھگڑا کیا حتیٰ کہ نماز پڑھتی دشوار کر دی یہی کہتی رہی کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے حالانکہ میں فلاں فلاں موقعوں پر آپ کے کام آئی ہوں۔ حضرت فرمایا کہ یہ عاجز بہت لاجول ولاقوۃ الا بالشریٰ ظنارہا لکر حب تک مسجد سے باہر یہ اس وقت تک خراب کرتی رہی، معلوم نہیں کیا بات ہے۔ اتنے میں ایک رئیس ہمراہ ہو گیا اور اس نے دریافت کرنا شروع کیا یہ بزرگ کون ہیں اور کہاں سے۔ جماعت کے دوستوں نے کہا کہ ریاست بھاو پور کے بزرگ ہیں۔ اس رئیس نے یہ کہہ کر حضرت سے عرض کیا کہ میرا مکان تیار ہو رہا ہے آپ ہر بانی فرما کر اس میں تشریف لے اور دعا فرمادیں۔ چنانچہ حضرت جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے اور دعا فرما کر ہونے لگے تو اس رئیس نے ایک روپیہ پیش کیا کہ یہ آپ کی نذر ہے۔ حضرت نے بھائی میں نے دعا اللہ کے واسطے کی ہے اس چیز کی مجھے ضرورت نہیں اور نہ اس لئے آتا ہوں۔ اس نے بہت اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کسی غریب کو دیدنا تو حضرت اس سے ناراض ہو گئے اور بخیرہ ہو کر سختی سے منع کیا تب وہ مانا

اور روپیہ اپنی جیب میں واپس ڈال لیا۔ جب الگ ہوئے تب فرمایا مولوی صاحب دیکھایہ نامراد دنیا مجھ سے مسجد میں بھی جھگڑا کر رہی تھی وہی پیش آئی۔

(۱۲) ایک روز جماعت کے آدمیوں نے اصرار کیا کہ حضرت جنگل میں ایک اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے لوگ اس کو کسی بزرگ کا مزار تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے۔ مہربانی فرما کر آپ تشریف لے چلیں اور معلوم کریں کہ کیا یہ واقعی بزرگ ہے کوئی اور بات ہے۔ چنانچہ حضرت تشریف لے گئے اور مراقبہ فرمایا بعدہ فرمایا کہ بھائی پر کوئی بزرگ نہیں ہاں یہ معلوم ہوا کہ ایک جن قید ہے اور کوئی چیز نہیں۔

(۱۳) ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ پانی پت میں حضرت قلندر صاحب کے مراقب ہوئے اور آپ پر ایک جذبہ کی حالت طاری ہوئی۔ جذب کی حالت میں ہی آپ سے باہر نکل آئے اور زور زور سے پکارنے لگے "اے اللہ کے بندو! مجھے کسی (پھاڑو) تاکہ میں مزار کو کھود کر نہیں دکھا دوں کہ یہاں صرف اینٹیں ہیں قلندر صاحب نہیں تم نے اسے کفر و شرک کا اڈہ بنا رکھا ہے" بہت دیر تک یہ حالت طاری رہی۔

(۱۴) بھائی اصغر علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت نے مجھ سے دریافت کیا تمہاری بیوی نہیں؟ عرض کیا نہیں پھر اسی طرح فرمایا میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا جو نعمت ہم نے تم کو ظہر کے وقت دی تھی وہ تم نے ایک عورت کے دیکھنے سے ضائع کر واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ (اداکما قال)

(۱۵) نیز اصغر علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک دفعہ خاکسار نے اپنے بھائی سے ملازمت کے بارے میں دعا کی درخواست کی تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو کچھ ہونے والا ہے غھوڑے عرصہ کے بعد انقلاب شروع ہو گیا۔

(۱۶) ایک دفعہ کوئی مولوی صاحب داخل سلسلہ ہوئے۔ حضرت ایک بزرگ کے مزار پر تشریف لے گئے صاحب مزار کی طرف سے مولوی صاحب کے کچھ حالات منکشف ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ مولوی صاحب لوگوں سے رقم لیکر سو پر دو سو روپے کو دیتے ہیں اس کو روکو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مکان بھی رہن رکھا ہوا ہے چنانچہ حضرت صاحب نے مولوی صاحب سے دریافت فرمایا تو دونوں باتیں

(۱۷) ایک روز ارشاد فرمایا کہ عاجز نے جب امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر مراقبہ کیا تو حضرت کی روح مبارک سے ملاقات ہوئی۔ عاجز نے عرض کیا کہ میں بہت کمزور ہوں کئی قسم کی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں سفر نہیں کر سکتا۔ فلاں خلیفہ صاحب بہت سفر کرتے ہیں اور ان کے بہت مرید ہیں اور خلفا بھی۔ تو حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے فرمایا کہ آپ کے دونوں صاحبزادے عالم باعمل ہوں گے۔ عاجز نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میرے دونوں بیٹے عالم باعمل ہوں گے تو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ میں ابھی نوشتہ تقدیر میں دیکھ کر آیا ہوں۔

(۱۸) امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مراقبہ کے بعد مجھ سے فرمایا امام ربانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب (گوہانوی) کو میرے پاس چند روز چھوڑ دو کیا آپ رہیں گے بندہ نے عرض کیا کہ حضور نہیں میرے تو آپ ہی مجدد ہیں۔ آپ مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔

(۱۹) حضرت مولانا مولوی عبدالغفور صاحب عباسی مدظلہ العالی کے ابتدائی حالات میں سے قبل از بیعت کا واقعہ ہے کہ جب ہمارے حضرت صاحب دہلی محلہ نواب گنج گڑ کا میل مسجد سبیل میں پہلی دفعہ تشریف لے گئے جس میں مولانا عبدالغفور صاحب امام تھے اور مدرسہ امینیہ میں مدرس بھی تھے تو ان کو کسی سے یہ معلوم ہوا کہ یہ فقیر بہت متقی آدمی ہیں

کسی بے نمازی کا کھانا نہیں کھاتے، اپنے پاس بٹھے ہوئے چنے اور ستود وغیرہ رکھتے ہیں اور وہی استعمال کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس بزرگ کی دعوت دے کر آریا میں کہ یہ واقعی اس صفت کے ہیں یا یوں ہی ڈھونگ رہا ہے۔ یہ سوچ کر مولوی صاحب حضرت کے پاس تشریف لائے اور دعوت کے بارے میں درخواست کی حضرت نے فرمایا مولوی صاحب کیوں تکلف فرماتے ہیں فقیر کسی کی دعوت بے احتیاطیوں کی وجہ سے منظور نہیں کیا کرتا۔ مولوی صاحب نے فرمایا انشاء اللہ حضرت کے حسبِ نسا احتیاط کے ساتھ کھانا تیار کیا جائے گا اور میرے گھر میں اہلیہ نماز پڑھتی ہے وضو کے ساتھ گھر میں کھانا تیار کرالوں گا تو حضرت صاحب نے مولوی صاحب موصوف کے باطنی فیض حاصل کرنے کی امید سے منظور فرمایا۔ اس کے بعد مولوی صاحب گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ وضو کر کے تہایت پاکی کے ساتھ ایک بزرگ کیلئے کھانا تیار کرو اور دوسری طرف ایک بے نمازی کے گھر میں قمیہ اور روغنی روٹیاں تیار کرائیں اور اپنے گھر میں صرف سادہ دال روٹی تیار کر دو۔ دونوں قسم کے کھانے لیکر اس ترکیب سے رکھو کہ پہلے روغنی روٹی اور قمیہ حضرت کے سامنے رکھا اور اپنا سادہ کھانا بھی حضرت کے پاس ایک طرف رکھ دیا اور اور حضرت سے فرمایا کہ تناولی فرمائیے اور روغنی روٹیوں کی طرف اشارہ کیا حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب کا اشارہ تو روغنی روٹیوں کی طرف تھا اور عاجز کا ہاتھ خود بخود اس سادہ کھانے کی طرف جاتا تھا حتیٰ کہ عاجز نے سادہ روٹی اور دال کھائی اور روغنی روٹی اور قمیہ جوں کا توں رہ گیا اور اس سے قدرتا نفرت ہوتی تھی، بعدہ مولوی صاحب موصوف کو کلی یقین ہو گیا کہ یہ واقعی بزرگ ہیں اس کے بعد حضرت کی صحبت میں بیٹھنے لگے اور باطنی فیضان سے فیضیاب ہوئے۔



(۲۰) ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک مسجد میں بعد نماز عشا حسب الحکم ہم سب حلقہ باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کو الگ الگ توجہ دے رہے تھے اتنے میں اچانک مراقبہ بند فرما کر سب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں کوئی اجنبی آدمی ہے؟ سب نے اصرار دھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک اجنبی آدمی ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں بھی خاندانِ نقشبندیہ کا خلیفہ ہوں اور حافظِ قرآن بھی ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اب کیسے آئے ہو؟ تب معلوم ہوا کہ وہ سیلچہ پارٹی یعنی خاکسار جماعت کا آدمی ہے۔ حضرت نے فوراً ان کے فاسد عقائد بیان فرمائے اور علماء کے فتوے جو ان کے متعلق جاری ہوئے تھے وہ جماعت کے سامنے پیش کئے اور سب کو ان کے عقائدِ فاسدہ سے متنبہ فرمایا۔ (اللہُمَّ احْفَظْنَا مِنْ عَقَائِدِ الْفَاسِدَةِ۔)

(۲۱) حضرت علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ ایک روز میرا بھائی (عزیز محمد صاحب) میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کنوئیں پرہ پڑا اور آیا ہوا ہے، پڑنا ل کر یگا۔ حضرت کو بذریعہ کشف و الہام معلوم ہوا تو اپنے بھائی سے فرمایا کہ وہ اس کنوئیں پر نہیں ہے، بھائی صاحب نے اصرار فرمایا کہ وہ وہیں ہے۔ جب ہم دونوں اس کنوئیں پر پہنچے تو واقعی وہ گر داؤر وہاں نہیں تھا۔ پھر بھائی نے کہا کہ اگلے کنوئیں پر چل گیا ہوگا۔ لیکن حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ خیر بھائی صاحب کے کہنے سے دوسرے کنوئیں پر پہنچے لیکن جب وہاں پہنچے تو گر داؤر وہاں بھی نہیں تھا۔ اس وقت سے بھائی صاحب کو اس عاجز سے عقیدت ہو گئی اور پھر وہ معاملات میں اتنی سختی نہیں کرتے تھے (چچا صاحب جناب عزیز محمد صاحب نے بھی اس واقعہ کی تصدیق فرمائی۔ مؤلف)

(۲۲) ایک روز مستورات کا حلقہ تھا حلقہ ذکر و مراقبہ سے پہلے کچھ وعظ و نصائح ہو رہے تھے۔ عاجز نے عرض کیا کہ یہ جتنی مستورات آپ کے سامنے موجود ہیں ان کو یہ یہ ہدایات تلقین فرمادیں۔ فرمایا مولوی صاحب آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے عاجز کو بفضلہ تعالیٰ ان کا سب حال معلوم ہے آپ سنتے جائیں۔ پس آپ نے نہایت جامع تقریر فرمائی۔

(۲۳) ایک مرتبہ گوبانہ میں بڑی مسجد کے آدمی اس عاجز سے خواہ مخواہ ناراض ہو گئے اور بہت زیادتی کرنے لگے بندہ کو بہت کوفت ہوئی تو خدمتِ عالی میں عرض کیا کہ حضور یہ لوگ بہت ثمرات کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مولوی صاحب صبر کرو انشاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک صبر کا نتیجہ اچھا فرمائے گا اور یہ بھی فرمایا کہ ان کو تکلیف پہنچے گی چنانچہ تھوڑے عرصہ کے بعد مخالفین کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور جتنے آدمیوں نے مخالفت کی تھی فرداً فرداً سب کو تکلیف پہنچی۔

(۲۴) ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں نے احمد پور شرقیہ کی جس ویران مسجد کو آباد کیا ہے اس میں اعتکاف کیلئے بیٹھا تھا۔ ۲۹ تاریخ کو ماہ رمضان شریف کا چاند نورانی شکل میں نمودار ہوا اور فرمایا میں تجھ سے بہت خوش ہوں اور اب میں جا رہا ہوں السلام علیکم! (صورتِ مثالیہ میں اس قسم کی کیفیات علماءِ حق کے نزدیک مسلم ہیں۔ مؤلف) اس روز شام کو احمد پور شرقیہ میں چاند نظر نہ آیا اور نہ چاند نظر آنے کی کوئی شرعی شہادت مل سکی اس لئے وہاں کے مفتی جناب مولانا واحد بخش صاحب نے عید کے چاند ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ مجھے یقین تھا کہ چاند مجھ سے مل کر گیا ہے لیکن چونکہ شرعی فتویٰ نہیں تھا اس لئے میں اعتکاف سے نہیں اٹھا۔ صبح جب

ولانا مفتی صاحب نے آٹھ نو بجے چاند کی رویت پر شہادت لی تب میں اعتکاف سے  
ٹھا۔ اس لئے کہ جب تک حال اور خواب شریعت کے مطابق نہ ہو اس خواب اور حال پر  
عمل نہیں کرنا چاہئے۔

(۲۵) جب حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب پانی پتی داخل سلسلہ ہوئے تو  
حضرت نے فرمایا مولوی صاحب تمام بزرگانِ پانی پت شریف لائے اور مولوی صاحب کی  
مردہ کی طرح ڈال کر اس عاجز سے فرمایا کہ یہ مُردہ ہے شاہ صاحب! اس کو زندہ کرو۔  
(حدیث شریف میں آیا: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَدُكُ  
رَبِّهِ وَالَّذِي لَا يَدُكُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ (متفق عليه في المشكوة عن ابى موسى) بزرگوں  
کے واقعات بھی اس پر دلیل ہیں)۔

(۲۶) آپ کی عادت مبارک ہمیشہ میری اہلیہ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے کی  
نہی کیونکہ وہ با وضو اور ذکر کے ساتھ کھانا پکایا کرتی۔ قصابوں میں سے ایک شخص نے  
جو ہم سے حسد رکھتا تھا بڑی سختی سے یہ بات کہی کہ تمہاری گھر والی کو کسی ایسی متقی اور  
پرہیزگار ہے ہماری عورتیں بھی تو نماز پڑھتی ہیں آج حضرت صاحب کی میں دعوت کروں گا  
اس نے بہت شور و غل مچایا۔ آپ نے فرمایا "مولوی صاحب! میں کسی کو ناراض کرنا نہیں  
چاہتا میں خود اپنے بدن پر تکلیف گوارا کر لوں گا اس کی دعوت مان لو۔ چنانچہ وہ شام کو  
کھانا لے آیا آپ نے اس میں سے اس کی دلجوئی کے لئے ٹھوڑا سا تناول فرمایا۔ رات کو  
حلقہ کرانے کے بعد سو گئے۔ صبح کو مجھ سے فرمایا "رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ گتے  
مجھے کاٹ رہے ہیں تم اس آدمی سے پوچھو کہ گوشت کہاں سے لایا تھا؟ چنانچہ اس سے  
دریافت کیا گیا۔ اس نے کہا فلاں بکر قصابی سے لایا ہوں۔ اس۔۔۔۔۔

عاجز نے ان بکر قصابوں سے دریافت کیا کہ انھوں نے اس شخص کو گوشت دیا تھا؟  
انھوں نے انکار کیا کہ ہم سے اس شخص نے گوشت نہیں خریدا اور نہ یہ ہماری دکان پر  
آتا ہے۔ آخر بڑی جدوجہد کے بعد معلوم ہوا کہ اس کی ایک بھڑکتی جیسے اس دن  
گٹوں نے زخمی کیا تھا اور گٹوں کے دانتوں کے اثرات اس میں سرایت کر گئے تھے اس  
گوشت میں سے اس نے حضرت والا کی دعوت کی تھی۔

از جناب عبداللہ خان صاحب احمد پوری (۲۷) جناب بھائی عبداللہ خاں صاحب  
کہتے ہیں میرے والد صاحب نے

سنیا کہ دہلی سے ایک علیگ ر علیگڈھ کا تعلیم یافتہ نے بھاو پور میں اپنے ایک  
دوست ٹھیکیدار کو خط لکھا کہ احمد پور شرقیہ میں ایک بزرگ محمد سعید قریشی ہیں ان کے  
مفصل حالات معلوم کر کے مجھے لکھیں۔ ٹھیکیدار صاحب نے صوتی محمد صالح صاحب سے  
دریافت کیا وہاں میں بھی موجود تھا انھوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ احمد پور شرقیہ کٹرہ  
احمد خاں میں ایک شخص محمد سعید قریشی ہے بزرگ ہونے کا تو پتہ نہیں البتہ آدمی نیک  
اور صالح ہے چنانچہ ٹھیکیدار صاحب میرے ہمراہ ان کی ملاقات کے لئے تشریف لائے  
مکان پر پہنچ کر دروازہ پر دستک دی آپ تشرف لائے اور معاف فرمایا کہ کیا اس خط  
کے سلسلہ میں ملنے آئے ہو جو ٹھیکیدار صاحب کے پاس آیا ہے۔ یہ سن کر ہم سب حیران  
تھے سب کا اعتقاد اور بھی بڑھ گیا۔ ٹھیکیدار نے حضرت صاحب سے کافی سوالات کئے  
حضرت نے تسلی بخش جواب دیئے۔ ٹھیکیدار صاحب نے کہا میرا تو خیال تھا کہ ریاست  
میں کوئی بزرگ نہیں ہوگا۔ فرمایا میں بزرگ تو نہیں میرے مولا کا فعل ہے۔ ٹھیکیدار صاحب نے  
اپنے دوست کو مفصل حالات کا خط لکھ دیا پھر وہ صاحب مع اہل و عیال کے تشریف لائے

اور سلسلہ میں داخل ہو کر فیضیاب ہوئے (صاحبزادہ صاحب نے بتایا کہ ٹھیکیدار صاحب کا نام محمد ضیف تھا۔ چچا صاحب نے بھی اس واقعہ کی تصدیق فرمائی۔)

(۲۸) ایک دن اس عاجز (عبداللہ خاں صاحب) نے نئی کھجوروں کا خوشہ حضرت کی خدمت میں پیش کیا آپ نے قبول فرمایا۔ عاجز کو خیال ہوا کہ آج تو حضرت نے قبول فرمایا اور ہمیشہ انکار کر دیتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد کسی روز عاجز کو مسائل سکھانے وقت فرمایا جب میرے دل میں کوئی وہم و گمان نہیں ہوتا کہ فلاں سے یہ چیز لے گی اگر وہ لے آئے تو سمجھتا ہوں کہ خدا کی طرف سے ہے اسے لے لیتا ہوں ورنہ نہیں۔ ص ح چیزے کہ بے گماں برسد ادۃ خداست

(۲۹) ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی محمد عبدالرحیم از مولانا عبدالحلیم صاحب پانی پتی صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر آپ نے پانی پت میں ایک شخص کی دعوت، تقویٰ و طہارت اور سادہ کھانے کی شرائط پر قبول فرمائی جب کھانا آیا تو اس میں تازہ مٹھائی، قورمہ، پراٹھے، سادہ چپاتی وغیرہ تھے حضرت والا نے صرف سادہ چپاتی شوربا سے تناول فرمائی اور فراغت کے بعد حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ سے فرمایا کہ آپ کو آنکھوں نے دھوکہ دیا۔ چنانچہ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ کھانا متذکرہ بالا شرائط پر نہیں بنایا۔

(۳۰) کرنال میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کئی روز سے شاہ شرف بوعلی قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلارہے ہیں آج مزار مبارک پر چلنا ہے۔ نیز ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب مزار پر سے اٹھنے لگے تو صاحب مزار نے دامن پکڑ کر بٹھانا چاہا۔

(۳۱) جب اس عاجز (عبدالرحلیم صاحب) نے پانی پت سے احمد پور شرقیہ حاضر خدمت

ہونے کا ارادہ کیا تو میرے ایک ہم مشرب کہنے لگے کہ اگر پہلے خط ڈال دیں تو سہولت رہے گی لیکن میں نے عجلت سے کام لیا اور ۹ بجے کے قریب ایک خط سپرد ڈاک کر کے دو بجے کی ریل گاڑی سے عازم احمد پور شرقیہ ہوا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات کا اثر تھا کہ ایک رفیق سفر ملے جو مجھے سلا کر رات کو سنبھال کر لے رہے اور دونوں وقت عمدہ قسم کا کھانا کھلایا۔ غرض جب بخیریت تمام راستہ طے ہوا تو اسٹیشن ڈیرہ نواب صاحب پر مولانا عبدالرحیم صاحب (حضرت کے خادم خاص) سے ملاقات ہوئی وہ کہنے لگے کہ آج صبح حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج بارہ بجے پانی پت سے مولوی عبدالرحیم صاحب پہنچ رہے ہیں تم جا کر لے آؤ۔ حالانکہ میرا خط دوسرے وقت یعنی بعد میں پہنچا۔

(۳۲) میرے احمد پور شرقیہ کے قیام میں آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ صوفی علی نواز صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) کو خط لکھ کر بلا لیتا ہوں تمہیں ان سے فائدہ بھی ہوگا اور واپسی میں تمہارا ساتھ انبالہ چھاؤنی تک ہو جائے گا لیکن چونکہ صوفی صاحب کو شاہ آباہ اسٹیشن پر اور مجھے کچھ آگے پانی پت اسٹیشن پر اتارنا تھا یعنی انبالہ سے آگے ہمارا ساتھ شاہ آباد تک ہونا چاہئے تھا اس لئے میں متعجب رہا مگر واپسی پر جب ہم دونوں انبالہ چھاؤنی اسٹیشن پر پہنچے تو وہی جانے والی ٹرین جس پر ہم دونوں کو جانا تھا کچھ وقفہ کے بعد آئی حضرت صوفی علی نواز صاحب تو اس میں سوار ہو کر شاہ آباد تشریف لے گئے اور احقر کو اس میں جگہ قطعاً ملی بلکہ رات کو دو بجے کی گاڑی سے پانی پت پہنچا۔

(۳۳) ڈاڑھی رکھنے کے بعد اس عاجز نے خواب | از جناب صوفی محمد احمد صاحب | میں دیکھا کہ چہرے کا ایک حصہ منڈا ہوا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھو! تم نے اچھی بھلی نسل بگاڑی جس طرف بال ہیں کتنا بھدا معلوم دینا

حضرت رہتک تشریف لائے ہوئے تھے فرمایا کچھ خواب ہوئے ہوں تو بتاؤ۔ اس عاجز نے ڈاڑھی والا خواب تو سنا دیا لیکن ایک اور خواب جو حضرت سے متعلق تھا پاس ادب کی وجہ سے نہیں سنایا۔ فرمایا "اور کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو بعض خوابوں کو مجمع میں بیان کرنا اچھا ہوتا ہے؟ عرض کیا حضور ایک سفید ریش شخص ہاتھ میں عصل لے آیا اور اس عاجز سے مصافحہ کیا ایک ہاتھ اس کا کچھ بند تھا اور کچھ کھلا ہوا جس میں کچھ تھا عاجز نے دریافت کیا کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ ہنس کر بات کو ٹالنے لگا پھر دوبارہ پوچھا تو کہا احمد پور شرقیہ میں ایک بزرگ خواجہ محمد سعید ہیں جن سے میں بیعت ہوں وہ مریدوں سے چوری چھپے کو کین کھاتے اور سگریٹ پیتے ہیں یہ چیزیں ان کیلئے لے جا رہا ہوں لیکن خیر یہ اچھا ہے کہ وہ علانیہ ایسا نہیں کرتے دیکھو کسی سے یہ راز نہ کہنا اس کے بعد آنکھ کھل گئی حضرت (قدس سرہ) مسکرانے اور فرمایا کہ شیخ اگر ناراض ہو جائے تو مرید کا کچھ بڑا نقصان نہیں مگر مرید کا اگر شیخ کی طرف سے اعتقاد خراب ہو جائے تو سراسر نقصان ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے ڈاکو وہیں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ (یعنی یہ شیطان تھا جو اس طرح بہکانے کے لئے آیا تھا۔ مؤلف)

(۳۴) ایک روز قبلہ حاجی عبدالمجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر بعد نماز عشاء ارشادات عالیہ سے مجلس گرم رہی پھر حاضرین مجلس ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے مہمان وہیں رہے۔ حضرت صاحب سونے کے لئے اپنے علیحدہ کمرے میں تشریف لے گئے۔ مرزا اسحاق بیگ صاحب کہنے لگے کہ دودھ پینے کو بہت طبیعت چاہ رہی ہے حضرت سے کیسے اجازت لیں۔ عاجز کی بھی یہ نیت تھی کہ کسی طرح مرزا صاحب اجازت لے لیں تو میں بھی دودھ پی لوں۔ عرض مرزا صاحب اجازت لینے کیلئے دو قدم کبھی آگے

ٹرہنے اور کبھی بوجہ شرم پیچھے ہٹ جاتے لیکن اجازت لینے کی جرأت نہ ہوتی تھی اندر سے  
 حضرت (قدس سرہ) نے عاجز کا نام لیکر فرمایا جاؤ تم یہاں کے باشندے ہو گلیوں سے  
 واقف ہو مرزا صاحب کو ٹہلا لاؤ یہ بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہوں گے۔ مرزا صاحب نے  
 فوراً کہا حضور دودھ پینے کو طبیعت چاہ رہی ہے فرمایا ہاں جاؤ مگر دیر نہ کرنا چنانچہ  
 ہم چلے گئے۔ مرزا صاحب نے پاؤں سیر دودھ پیا اور عاجز نے آدھ سیر جب واپس آئے تو  
 حضرت صاحب انتظار کر رہے تھے فرمایا "آگے" عرض کیا "حضور" مرزا صاحب سے  
 فرمایا کتنا دودھ پیا جواب دیا "حضور پاؤں سیر" عاجز سے پوچھا کہ تم نے کتنا پیا۔ عاجز نے  
 شرمندہ ہو کر کہا حضور آدھ سیر۔ فرمایا کم کھانا اچھا ہے۔ خیر دونوں لیٹ گئے اور کافی  
 رات تک باتیں کرتے رہے۔ پھر مرزا صاحب کہنے لگے کہ دروازہ کھول کر دیکھو حضرت  
 صاحب کیا کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب بے پاؤں گئے اور آہستہ سے دروازہ کھولا دیکھا  
 کہ حضرت صاحب چارپائی پر سر بسجود ہیں۔

(۳۵) ایک مرتبہ قبلہ حضرت حاجی عبدالمجید صاحب کے دولت خانہ پر بعد  
 نماز عصر حاضرین مجلس کو ارشادات عالیہ سے مستفیض فرما رہے تھے گفتگو کا موضوع  
 بحث و مباحثہ نہ کرنے کے متعلق تھا فرما رہے تھے کہ کسی ایسے شخص سے جو مذہب کا پابند  
 نہ ہو بحث کرنا درست نہیں بغیر شرعی آدمی اگر قابل ہوتا ہے تو اپنے دلائل سے برے اثرات  
 دوسرے کے قلب پر ڈال دیتا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے اور اس بارہ میں ایک طویل گفتگو  
 فرمائی یہاں تک کہ مغرب کا وقت آگیا فرمایا سب کے سب مسجد چلیں حکم کی تعمیل کی گئی  
 حضرت شاہ زوار حسین صاحب مدظلہ نے ذرا توقف فرمایا تاکہ حضرت کو وضو کرا دیں۔  
 عاجز پانی کا لوٹا بھر رہا تھا شاہ صاحب سے فرمایا کہ آپ بھی تشریف لے جائیں وضو



یہ کرا دیگا۔ یہ عاجز و ضو کرانے لگا (یعنی پانی وغیرہ دیا، وضو خود بغیر کسی کی مدد کے فرمایا کرتے تھے۔ مؤلف) فرمایا یہ سب کچھ تقریر آج تمہارے لئے کی گئی تھی اپنے بہنوئی صاحب کے تصوف کے متعلق (دہلی میں) بحث نہ کیا کرو وہ قابل شخص ہے ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں خطرات پیدا ہو جائیں۔ یہ سن کر عاجز کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت صحیح واقعہ بیان فرما رہے ہیں غیب کا علم ان کو کیسے ہو گیا۔ فوراً فرمایا مجھے غیب کا علم نہیں ہاں عالم الغیب (خدا) کبھی کبھی اپنے نیک بندوں کو غیب سے آگاہ کر دیتا ہے تاکہ اس کی مخلوق کی اصلاح ہوتی رہے اور یوں تو میرے کپڑے پراگر گندگی بھی لگی ہوئی ہو تو محض خدا کی مدد سے اس کا علم ہو جاتا ہر وقت نہیں۔ (اکثر لوگوں کے حالات جو آپ کو کشف سے معلوم ہو جاتے تھے عام مجمع میں عام نصیحت و وعظ کے طور پر وضاحت فرماتے تھے حتیٰ کہ کسی کو آپ پر شبہ بھی نہ ہوتا کہ آپ کو یہ بات منکشف ہوئی ہے البتہ صاحب معاملہ سمجھ جاتا کہ یہ بات میرے لئے کہی جا رہی ہے۔ واللہ اعلم بمؤلف)

(۳۶) چند دنوں کے لئے مرزا صاحب نے یہ معمول بتایا تھا کہ بعد نماز عصر سیر کیلئے نئی دہلی کے پارک میں چلے جاتے جہاں بے پردہ عورتیں کثرت سے آتی تھیں جس کی وجہ سے مرزا صاحب کے ذکر کی حالت کچھ اچھی نہ رہی۔ خدمت اقدس میں لکھا حضور! ذکر کی حالت پہلے کے مقابلہ میں اچھی نہیں بہتری کیلئے دعا فرمائیں جو اب میں تخریر فرمایا ادھر ادھر نہ جایا کرو کیونکہ نامحرموں پر نظر پڑنے سے قلب پر سیاہی آتی ہے گھر میں وقت گزارنا بہتر ہے۔

(۳۷) عاجز کے پڑوس میں ایک بالغ لڑکی تھی جو اہلیہ کے پاس آتے جانے لگی تھی، عاجز کو اس سے کچھ انسیت ہونے لگی یہاں تک کہ ایک روز اس کو اپنے ہمراہ کھانے میں بھی شامل کر لیا حالانکہ اہلیہ نے کہا کہ شریعت کے خلاف ہے لیکن ان کے کہنے کی پروا نہ کی۔ اس وقت لطیف خفی پر سبق تھا۔ چند دن بعد مرزا صاحب اور عاجز کو اطلاع پہنچی کہ فلاں

تاریخ کو گواہانہ میں جلسہ ہوگا۔ مرزا صاحب نے جلسہ کی تیاری کر لی مگر اس مرتبہ عاجز کی طبیعت جلسہ میں جانے کو نہ چاہتی تھی چنانچہ مرزا صاحب سے کہا کہ مجھے چھٹی ملنا مشکل ہے تم تنہا چلے جاؤ۔ یہ اکیلے ہی چلے گئے اور جلسہ میں شامل ہو گئے۔ دوسرے ہی روز مرزا صاحب واپس تشریف لے آئے اور کہا کہ مجھے تو حضرت صاحب نے جلد واپس بھیج دیا ہے اور حکم دیا کہ تم فوراً چھٹی کی درخواست بھیج کر خدمت میں حاضر ہو جاؤ چھٹی منظور ہوتی رہے گی چنانچہ عاجز حضور کی خدمت عالی میں گواہانہ پہنچا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو حضرت نے غور سے دیکھا اور فرمایا: افسوس جو نعمت تم کو ملی تھی اس کی تم نے قدر نہیں کی اور اس کو بہت جلد کھو دیا تم سے کیا غلطی ہوئی سوچ کر بعد نماز ظہر مجھے بتانا۔ ظہر کی نماز کے بعد عاجز سے پھر دریافت فرمایا عرض کیا حضور عاجز سے تو کچھ غلطی نہیں ہوئی۔ فرمایا اچھا عصر کی نماز تک اور سوچو۔ بعد نماز عصر تنہائی میں چار پائی پر تشریف فرما ہوئے اور عاجز کو بلوایا۔ حاضر خدمت ہوا پھر وہی سوال کیا۔ عاجز نے نفی میں جواب دیا۔ فرمایا مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نامحرم لڑکی تمہارے ہاں آتی ہے اس سے کہو کہ وہ نہ آیا کرے اگر قریبی رشتہ دار ہے تو تمہاری اہلیہ کے پاس پر دہ میں آئے ورنہ نہیں۔ انسان کو چاہئے کہ اپنی نظر میں نیچی رکھے، نامحرم پر ارادۂ نظر ڈالنے سے برسوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، نظر کا تیر کم خطا کرتا ہے حضرات نقشبند نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ یہ فرمایا کہ حضرت نے عاجز کو دعا پڑھائی (تجدید بیعت کرائی) اور توبہ و استغفار کرائی، نیز یہ فرمایا کہ اگر تم اب میرے پاس دس گیارہ روزہ تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ جلسہ میں حاضر ہونے سے پہنچتا۔ جلسہ کے روزہ حضرات کا فیض بہت ہوتا ہے آئندہ سے جلسہ میں ضرور شامل ہونے کی کوشش کرو۔

حدیث شریف میں ہے: عَنْ حَدِيثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سَهَامِ ابْلِيسَ. رواه حاكم وابن حبان وصححه اسناداً (ترجمہ - حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غیر محرم کی طرف دیکھنا شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ اس کو حاکم اور ابن حبان نے روایت کیا اور اس کی اسناد کی صحت کی ہے۔ مؤلف)

(۳۸) حضرت قدس سرہ کی کرنال میں تشریف آوری کی اطلاع مرزا صاحب اور اس عاجز کو دہلی پہنچی جب ہم لوگ کرنال میں بھائی عبدالرحمن صاحب کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ حضور شدید دردِ گردہ میں مبتلا ہیں اور تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد استغراق میں ہو جاتے ہیں۔ مرزا صاحب اور یہ عاجز نماز کے لئے باہر گئے راستہ میں مرزا صاحب کہنے لگے میں نے ڈارٹھی رکھ لی ہے حضرت نے ڈارٹھی کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا جب واپس آئے تو حضرت نے فرمایا ”مرزا صاحب میں تمہارے ڈارٹھی رکھنے سے بہت خوش ہوں“ اس کے بعد آپ کو پھر استغراق ہو گیا۔ ہمارے پیچھے کے دوسرے روز مرض اور زیادہ شدت اختیار کر گیا اسی روز حضرت مولانا گوہانوی مدظلہ، اور صوفی علی نواز صاحب آپس میں خاموشی سے کچھ باتیں کر رہے تھے حضرت کو استغراق تھا یہ عاجز بھی حاضر تھا حضرت قدس سرہ کچھ دیر کے بعد ذرا چونکے اور فرمایا ”مولانا باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے ذکر کی حالت میں بیٹھو، بس موت سے نہیں ڈرتا۔“ پھر استغراق ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس عاجز سے مخاطب ہوئے ”دونوں دہلی جاؤ یہاں زیادہ آ رہے ہیں عبدالرحمن صاحب کو تکلیف ہوگی“

(۳۹) حاجی محمد شفیع صاحب نے سنایا کہ ایک دفعہ جبکہ حضرت صاحب جماعت کے لوگوں کے حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ العزیز کے مزار مبارک پر مراد میں تھے کہ ایک مرید کا جو تا کسی چور نے اٹھا لیا اور روانہ ہوا آپ کو کشف سے معلوم ہو گیا تو آپ نے اس کو پکڑوا دیا تلاش پر چوٹا اس سے برآمد ہوا۔

(۴۰) (از جناب سید مبارک علی شاہ صاحب کرناہلی) ایک دفعہ حضرت صاحب کربال تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چلنا ہے اور حضرت کا سر سید شریف تشریف لے جانے کا پہلا موقع تھا عاجز اور صوفی عبدالحق صاحب میرٹھی تم الدہلوی بھی ہمراہ تھے وہاں پہنچ کر ایک حجرہ میں قیام کیا اور فرمایا کہ یہ سجادہ نشین صاحب سے مل لیں لہذا ملنے چلے۔ راستہ میں فرمایا کہ اس طرح چلو کہ آپس کوئی ممتاز نظر نہ آئے مگر بقول شخص سے

مردِ حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشِ ذی شعور

سجادہ نشین صاحب فوراً تاڑ گئے اور کھڑے ہو کر پہلے حضرت سے معانقہ و مصافحہ بعد میں ہم سے اور خادم کو فوراً بلا کر حکم دیا کہ مزار مبارک کا قفل کھولو و حضرت مزار جائیں گے چنانچہ مزار مبارک پر پہنچے اور بڑی دیر تک مراقبہ فرمایا۔ فراغت کے فرمایا کہ مجدد صاحب بڑی ہیرا بانی سے پیش آئے اور فرمایا ہے کہ آج جنتی ٹکڑے آرام کریں اس لئے کسی خادم سے دریافت کرو کہ جنتی ٹکڑا کونسا ہے۔ خادم کو بتلایا اس نے نشاندہی کی کہ حضرت یہ اتنی جگہ جنتی ٹکڑا ہے لہذا تہجد تک وہاں آرام فرمایا اور اس عاجز کو بھی ساتھ ہی لیٹنے کا شرف حاصل ہوا۔

(۴۱) ایک دفعہ کربال تشریف لائے اور فرمایا کہ قلندر صاحب کے مزار

لنا ہے اتفاق سے اس روز جمعرات تھی اور باہر سے قوال آئے ہوئے تھے جو اس وقت  
 موجود تھے ادھر ہم لوگ پہنچے ادھر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا اور بہت سے  
 قین لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت اندر جا کر مراقب ہوئے ہم لوگ بھی ساتھ ہی مراقب  
 گئے ادھر بڑے زور سے قوالی ہونے لگی جو کہ مراقبہ کے منافی تھی۔ مراقبہ توڑ کر حضرت نے  
 ایسا کہ ان کو ذرا منع کر دو۔ حسب الحکم یہ عاجز باہر گیا اور ان کو منع کیا کہ تھوڑی دیر بھر کر  
 بجالینا مگر کئی شوقین ایسے تھے جنہوں نے کہا اجی جاری رکھو یہ تو ایسے ہی کہتے  
 تھے ہیں۔ میں خاموشی سے آکر پھر مراقبہ میں شامل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت  
 راکھے، تیزی سے باہر تشریف لے گئے اور ان سے جا کر کہا تو وہ فوراً خاموش ہو گئے۔  
 اطمینان سے مراقبہ کیا اور بعد فراغت دعا وغیرہ جب واپس ہوئے تو راستہ میں فرمایا  
 مندر صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ جا کر منع کریں تو وہ رک جائیں گے ورنہ میں ان  
 کو جانتا ہوں کہ وہ مانا نہیں کرتے۔

(۲۲) (از مستری شمس الدین صاحب) فقیر حضرت کے دولت خانہ پراچند پور  
 قیہ گیا ہوا تھا، واپسی میں اسی روز حضرت بھی دہلی و پانی پت کے سفر پر تیار تھے  
 کہ گاڑی کے آنے میں تھوڑی دیر باقی تھی اور اسٹیشن بھی دور تھا اس لئے عاجز  
 گاڑی پر پہنچنے کے لئے عرض کیا۔ فرمایا گاڑی ایک گھنٹہ لیٹ ہے چنانچہ جس وقت  
 لیٹن پر آئے تو معلوم ہوا کہ واقعی گاڑی لیٹ تھی۔

(۲۳) ایک مرتبہ جب کہ حضرت کرناں میں (ہفتے کے روز عصر کے وقت) بھائی  
 فی عبد الرحمن صاحب کے مکان پر تشریف فرما تھے تو یہ عاجز بھی احمد پور شرقیہ سے  
 آ گیا ہوا تھا۔ صبح کو فرمایا آج میری طبیعت چاہتی ہے کہ تمام دوستوں کے

ساتھ مراقبہ کروں، حالانکہ حضرت اقدس کا معمول تھا کہ تقریباً نو بجے تک علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے سے تھے لیکن اس روز ایسا ہی فرمایا چنانچہ بیٹھک میں انتظام کیا گیا مراقبہ کرنے سے پہلے فرمایا، بیٹا شمس الدین میرے پاس آؤ میں آپ کے لطائف تازہ کروں شاید پھر ملاقات نصیب ہو یا نہ ہو، آپ نے میری بہت خدمت کی ہے اور افسوس کہ یہ عاجز آپ کی کوئی خدمت نہ کر سکا اور آپ اپنے گھر چلے جائیں آپ کی والدہ صاحبہ آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، اس عاجز نے رات تہجد کے وقت آپ کے حق میں دو دفعہ دعا مانگی ہے جو کہ قبول ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا میں اچھی طرح سے رکھے گا۔ حضرت کا یہ فرمانا تھا کہ اس عاجز کو بچہ گریہ ہو گیا یہاں تک کہ تمام دن گریہ میں گذرا۔ یہ حضرت کی فقیر پر عین شفقت تھی چنانچہ جب یہ عاجز گھر پر آیا تو معلوم ہوا کہ والدہ صاحبہ بہت یاد کرتی تھیں۔ پھر اسی روز حضرت بیمار ہو گئے اور چند روز بعد اسی بیماری میں آپ کا وصال پانی پت میں ہو گیا اور پھر اس عاجز کو ملاقات نصیب نہ ہوئی۔ وہ رات اب تک جب فقیر کو یاد آجاتی ہے تو گریہ طاری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو حضرت کے ارشادات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

ایک روز بھائی صاحب

از حضرت خواجہ عزیز محمد صاحب قریشی ہاشمی مدظلہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ

گوہانہ ضلع ریتھک میں کوئی شخص ایک مریض کو لایا جس میں جن کا اثر تھا۔ عاجز نے اس جن کے آثار نے کا تعویذ لکھ کر دیا۔ اس تعویذ سے وہ جن اس مریض کو چھوڑ چلا گیا۔ جاتے وقت مجھ سے کہا کہ آپ نے تعویذ دیا ہے اس لئے میں جا رہا ہوں لیکن کبھی آپ سے ملاقات کے لئے ضرور آؤں گا۔ غالباً چھ سات مہینے کے بعد

ایک روز یہ عاجز احمد پور شرقیہ میں اپنے مکان کے کسی کمرہ میں لیٹا ہوا تھا کہ میری چار پانی خود بخود اوپر اٹھنے لگی اور معلق ہو گئی پھر نیچے زمین پر آ گئی۔ اس طرح کئی دفعہ ہوا کہ معلق ہوئی اور زمین پر آ گئی۔ اس کے بعد وہ جن ظاہر ہوا اور کہا کہ میں یہی جن ہوں جو فلاں جگہ فلاں موقع پر آپ کے تعویذ کی وجہ سے نکل گیا تھا اور وعدہ کر گیا تھا کہ ایک دفعہ آپ سے ضرور ملاقات کروں گا اس لئے آج آیا ہوں اور اب جا رہا ہوں اس کے بعد وہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جن کے اثرات مجھ پر اس لئے ہوئے کہ یہ عاجز بلا وضو سویا تھا۔

(۴۴) آخری مرتبہ حضرت والائے ہندوستان کے سفر پر بغرض تبلیغ اسلام جانے کا قصد فرمایا۔ ان دنوں حضرت والا کی طبیعت بہت ہی علیل رہا کرتی تھی اس وجہ سے ہم نے انہیں اس پر دو گرام کو تا صحت ملتوی رکھنے کا مشورہ دیا۔ لیکن حضرت والائے فرمایا "بھائی جان! گذرا ہوا وقت ہاتھ نہیں آیا کرتا آپ منع فرمائیں۔" نیز فرمایا "ممکن ہے ہندوستان سے پھر واپس نہ آسکوں اس لئے دعا بخیر لیتے رہے۔" اس کے بعد حضرت والا سفر پر تشریف لے گئے اور حسب الارشاد ہندوستان کے دورہ سے واپس نہ آ سکے۔ اور وہیں اس دار فانی سے دار البقاعی طرف تشریف لے گئے۔ یہ ان کا اہام تھا جو من وعن صحیح ثابت ہوا۔ واللہ اعلم۔

صاحبزادہ حضرت مولانا محمد صادق صاحب آپ کے کشفی واقعات

بکثرت ہیں جو روز مرہ  
 کبھی میں آتے تھے۔ ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ تبلیغ کے سفر  
 لئے پانی پت روانہ ہو رہے تھے۔ والدہ صاحبہ بہت دنوں سے بیمار تھیں اس رو

ظہر کے وقت والدہ صاحبہ کو روزمرہ سے زیادہ تکلیف شروع ہو گئی۔ وہی دن حضرت <sup>طالا</sup> کی تیاری و روانگی کا تھا۔ والدہ صاحبہ کی زبان سے لفظ اللہ زور سے نکلا۔ فرماتے لگے آج تمہاری والدہ کے فوت ہونے کا دن معلوم ہوتا ہے مگر ظاہری حالت سے ہوش معلوم ہوتا ہے۔ خیر میں سفر پر روانہ ہوتا ہوں تم مجھے اسٹیشن پر پہنچا کر جلدی ہی گھر آ جانا شاید کہ تمہاری والدہ کا آخری وقت ہو اور بخشش کی دعا کرانا اور معافی بھی مانگ لینا۔ اتفاقاً اسٹیشن کے قریب والے کنوئیں پر اس دن عاجز کو کام تھا۔ اسٹیشن پر حضرت کو سوار کرنا اور واپسی میں اس کنوئیں پر چلا گیا۔ وہاں معمول سے زیادہ دیر لگ گئی گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ والدہ صاحبہ سخت بیہوش ہیں کلام بھی نہیں کر سکتیں۔ اب بندہ بہت نادم ہوا کہ والد صاحب کے خرابان کے خلاف ہوا، کس طرح کروں۔ پس یہ عاجز گھر میں ایک طرف کونے میں جا کر بہت رو یا بعد میں والدہ صاحبہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ہوش میں آ گئی ہیں کمترین نے معافی کی درخواست کی دو تین گھنٹے پوری طرح ہوش رہا کمترین کو معاف کیا اور خوش ہوئیں۔ بعد میں شام کے وقت پھر بیہوش ہو گئیں اور اسی حالت میں آپ کی روح اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ تار کے ذریعہ والد صاحب کی خدمت میں سمسٹہ اسٹیشن پر اطلاع دی گئی چونکہ گاڑی ابھی وہاں سے بٹھنڈہ کو روانہ نہیں ہوئی تھی لیٹ تھی اس لئے آپ کو تار وصول ہو گیا اور آپ سمسٹہ سے واپس گھر تشریف لے آئے۔ اسٹیشن ماسٹر نے فوراً گاڑی پر سوار کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا مگر یقین کا درجہ حاصل نہیں تھا اور دوستوں سے وعدہ کر چکا تھا اس کا ایفا ضروری تھا۔ کشف کے خلاف



جو کچھ کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ اس پر یقین کا درجہ نہیں رکھنا چاہئے۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر میں واپس نہ آتا تو لوگ چہ میگوئیاں کرتے کہ میت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے روانہ ہو گیا۔

(۴۶) ایک مرتبہ احمد پور شرقیہ میں حضرت قبلہ والد صاحب کی خدمت میں مستری شمس الدین صاحب کا ندھلہ والے ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے تھے حضرت والا سے کوئی چیز بنوانے کی فہمائش کی۔ اس وقت بندہ زیرِ تعلیم تھا۔ حضرت والا کو میری کتابوں کا خیال پیدا ہوا جو ادھر ادھر بکھری پڑی رہتی تھیں مجھ سے فرمانے لگے ”مستری صاحب کے ساتھ چلے جاؤ اور الماری کے لئے چیل کے تختے خرید لاؤ۔“ ہم دونوں ریلوے پٹری کے پرانے ٹین سیلپرنس روپے میں خرید کر لائے۔ مستری صاحب موصوف نے بڑی محنت سے الماری تیار کی جو قد آدم سے قدرے بڑی تھی اور فی زمانہ وہ تقریباً تین سو روپے میں تیار ہوتی ہوگی۔ حضرت والا نے بندہ سے فرمایا ”بیٹا! اسے اٹھوا کر اپنے کمرے میں رکھو اور داد اس میں اپنی کتابیں وغیرہ رکھا کرو۔“ میں نے عرض کیا کہ اٹھوالوں کا بسستی اور لا پرواہی میں ایک عرصہ گزر گیا۔ حضرت والا نے اپنے آخری دورہ ہندوستان پر جانے سے قبل چند آدمیوں کو بلوا کر وہ الماری میرے کمرے میں رکھوادی اور مجھ سے فرمایا ”بیٹا یہ صرف تمہاری ملکیت ہے“ غالباً حضرت والا کو اپنی موت کا الہامی طور پر علم ہو چکا تھا اور ورثہ وغیرہ میں رشتہ داروں کے جھگڑنے کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے الماری کو اپنی جیات ہی میں میری ملکیت بنا گئے۔ چنانچہ وہ آج تک میرے پاس موجود ہے۔

الماری تیار ہونے کے بعد حضرت والا نے خوش ہو کر مستری صاحب موصوف کو

ایک بکری جو اس وقت ڈیڑھ دو سیر دودھ دیا کرتی تھی ہدیۃً عنایت فرمائی جسے انھوں نے برکت سمجھتے ہوئے بخوشی قبول کیا اور بذریعہ ریل گاڑی ہندوستان اپنے گھر سمراہ لے گئے۔ واللہ اعلم۔

از مولانا عبداللہ خاں صاحب احمد پوری: ایک مرتبہ یہ عاجز عصر کی نماز سے پہلے حضرت کی خدمت میں دولت خانہ پر حاضر ہوا۔ جب دروازہ پر پہنچا تو حضرت صاحب ڈیوڑھی کے دروازے پر اچانک تشریف لائے۔ حضرت پر کچھ کیفیت طاری تھی۔ اس عاجز کو دیکھتے ہی آپ نے یہ خیال فرمایا کہ یہ سعید ہے۔ اسی دن سے عاجز پر قافی الشیخ کی حالت ہو گئی۔ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میں ہر وقت حضور کو اپنے ساتھ دیکھتا ہوں بلکہ جب بیت النخل میں جاتا ہوں تو آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہوں تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ حضرت صاحب نے عاجز کے ناما صاحب سے جو حضرت کے پر بھائی تھے فرمایا کہ بھائی عبداللہ فلاں روز آئے مجھ پر ایک کیفیت طاری تھی جب یہ سامنے آئے تو میں نے خیال کیا کہ یہ سعید آ رہا ہے اسی دن سے ان کو قافی الشیخ کی حالت ہو گئی۔ اگر حضرت صاحب کی زیارت نہ ہوتی تو بدن پھٹنا معلوم ہوتا تھا۔

( ایک مرتبہ حضرت صاحب جنی گوٹھ اپنے رقبے پر تشریف لے گئے۔ جب اس تشریف لائے تو دریافت فرمایا کیا آپ نے کچھ خواب دیکھا تھا۔ عاجز نے عرض کیا کہ خواب تو نہیں دیکھا لیکن مغرب کی نماز کے بعد مراقب ہوا تو آپ کو ایک مسجد میں دیکھا اس کی نشانیاں بھی بتائیں۔ عرض نے فرمایا کہ آپ نے مسجد ٹھیک بتائی ہے۔ اور فرمایا میں نے دل میں خیال کیا تھا کہ اگر عبداللہ یہاں ہوتا تو اچھا تھا۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے درمیان کا راستہ کھول دیا اور آپ کو یہ انکشاف فرما دیا۔ (حضرت صاحب کی توجیحات میں ایسی قوی تاثیر تھی کہ فاصلہ اور اس کی کشافیں حاصل نہیں ہوتی تھیں۔ مؤلف)

# وصال

حاصلِ عمرم سے سخن بیش نیست خام بدم، پختہ شرم سو ختم  
آپ کو اکثر دردِ گردہ وغیرہ کی شکایت رہتی تھی اور یہ غالباً ریاحی اثرات سے  
تی تھی۔ ۱۳۶۳ ہجری غالباً ربیع الاول کے آخر میں (مطابق ۱۹۴۴ء) آپ اپنے  
ن مالوف سے بغرض تبلیغِ ہندوستان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت مستری  
س الدین صاحب (اسمعیل آباد والے جو کچھ عرصہ پہلے سے حضرت کے دربار کی پر  
ضرت تھے اور اس وقت وہیں مقیم تھے) ہمراہ سفر ہوئے۔ کرناٹک میں تشریف لاکر بھائی  
دا الرحمن صاحب کے مکان پر قیام فرمایا اور وہاں سے جماعت کے لوگوں کو مختلف  
قامات پر بذریعہ خطوط اپنی تشریف آوری کی اطلاع دی اور سفر کا پروگرام بھی  
عبر فرمایا۔ خطوط لکھنے کے بعد مراقبہ فرمایا جو بہت طویل تھا، حاضرین سب حیران  
تھے کہ آج تو بہت دیر تک مراقبہ فرمایا، سب تھک گئے اور پہلو بدلتے رہے مگر حضرت  
مستور ایک ہی حالت پر بیٹھے رہے، پھر اسی روز آپ کو دردِ گردہ کی تکلیف متروہ ہو گئی  
و بدن بدن بڑھتی چلی گئی، بہت علاج کئے مگر کوئی ظاہری فائدہ نہ ہوا۔  
راقم الحروف بھی اطلاع ملنے پر دہلی کے دوسرے اجاب کے ہمراہ کرناٹک

حاضر خدمت ہوا اور دیکھا کہ حضرت کی صحت بہت گرہلی ہے اور نقاہت بہت بڑھ گئی  
 ایک روز حضرت قدس سرہ نے مولانا محمد سعید گوبانوی و بعض دیگر حضرات سے  
 فرمایا کہ میرے اس مرض کے علاج وغیرہ کے متعلق استخارہ کرو چنانچہ استخارہ کیا گیا  
 دوسرے روز آپ نے ان حضرات سے دریافت فرمایا کہ میرے متعلق کوئی خواب دیکھا  
 حضرت مولانا گوبانوی مدظلہ العالی کا بیان ہے کہ ایک شخص نے کہا "حضرت میں  
 یہ دیکھا کہ موٹر چل رہی ہے مگر ڈرائیور نہیں ہے، اور اس عاجز (مولانا گوبانوی) نے  
 عرض کیا "میں نے دیکھا کہ آپ کی بکریاں اور میری بکریاں مخلوط ہو گئی ہیں، حضرت  
 صاحب نے فرمایا "بس اب زندگی سے ناامیدی ہے۔"

ایک روز جب صحت کی طرف سے یا یوسی زیادہ ہوئی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے  
 وصیت فرمائی کہ اگر یہاں میرا انتقال ہو جائے اور قلندر صاحب کے مزار مبارک کے  
 حدود میں کوئی جگہ مل جائے تو وہاں دفن کر دیں ویسے سب کو تسلی دیتے رہے اور یہ  
 ضبط سے کام لیا بلکہ بعض اجاب کو تو ان کی ضروریات کے پیش نظر رخصت بھی فرما  
 ایک روز اس عاجز نے عرض کیا کہ یہاں علاج سے کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہو رہا  
 مناسب یہ ہے کہ دہلی تشریف لے چلیں وہاں اچھے تجربہ کار حکیم و ڈاکٹر موجود ہیں اور  
 علاج کی ہر طرح کی سہولتیں بھی ہوتی ہیں، دیگر حضرات نے بھی اس رائے سے اتفاق  
 آپ نے کچھ دیر سوچ کر فرمایا کہ حاجی عبدالقیوم صاحب کو پانی پت میں اطلاع دید  
 اور یہاں بلوالو، ان کے آنے پر مشورہ کیا جائے گا چنانچہ حاجی صاحب کو غالباً بذ  
 تاریخ بلوایا گیا، ان کے آنے پر مشورہ کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ دہلی کی بجائے پانی پت  
 لے جایا جائے وہاں بھی ہر قسم کی سہولتیں موجود ہیں اور قریب بھی ہے چنانچہ موٹر

پانی رکھ کر اس پر حضرت کو لٹا کر آہستہ رفتار سے موٹر کو پانی پت لے گئے وہاں جناب  
 عبد القیوم صاحب کے مکان پر قیام فرمایا اور یونانی و ڈاکٹری علاج شروع ہوا  
 دردِ گردہ میں کوئی آفاقہ نہ ہوا اور مرض نے شدت اختیار کر لی تو قادموں نے اصرار کیا  
 حمد پور شرقیہ میں آپ کے صاحبزادوں کو نار دیکیں، آپ نے منع فرمایا کہ ابھی تازہ دیں۔  
 غرضیکہ وصال سے دو روز پہلے بہت زیادہ دست اور قے آئیں جس میں بہت  
 بلایا مادہ خارج ہوا۔ دوسرے روز طبیعت میں درد سے کچھ سکون ہوا اور سب کو  
 لہوا کہ اب انشاء اللہ آرام کی صورت ہے۔ اس روز حضرت نے بال ترشوائے  
 ن وغیرہ سب ٹھیک کرائیں۔ اس کے بعد رات کو پھر طبیعت گرنی شروع ہوئی اور  
 نغراق کی کیفیت زیادہ طاری ہو گئی۔

م وہیں تمنا کہ بوقتِ جاں سپرن بہ رخ تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی  
 درد تو پھر نہیں ہوا مگر حالتِ نخطہ بلخطہ کمزور ہوتی چلی گئی۔ دوسرے روز جمعہ کا  
 تھا اور ربیع الثانی ۱۳۶۳ ہجری کی انیس تاریخ (مطابق ۱۴ اپریل ۱۹۴۴ء) آپ  
 طبیعت بہت نحیف اور نڈھال ہوتی گئی اور استغراق بڑھتا گیا۔ تقویتِ قلب کیلئے  
 زہ وغیرہ دیا گیا مگر نماز جمعہ کے وقت سے پہلے حالت زیادہ غیر ہو گئی چنانچہ جمعہ کی  
 ز کے وقت چند فقار حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے اور باقی نماز کے لئے چلے گئے  
 جب یہ لوگ نماز پڑھ کر آگئے تو وہ باقی لوگ بھی دوسری مسجد میں جہاں جمعہ دیر  
 پاتا تھا چلے گئے۔ جمعہ کی نماز کے بعد جب سب لوگ آگئے تو حضرت نے حاجی عبد القیوم  
 صاحب کی طرف دیکھ کر اشارہ سے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھاؤ۔ حاجی صاحب نے سمجھا کہ شاید  
 سری نماز کے متعلق پوچھ رہے ہیں اس لئے جواب دیا کہ میں نماز پڑھ آیا ہوں۔ حضرت کے

دوبارہ اشارہ فرمانے پر دوسرے ساتھیوں نے حاجی صاحب کو بتایا کہ حضرت نماز کے لئے تیمم کرانے کو فرما رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے ڈھیلا لیکر حضرت صاحب آگے رکھ دیا اور حضرت کا نشانہ سمجھ سکے کہ اپنے ہاتھ سے تیمم کرادیں کیونکہ حضرت ہاتھ بوجہ تقاہت اٹھ نہیں سکتے تھے اور نبض بھی وہاں محسوس نہیں ہوتی تھی آخر راقم الحروف نے اپنے ہاتھوں سے ڈھیلا پر مسح کر کے حضرت کو تیمم کرایا۔ اس کے بعد نے بڑے اطمینان سے بیٹھ کر نماز پڑھا اور فرمائی اور رکوع و سجدہ تک یہ پر کیا رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے (سنائی عن انس رضی اللہ عنہ)

جمعہ سے پہلے تقریباً گیارہ بجے حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا آخری وقت ہے جماعت کے لئے کوئی ہدایت، کوئی وصیت، یا کسی اجازت وغیرہ کے لئے ارشاد فرمادیں تو مناسب ہے اس وقت آپ کی زبان کمزوری و لکنت تھی الفاظ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے تھے اثبات میں گردن ہلانے اور اجازت کے لئے جناب محمد عمر صاحب کیمقل والے اور جناب قاری صنعت اللہ پانی پتی کی طرف اشارہ فرمایا اس وقت حضرت مولانا گوہانوی صاحب نے حضرت مستری شمس الدین صاحب کے متعلق فرمایا کہ وہ آپ کو بہت یاد کرتا ہوا گیا ہے اور اس کی حالت بہت اچھی ہے وغیرہ (وہ اس وقت موجود نہیں تھے بلکہ کرنال سے حضرت کے ارشاد و اجازت پر تشریف لے جا چکے تھے) ان کے متعلق بھی اشارہ سے اجازت فرمائی اور اثبات میں گردن ہلانی، غالباً زبان سے بھی ان حضرات کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا جو سمجھ میں نہ آسکا۔ عصر سے ذرا پہلے آپ پر نزع کی غالب کیفیت طاری ہو گئی۔ حاجی محمد شفیع صاحب کے توجہ دلانے پر چار پائی شمالاً جنوباً کی گئی تاکہ قبلہ کی طرف

رخ ہو جائے اس کے تھوڑی دیر بعد ایک دو سچکیاں آئیں اور روح مبارک قفسِ عنبری سے پرواز کر گئی انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حاضرین رونے لگے، حاجی محمد شفیع صاحب وغیرہ سمجھ دار لوگوں نے آپ کے جسم کو ٹھیک کیا اور کپڑا ڈھانک دیا۔ انا فانا یہ خبر تمام شہر میں پھیل گئی۔ لوگ جوق در جوق آنے لگے اور اظہارِ افسوس کرنے لگے اس وقت کبھی کبھی چہرہ مبارک سے کپڑا اٹھا کر دیکھا گیا تو اب چہرہ پر نقاہت وغیرہ کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ صحت کی حالت میں آرام سے سوتے ہوئے ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا  
 اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَآخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ اور آپ کی حالت اس قطعہ کے مصداق تھی۔

یاد داری پوختِ زادین تو ہم خنداں بُدند و تو گریاں  
 ہم چتاں زری کہ وقتِ فتنِ تو ہم گریاں شوند و تو خنداں

ایضاً

ولو قلت لی مت مت سمعاً و طاعةً و قلت لداعی الموت اهلاً و مرحباً

ایضاً

مصحف بکف و پا پرہ و دیدہ بہ دوست با پیکِ اجل خندہ زباں پیروں شد  
 قبر کے لئے آپ کی زندگی ہی میں یعنی جمعہ کی صبح ہی کو آپ کی خواہش کے مطابق

لے کیا مجھے یاد ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا (پس) تو اس طرح زندگی بسر کر کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو سب (تیرے لئے) رو رہے اور تو ہنس رہا ہو۔ لے اور اگر تو مجھ سے کہے کہ مر جا تو میں سن کر فرما برداری کرتے ہوئے (فورا) مر جاؤں اور موت کی طرف بلانے والے کو اھلاً و سھلاً (خوش آمدید) کہوں۔ لے قرآن مجید ہاتھ میں اور پاؤں رستہ پر اور آنکھیں دوست کی طرف تھیں اس طرح موتِ فاسد کے ساتھ ہنستا ہوا چلا گیا۔

حضرت مولانا قاری محمد عبدالرحمن صاحب محدث پانی پتی قدس سرہ کے مزار مبارک کے قریب ان کے وارثین سے اجازت لے لی گئی تھی اور اس بات سے حضرت کو بہت اطمینان حاصل ہوا تھا۔ بہر حال رات کو ہی غسل دیدیا گیا اور تکفین کر دی گئی اور صبح سویرے قبر کے کھودنے کا انتظام ہو گیا۔ تقریباً آٹھ بجے صبح جب دہلی اور کرناٹک کی طرف سے آنے والی گاڑیاں آچکی تھیں اور ادھر سے آنے والے حضرات جن کو بذریعہ تار اطلاع دی گئی تھی شامل جنازہ ہو گئے تو نماز جنازہ پڑھی گئی اور تدفین کی گئی اور یہ ماہ منور ہمیشہ کے لئے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو گیا۔ کئی علمائے کرام اس میں شامل تھے اس لئے ان کے زیر ہدایت سب کام کیا گیا۔

آپ کا مزار مبارک کچا ہے اس کے چاروں طرف کچھ جگہ چھوڑ کر جالی دار دیوار بنائی گئی تھی تاکہ لوگ بعد فاتحہ خوانی وہاں بیٹھ کر مراقبہ وغیرہ کر سکیں۔ آپ کے مزار مبارک پر کوئی کتبہ لگا ہوا نہیں ہے بعد میں بعض اجاب نے تجویز کی تھی کہ کتبہ بھی لگایا جائے اور چاروں طرف جو جگہ مراقبہ وغیرہ کے لئے چھوڑی ہوئی ہے اس میں سنگ مرمر کا فرش لگا دیا جائے، سامان بھی خرید لیا گیا تھا کہ انقلاب آیا اور سب مسلمان ادھر سے ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے اور وہ ارادہ مجبوراً پورا نہ ہو سکا۔ سنگ مرمر کے چوکے وہیں قریب کی زمین میں دفن کر دیئے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار مبارک کو تاقیامت منور اور مرجع انوار و خلافت بنائے۔ آمین

کرناٹک اور پانی پت میں کئی بار حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ گھر پر تار وغیرہ سے آپ کی بیماری کی اطلاع دیدیں لیکن حضرت منع فرماتے رہے کہ صحت ہونے پر اطلاع دیدیتا ابھی نہیں جتنی کہ پانی پت میں جمعرات کو (وصال سے ایک



روز قبل) مزید اصرار پر بادل ناخواستہ اجازت دی لیکن اللہ کی مرضی کہ وہ تار وہاں  
وقت پر نہ مل سکا بلکہ دوسرے روز وصال کا تار دیا گیا وہ وہاں بلا اور اس اطلاع پر  
صاحبزادہ صاحب اور چچا صاحب (حضرت مرحوم کے چھوٹے بھائی جناب عزیز محمد قریشی  
صاحب مدظلہ العالی) وغیرہ تشریف لائے مگر آپ ایک دن پہلے مدفون ہو چکے تھے۔  
آپ کے دو صاحبزادے اور ایک صاحبزادی حیات ہیں اللہ پاک  
**اولادِ امجاد** ان کی عمر دراز فرمائے اور شریعتِ مطہرہ پر قائم رکھے۔ حضرت  
کے دونوں صاحبزادے عالم باعمل اور مجازِ طریقت ہیں۔ بڑے صاحبزادے حضرت  
مولانا مولوی محمد صادق صاحب جامعہ عباسیہ بھادولپور کے قاریغ التحصیل علامہ  
اور پنجاب یونیورسٹی کے مولوی فاضل بھی ہیں اور احمد پور شرقیہ کے مدرس رفیق العلماء  
کے صدر مدرس ہیں وہ تہایت ذہین الطبع، صفائی مہ املات اور تقویٰ و طہارت  
کے حامل ہیں۔ دوسرے صاحبزادے حضرت مولانا مولوی محمد شریف صاحب نے  
ابتدائی کتابیں احمد پور شرقیہ میں پڑھیں اور دہلی کے مدرسہ امینیہ میں دورہ حدیث  
کی تعلیم اور سند حاصل کی۔ سرکاری مدرسہ میں ملازم ہیں اور تہایت خاموش طبع  
اور خوش خلق ہیں۔ دونوں صاحبزادگان حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف  
ہو چکے ہیں۔ ہر سہ اولادِ امجاد صاحب اولاد ہیں۔ اللہ پاک ان کے سلسلہ نسب  
کو تاقیام قیامت جاری و قائم رکھے۔ آمین۔



# خلفائے عظام

(۱) حضرت مولانا امیر اللہ خاں المعروف بہ محمد عمر رضا رحمۃ اللہ علیہ

آپ صوبہ سرحد میں ہوتی مردان کے رہنے والے تھے مدرسہ امینیہ دہلی میں پڑھتے تھے حضرت مولانا مولوی عبدالغفور صاحب عباسی مہاجر مدنی رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں تھے۔ مثنوی میں طریقت اور جذب وغیرہ پر اعتراض کرتے تھے بعدہ خود جذبہ سے متاثر ہو کر داخل سلسلہ ہوئے اور سلوک طے کرے صاحب اجازت ہوئے۔ یہ حضرت کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ سرحد کے علاقہ میں تبلیغ کا کافی کام کیا اور بہت لوگ داخل سلسلہ ہو کر فیضیاب ہوئے۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ بہت سادہ طبیعت، کم گو اور عالم با عمل تھے۔ سرحد ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے مزید حالات ان کی بیعت کے بیان میں درج ہو چکے ہیں۔

(۲) حضرت مولانا حاجی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ

آپ رتھک کے رہنے والے، تہایت درویشخانہ و بزرگانہ خصائل و شمائل کے حامل تھے۔ پولیس میں تھانیداری کے عہدے سے پنشن پر پہنچے تھے۔ تھانیداری کے زمانے میں بھی تہایت نیک تھے اور رشوت وغیرہ سے سخت نفرت تھی۔ اپنی والدہ ماجدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ والدہ صاحبہ ہی کی دعاؤں نے مجھے اس درجہ تک پہنچایا۔ مثال کے طور پر اس سلسلہ میں ان کے واقعات عرض کئے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک دفعہ میری خواہش ہوئی کہ میں شتر سواروں میں شامل ہو جاؤں

میں کبھی اونٹ پر نہ چڑھا تھا اور نہ میرے گھر اونٹ تھا اور اس عہدہ پر اچھے شتر سوار خاص طور پر جن کے گھر کا اونٹ ہوتا، لئے جاتے تھے۔ میں نے والدہ صاحبہ سے دعا کرائی جب اس کے امتحان میں شامل ہوا تو اونٹ پر چڑھ بھی نہ سکا۔ صاحب نے کہا کہ یہ تو بہت نکمّا آدمی ہے یہ اس کے قابل نہیں ہے لیکن جب دفتر میں بیٹھ کر امیدواروں کی فہرست لے کر دیکھے لگا تو میرے نام پر نشان لگا کر مجھے اندر بلا یا اور دیکھ کر کہنے لگا یہ تو وہی آدمی ہے جو سوار بھی نہ ہو سکا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم اونٹ خرید سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، تو کہنے لگا اچھا تم کو شتر سوار مقرر کر دیا۔ والدہ صاحبہ کی دعاؤں سے میرا تقرر ہو گیا اور اچھے اچھے شتر سوار جن کے گھر کے اونٹ تھے رہ گئے۔

دیگر فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے والدہ صاحبہ سے عرض کیا کہ میں پھلور تھا نینداری کی ٹریننگ کے لئے جانا چاہتا ہوں، پوچھا کتنے دن لگیں گے؟ میں نے عرض کیا آٹھ مہینے کی ٹریننگ ہے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا بیٹا! تو نہ جانا تیرے پیچھے میری کون خدمت کرے گا اللہ پاک تجھے یہیں تھا نینداری بنا دے گا۔ چنانچہ یہ عاجز نہیں گیا اور والدہ صاحبہ کی دعاؤں سے ان لوگوں کے ٹریننگ سے واپس آنے سے پہلے ہی مجھے تھا نینداری بنا دیا گیا۔ آپ نہایت ہی سادہ مزاج اور بھولی بھالی طبیعت کے تھے۔ زبان میں اثر تھا تہہ رتہ تک کے ہندو مسلمان سب آپ کے معتقد تھے اور جھاڑ پھونک اور تعویذات کے لئے کثرت سے آتے تھے۔ مرنجان و مرنج طبیعت پانی تھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے بعد کثرت سے نوافل پڑھتے اور نقلی روزے رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ذکر کی برکت سے میں جوان ہو گیا ہوں۔ اکثر وعظ فرمایا کرتے تھے جس میں زیادہ تر بزرگوں کے واقعات کے علاوہ حمد و نعت اور نیک اخلاق کے متعلق اشعار

کثرت سے پڑھتے تھے۔ بڑا موثر و عطا ہوتا تھا۔

آپ کی اجازت بیعت سلسلہ کا واقعہ اس طرح پر ہے کہ ایک دفعہ قیروہ کے سالانہ جلسہ میں حضرت مولانا محمد سعید صاحب گویا نوی مدظلہ العالی اور حاجی محمد شفیع صاحب رستکی آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت مولانا عبدالمجید صاحب کا اپنے لئے خیال تھا کہ حضرت تبلیغ اور بیعت کی اجازت مجھے بھی مرحمت فرمادیں۔ جب حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ مراقبہ میں بیٹھے تو مولانا موصوف کو حال ہوا کسی نے کہا کہ جس چیز کے تم اہل نہیں ہو اس کی خواہش کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا "اُسے دینے کی عادت ہے اور مجھے مانگنے کی"۔ اوکما قال۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حال سنایا تو آپ اس جواب پر بہت خوش ہوئے چنانچہ اسی جلسہ میں حضرت مرشدنا رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے ان دو آدمیوں یعنی حضرت مولانا عبدالمجید صاحب رستکی اور حضرت مولانا گویا نوی مدظلہ کو حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ نے بیعت سلسلہ کی اجازت سے مشرف فرمایا۔ صاحب اجازت ہونے کے بعد سلسلہ کی تبلیغ بھی کی اور کافی لوگ آپ سے مرید ہو کر فیض یاب ہوئے۔ حضرت قدس سرہ کی حین جیات میں ہی آپ کا وصال ہو گیا اور شہر رستک میں ہی حضرت چپ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے قریب دفن ہوئے۔ آپ کے مزار مبارک سے انوار و برکات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔

جناب صوفی محمد احمد صاحب سے روایت ہے کہ حضرت حاجی عبدالمجید صاحب کا جہاں مزار شریف ہے اس جگہ پر مولانا صاحب موصوف اپنی زندگی میں رات کو مریدوں اور دوستوں کے ہمراہ بیٹھ کر ختم شریف پڑھتے تھے اور تمام رات ذکر و مراقبہ میں

گزارتے تھے۔ اس قسم کی مجلس ہینے میں ایک دفعہ ہوتی تھی۔ ایک دن اس عاجز  
 (محمد احمد صاحب) نے سوال کیا کہ حضور آپ ہمیشہ اسی جگہ کیوں تشریف رکھتے ہیں  
 فرمایا مجھے اس جگہ سے خاص محبت ہے۔ حضور کے وصال کے بعد جب مزار شریف پر  
 زیارت کے لئے حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ اسی جگہ پر مزار شریف ہے جہاں حضرت مولانا صاحب  
 مرحوم ہمیشہ تشریف فرما ہوتے تھے آپ نے عصر کی نماز سے پیشتر وصال فرمایا۔

حاجی صاحب کے ایام مرض الموت میں حضرت پیر و مرشدنا قدس سرہ کار ہنگ  
 میں ورد مسعود ہوا راقم الحروف بھی ساتھ تھا۔ حضرت نے بہت سے وصایا اور نصائح  
 آپ کو فرمائے۔ آپ کے دو صاحبزادے جو پولیس میں تھا نیندار تھے تہایت فرمانبردار  
 اور صالح ہوئے ہیں۔ چھوٹے صاحبزادے عبدالرحمن صاحب کا انتقال ہو چکا ہے یہ  
 حضرت سے بیعت بھی تھے۔ نور اللہ تعالیٰ مرقدہما و جعل الجنة مثواہما  
 بڑے صاحبزادے غلام فرید صاحب جات ہیں اور بہت نیک و صالح ہیں۔

(۳) حضرت مولانا محمد سعید صاحب گوہانوی مدظلہ العالی

آپ صوبہ سرحد کے رہنے والے اور افغان ہیں۔ ملکی تقسیم سے پہلے گوہانہ ضلع رتھک  
 میں قیام فرماتے اور محلہ کلاں قصاباں میں پیش امام تھے۔ حضرت کے ساتھ سفر میں  
 بہت رہے ہیں، عالم ہیں اور وعظ گوئی میں بہت اچھا ملکہ رکھتے ہیں۔ گوہانہ میں حضرت  
 کے قیام وغیرہ کا انتظام اکثر و بیشتر آپ ہی کے اہتمام سے ہوتا تھا۔ آپ کی پہلی بیوی  
 جو صوبہ سرحد ہی کی رہنے والی تھیں حضرت کی مریدنی تھیں اور حضرت کی اور  
 بہانوں کی بہت خدمت کرتی تھیں بڑی محبت والی بزرگ عورت تھیں ان سے  
 کوئی اولاد نہیں ہوئی، ان کا انتقال گوہانہ ہی میں ہوا اور حضرت نے خود ان کے

جازہ کی نماز پڑھائی، تجہیز و تدفین میں شامل رہے اور بہت رنج کیا۔ اس کے بعد حضرت کی دعا اور مشورہ سے دوسری شادی گواہانہ ہی میں کی یہ بھی نسل پٹھان ہیں، ان کے والد صاحب پہلے گواہانہ میں پیش امام تھے مگر اس وقت وہ فوت ہو چکے تھے اس لئے مولانا کی خوشدامن صاحبہ نے جو بفضلہ تعالیٰ زندہ ہیں یہ رشتہ کر دیا۔ مولانا کے غالباً چھ لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو مع والدین کے دراز کرے اور عالم باعمل بنائے۔ آمین۔

مولانا موصوف نے تبلیغ میں بہت حصہ لیا۔ بہت سے لوگ مولانا سے صاحب اجازت ہوئے مشترکہ ہندوستان میں مختلف مقامات پر تبلیغ کے لئے تشریف لیجائے تھے اور اب پاکستان میں بھی تبلیغ کے لئے متعدد مقامات پر تشریف لے جاتے رہتے ہیں اور بہت لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں (پاکستان بننے کے بعد ہندوستان بھی ۱۹۵۲ء میں تشریف لے گئے تھے) نہایت صالح، متقی، باعمل اور طریقہ سلسلہ کے پابند ہیں۔ بہت خوش خلق، متواضع اور ملنسار ہیں، زیارتِ حرمین شریفین سے مشرف ہو چکے ہیں۔ آج کل شہر مظفر گڑھ (پنجاب) میں قیام پذیر ہیں۔ اطال اللہ تعالیٰ بقاء و ادام علینا ظلہ وبرکاتہ۔

(۴) حضرت مولانا مفتی محمد عبدالرحیم صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ پانی پت ضلع کرناں کے رہنے والے بڑے جید عالم حافظ و قاری اور باعمل بزرگ تھے۔ پانی پت کے مدرسہ گنبدان میں صدر مدرس تھے نہایت خوش خلق متواضع محبت والے اور مرعبان و مرخ طبیعت کے بزرگ تھے۔ نہایت سادہ، حلیم و خوش

لہ اب کبیر والہ ضلع ملتان میں سکونت اختیار کر لی ہے (مؤلف)

طبع تھے۔ حضرت صاحب کے تقویٰ اور بزرگی سے متاثر ہو کر بیعت ہوئے اور صاحب اجازت ہونے کے بعد تبلیغ بھی کی خصوصاً پانی پت کے قُرب و جوار میں بہت جاتے تھے لیکن زیادہ تر وقت درس و تدریس میں گزرا۔ وعظ گوئی میں بہت اچھا لکھ تھا، آپ کا وعظ تہایتِ مدلل اور سلیس زبان میں عام فہم اور موثر ہوتا تھا، پاکستان بننے پر نگھیانہ ضلع جھنگ میں قیام پذیر ہوئے اور وہیں انتقال فرمایا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ (مفتی عبدالرحیم پانی پتی کے اعداد سے آپ کی تاریخ وصال برآورد ہوتی ہے یعنی ۱۳۸۴ھ) بہت مقبول خلائق تھے۔ دیوبند کے فارغ التحصیل تھے ان کے بڑے صاحبزادے بھی حافظ قاری اور عالم ہیں۔ ان کے دو بھائی بھی عالم ہیں۔ چھوٹے بھائی عبدالحکیم صاحب حضرت سے بیعت ہوئے مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد جناب صوفی علی نواز صاحب (حضرت کے خلیفہ) سے بیعت کر کے صاحب اجازت ہوئے اور نگھیانہ ضلع جھنگ میں مقیم ہیں۔

(ان چار حضرات اور اہقر مؤلف کو حضرت دادا پیر صاحب خواجہ محمد فضل علی صاحب قدس سرہ نے حضرت پیر و مرشدنا رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کرنے پر اپنی زبان مبارک سے اجازت فرمائی تھی۔ باقی حضرات بالبعد الذکر کو حضرت دادا صاحب کے وصال مبارک کے بعد خود حضرت صاحب قدس سرہ نے بنفس نفیس اجازت مرحمت فرمائی (واللہ اعلم)۔  
(۵) حضرت حاجی محمد شفیع صاحب رہنکی رحمۃ اللہ علیہ

آپ رہنک کے رہنے والے تھے تجارتی سلسلہ میں دہلی آتے جاتے رہتے تھے اور ڈپٹی ایجنٹ کی مسجد میں حضرت صاحب کی بیعت سے مشرف ہوئے تھے۔ بڑے بیزب و کشف والے

لے تاریخ از جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب ایم اے پنی ایچ ڈی۔

بزرگ تھے جس سال حضرت قدس سرہ حج کو تشریف لے گئے تو واپسی پر حاجی صاحب کو لکھا کہ احمد پور شرقیہ آ جاؤ۔ اگر کرایہ نہ ہو تو ایک طرف کا کرایہ بھی میں دیدوں گا۔ حاجی صاحب اور ان کی والدہ صاحبہ اور دیگر چند حضرات حافظ محمد یونس صاحب وغیرہ ہمراہ سفر ہو کر احمد پور شرقیہ پہنچے۔ حضرت صاحب نے ایک روز حاجی صاحب کو سب سے الگ بلا کر فرمایا کہ میں نے آپ کو اس لئے بلایا ہے کہ آپ کی امانت میرے پاس ہے وہ دیدوں یعنی آپ کو بیعت سلسلہ کی اجازت ہے۔ حاجی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں اس قابل نہیں۔ حضرت نے فرمایا میرے بعد تمہیں اس کی قدر ہوگی ابھی تم اس کا اظہار نہ کرنا میں رہتک اگر خود ظاہر کر دوں گا (بروایت حاجی صاحب)

حاجی صاحب نے سلسلہ کی تبلیغ بھی کی اور کچھ لوگ مرید بھی ہوئے مگر بعد میں کھانسی کی شدت کی دائمی بیماری کے سبب حضرت نے تبلیغ سے معذور قرار دیدیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد آپ کا قیام اور تجارتی کاروبار احمد پور شرقیہ کٹھڑہ احمد خاں میں رہا۔ نہایت خوش اخلاق، متواضع اور حضرت کے خاص محبت کرنے والوں میں سے تھے۔ صاحب اولاد صالح ہیں۔ ان کے دونوں بھائی اور دوسرے بہت سے رشتہ دار حضرت صاحب سے بیعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عمریں دراز کرے اور نیکی پر استقامت بخشنے۔ آمین

حاجی صاحب موصوف کا انتقال <sup>۱۹۶۱ء</sup> <sup>۲۳ جنوری</sup> میں بمقام احمد پور شرقیہ ہوا، آپ کا مزار مبارک قبرستان حضرت عظمت شاہ صاحب قدس سرہ میں ہے۔ حضرت مخدوم اعجاز محمد صاحب قریشی ہاشمی مدظلہ العالی نے اپنی زمین میں سے کچھ حصہ حاجی صاحب موصوف کی قبر کے لئے عطا فرمایا تھا، اس میں آپ کا مزار مبارک حسب انوار ہے۔



(۶) حضرت مولانا صوفی علی نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ  
 آپ اسماعیل آباد ضلع کرنال کے باشندے تھے۔ بڑے صاحبِ جذب و کشف بزرگ تھے  
 راقم الحروف کی دعوت و مشورہ پر بمقام گوہانہ حضرت صاحب سے داخل سلسلہ ہوئے  
 اور اسی مجلس میں جذب سے مشرف ہوئے۔ سلوک طے کر کے صاحب اجازت ہوئے  
 اپنے علاقہ میں اور پانی پت، کیمٹھل اور ریاست کلیہ کے علاقہ میں تبلیغ کی بڑی  
 خدمات انجام دیں۔ ریاست بھاو پور کے کلارج والہ اسٹیشن کے قریب کے چلوک میں  
 (سماستہ کے قریب) بھی تبلیغ کے لئے حضرت صاحب نے بھیجا تھا اور کافی لوگ فیضیاب  
 ہوئے تھے۔ آپ نے کئی حضرات کو صاحب اجازت بنایا۔ نہایت خوش خلق، خوش مذاق  
 اور متواضع انسان تھے، بڑی بلند طبعیت پائی تھی۔ پاکستان بننے پر جب مشرقی  
 پنجاب کے لوگ مغربی پاکستان میں وارد ہوئے تو بمقام مظفر گڑھ پہنچ کر بجارصہ  
 چیچک بیمار رہ کر داعی اجل کو لبیک کہا۔ مظفر گڑھ ہی میں اسٹیشن سے شہر کے راستے  
 میں جو قبرستان آتا ہے اس میں شمالی سڑک کے قریب آپ کا مزار مبارک مطلع انوار ہے اور  
 کتبہ لگا ہوا چار دیواری بنی ہوئی ہے۔ دوسرے خلفاء کی طرح آپ بھی حضرت کی حیات  
 میں احمد پور شرقیہ تشریف لاتے رہے۔ نور اللہ مرقدہ وجعل الجنة مثواه۔

(۷) حافظ محمد یونس صاحب رہتی

آپ غالباً جھجر ضلع رہتک کے رہنے والے ہیں۔ رہتک میں محلہ بارہ کی مسجد  
 بیوپاریان میں (جہاں حاجی محمد شفیع صاحب رہتے تھے) امام مسجد تھے حضرت  
 صاحب سے رہتک میں بیعت ہو کر سلوک طے کیا اور صاحب اجازت ہوئے۔ ان کے  
 متعلق معلوم نہیں ہو سکا کہ تبلیغ میں کس قدر حصہ لیا اور اب کہاں مقیم ہیں

حافظِ قرآن تھے اور خوش خلق مؤدب اور سادہ مزاج بزرگ ہوئے ہیں۔  
اور ضروری علمِ دین سے واقف تھے۔ اخیر عمر میں کچھ بیمار رہنے لگے تھے۔ حضرت  
سے آپ کے بہت سے متعلقین بھی بیعت تھے

### (۸) کنور محفوظ علی صاحب ہردوا گنج علی گڑھ

آپ ہردوا گنج ضلع علی گڑھ کے زمیندار اور راجپوت خاندان سے تھے آپ کی  
صاحبزادی صاحبہ گوہانہ ضلع رتھک میں بیابھی ہوئی تھیں اس لئے گوہانہ کی آمد و  
رفت میں حضرت صاحب کے پاس آنے جانے لگے اور آپ کی صحبت کے فیوض و برکات  
سے متاثر ہو کر داخل سلسلہ ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ کی بیعت خواجہ سراج الدین صاحب  
دامانی قدس سرہ سے تھی۔ آپ نے خواجہ محمد عثمان دامانی اور حضرت لعل شاہ صاحب  
دندانی و جناب محمود شیرازی صاحب وغیرہ مریدین و خلفائے حضرت خواجہ محمد عثمان  
صاحب کی زیارت و صحبت حاصل کی ہوئی تھی اور ان کے واقعات اکثر سنایا کرتے  
تھے۔ نہایت متبع شریعت و سنت اور محبت والے بزرگ ہوئے ہیں۔ حضرت صاحب کے  
سلوک طے کر کے صاحب اجازت ہوئے۔ حضرت صاحب کی اجازت سے ایک دفعہ  
جماعت کے لوگوں کے لئے شجرہ شریف اپنے اہتمام سے چھپوایا اور ایک کتاب  
معاشرت النبی آپ نے تالیف فرمائی جو بہت مفید ہے جس میں مختلف کتب سے  
حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزِ زندگی اور شمائل و اسوۂ حسنہ درج کئے  
ہیں۔ آپ کا انتقال غالباً ہردوا گنج ہی میں ہو چکا ہے۔ تبلیغ سلسلہ کے متعلق ان  
کے حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو  
علی علیین میں جگہ دے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین۔

(۹) حضرت سید مبارک علی شاہ صاحب کرناہی رحمۃ اللہ علیہ

آپ شہر کرناہی کے رہنے والے ہیں وہیں ملازم تھے۔ کرناہی میں حضرت کا قیام اکثر انہی کے صلاح و مشورہ سے ہوتا تھا۔ بعد میں بھائی عبدالرحمن صاحب کے مکان پر شہر میں قیام فرمانے لگے اور اس دوران میں بھی صدر بازار میں جہاں شاہ صاحب رہتے تھے تشریف لاتے اور کبھی قیام بھی فرماتے تھے۔ آپ نہایت خوش خلق متواضع اور محبت والے بزرگ ہیں۔ خاندان سادات سے ہیں اب کوٹا اور ضلع مظفر گڑھ میں قیام پذیر ہیں اور تبلیغ کے لئے کئی مقامات پر تشریف لیجاتے ہیں اور بہت لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور فائز المرام فرمائے آمین

(۱۰) جناب محمد عمر صاحب

آپ کینٹنل ضلع کرناہی کے رہنے والے ہیں بڑی محبت والے اور صالح انسان ہیں انہی کی کوشش و تعاون سے صوفی علی نواز صاحب نے کینٹنل میں تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت قدس سرہ نے وصال کے وقت ان کو اجازت بیعت عطا فرمائی اس وقت وہ وہاں موجود تھے اور حضرت کی خدمت و تیمارداری میں لگے رہتے تھے۔ آج کل سلاں والی ضلع سرگودھا میں مقیم ہیں۔ اطال اللہ بقارہ

(۱۱) حافظ قاری صنعت اللہ صاحب

پانی پت کے رہنے والے ہیں۔ پانی پت میں ان کے یہاں بھی قیام ہوتا تھا بڑے نیک و صالح باعمل انسان ہیں اور قرآن پاک کے درس و تدریس میں مصروف رہتے ہیں ان کو بھی حضرت نے وصال کے وقت اجازت سے مشرف فرمایا۔ آج کل حافظ آبا

سہ جناب سید مبارک علی شاہ صاحب کا انتقال ۳۱ اگست ۱۹۹۷ء کو کوٹا اور ضلع مظفر گڑھ میں ہو چکا ہے۔

ضلع گجرانوالہ میں مقیم ہیں اور ان سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے اطلال اللہ بقارہ  
 (۱۲) حضرت مستری شمس الدین صاحب اسمعیل آبادی کو بھی  
 جو حضرت مولانا گوہانوی سے داخل سلسلہ ہیں وصال کے وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ  
 نے اجازت بیعت طریقت سے مشرف فرمایا۔ آجکل کوٹ اڈو ضلع منظر گڈھ میں  
 مقیم ہیں اپنے ہاتھ سے کاروبار کرتے ہیں اور قاضی وقت میں بچوں کو فی سبیل اللہ  
 قرآن پاک و مسائل دین وغیرہ کی تعلیم دیتے ہیں اور تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ بہت نیک  
 صالح، متواضع اور محبت والے انسان ہیں۔ اطلال اللہ بقارہ۔

(۱۳) احقر مولف زوار حسین عفی عنہ

گوہلہ ضلع کرناٹ کا باشندہ ہے۔ پہلے بذریعہ خط توسط جناب مولانا  
 اسلام الدین صاحب مشرف بیعت و طریق ذکر حاصل ہوا۔ اس کے کچھ عرصہ  
 بعد بمقام پانی پت بر مکان حکیم صداقت علی صاحب پانی پتی بالمشافہ  
 (اپریل ۱۹۳۲ء میں) بیعت طریقت سے مشرف ہوا۔ حسب توفیق حضرت کی  
 خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ غالباً ۱۹۳۵ء میں حضرت صاحب  
 نے خواجہ غریب نواز دادا پیر صاحب کی خدمت میں اپنا نیاز نامہ دیکر روانہ فرمایا  
 یہ عاجز کئی روز حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ کی خدمت میں سعادت سفر  
 حاصل کرتا رہا اور اسی دوران میں جب آپ احمد پور شرقیہ تشریف لائے تو قبۃ والی  
 مسجد میں مجمع عام میں حضرت خواجہ غریب نواز نے اجازت طریقت سے مشرف  
 فرما کر ضروری نصاب تلقین فرمائیں اور حضرت پیر و مرشد سے مزید تشریح و تلقین  
 کے لئے فرمایا پھر حضرت صاحب نے تنہائی میں مزید توجہات و تلقینات سے

مشرف فرمایا۔ واللہ اعلم وعلیٰ التمام۔

یہ عاجز بہ سلسلہ ملازمت تدریس تقریباً پندرہ سال دہلی میں مقیم رہا اور پاکستان بننے پر خیرٹا میوالی ضلع بھاو لپور میں سکونت پذیر ہوا، اور اب ۱۹۶۷ء سے کراچی ۱۸، ناظم آباد ۳۱ بج ۱۲ میں اقامت اختیار کر لی ہے۔ اپنی بے بضاعتی اور کم بائگی کا ہر وقت احساس اور ندامت ہے اور حضرت صاحب مرحوم واجاب سلسلہ کی دعاؤں اور توجہات سے نجات کی امید لگائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگان دین کے طریقہ پر چلنے کی توفیق بیش از بیش رفیق حال فرمائے اور استقامت بخشنے۔ آمین۔ الہی مقصود ما توئی ورضائے تو، مارا محبت و معرفت خود پرہ، الہی مارا آل بدہ کہ بدوستان خود دادی، الہی از تو ترامی خواہم ۵

احب الصالحین ولست منهم

لعل الله يرزقني صلاحاً

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم  
غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمین



نظم بیادگار حضرت مرشدی مولانی جناب احمد سعید صاحب قریشی

ہاشمی مجددی فضلی احمد پوری رحمۃ اللہ علیہ

مجھے پھر آج وہ دور گزشتہ یاد آتا ہے  
وہ شمس معرفت شیخ طریقت عارف کامل  
میرے مولانا میرے مرشد سعید ہاشمی قریشی  
مجاز خواجہ فضل علی شاہ غوث صمدانی  
کروں تو صیف مرشد یہ کہاں ناب تو اں میری  
جہیل صاحب الرائے حسن ریت حسین صورت  
توکل صبر و تسلیم و رضا و شکر ربانی  
تبسم ہی تبسم تھی سراسر گفتگو ان کی  
لطافت میں لطافت ہیں تقویٰ اور طہارت میں  
چلن میں سادگی میں وضع میں لطافت و محنت میں  
وہ اخلاق محمدؐ کا سراپا اک نمونہ تھا  
بہاول پور میں ہے شہر احمد پور شرقیہ  
وہ دہلی پانی پت کرناں رستک اور گوہانہ  
وہ ان شہروں میں جب تبلیغ کو تشریف لاتے تھے  
عجب پر کیف تھا پر جذب تھا اس وقت کا منظر  
نگاہ فیض پڑ جاتی تھی جس پر میرے مرشد کی  
خیالی یاد مرشد میرے دل کو گدگداتا ہے  
وہ دانائے شریعت رہ برحق واقف منزل  
وہ حنفی نقشبندی سروردی قادری چشتی  
مجدد الف ثانی کی محبت میں جو تھے فانی  
تخیل میرا ناقص نا کمل ہے زباں میری  
وہ زاہد متقی، صاحب نظر صاحب دل الفت  
تواضع بندگی بندہ نوازی خندہ پیشانی  
محمدؐ کی غلامی تھی ہمیشہ آرزو ان کی  
وہ عفت میں شرافت میں سخاوت میں سجاوٹ میں  
عمل میں حلم میں عفو و کرم میں اور طاعت میں  
کہ آغوش شریعت میں اسے فطرت پالا تھا  
وہی تھا مولد و مسکن ہمارے پیر و مرشد کا  
وہ کیتھل، گرگشیر، کاندھلہ، انبالہ، کیرانہ  
ہزاروں ان کی صحبت سے مسلمان فیض پاتے تھے  
کہ اللہ اور نبی کے ذکر کا چرچا ہوا گھر گھر  
محبت اس میں گھر کرتی تھی اللہ کی محمدؐ کی

وہ جب اک بار تھے کرنال میں تبلیغ کو آئے  
 ہوئے بیمار اٹھارہ روز گزرے سخت شدت کا  
 دوا کرتے رہے جوں جوں مرض بڑھتا ہی جاتا تھا  
 کٹائے بال اور پوشاک بدلی ہاتھ منہ دھویا  
 رہی اک روز تک حالت پھر استغراق کی طاری  
 ربیع الثانی تیرہ سو تریسٹھ سال ہجری تھا  
 تیمم سے نماز ظہر ادا کی ترے تھا طاری  
 بتا اس سرزمین اولیا میں آپ کا مرقد  
 کہا تکاب سناؤں استانِ غم مر کھائی  
 تمنا ہے ترے ذوق کی مولا عطا کر دے  
 ہمیں سنت کا تابع کر شریعت کی محبت سے  
 عطا کر دے مرے مولا ہمیں اوصافِ عرفانی  
 دلوں میں سب مسلمانوں کے بھر دے تو را ایمانی

ہمارا خاتمہ یا نخیر ہو ایمانِ کامل پر

بحقِ مصطفیٰ آلِ نبی اصحابِ پیغمبر

(مؤلف)

# دیگر نظم یاد مرشد رحمۃ اللہ

یہ نظم حضرت پیر و مرشد قدس سرہ العزیز کے وصال کے بعد مسجد سالار گنج پانی پتہ میں منعقد ہونے والے سالانہ جلسہ میں خاکسار مولف نے پڑھی تھی اسوقت جلسہ میں شامل ہونے کیلئے وہلی سے جاتے ہوئے راستہ میں یہ نظم عجلت میں کہی گئی تھی اب کچھ ترمیم اور اضافہ کے ساتھ حیات سعید یہ کی اشاعت ثانی میں شامل کی جاتی ہے۔ (مولف)

خوشنائے شہر پانی پتہ کہ برکت کی گھڑی آئی  
کہ پھر تیری فضاؤں پر ہے رحمت کی گھٹا چھائی  
کہیں تیرے چمن میں غنچہ و گل مسکراتے ہیں  
کہیں ہے بلبلی رنگیں نوا کی نغمہ سیرانی  
جو انان چمن ہیں آج مست بادہ صافی  
نسیم صبح نے اک بانگین سری ہے انگڑائی  
مجھے بھی آج پھر ذوق سخن بنیاب کرنا ہے  
مرے دل میں ہے پیدا آرزوئے محفل آرائی  
وہ جن کے فیض سے ہرزہ مثل مہر تاباں ہے  
اکا برسٹیاں اس شہر میں تشریف ہیں لائی  
سنانے کو مسلمانوں کے احکامات ربانی  
مرے مرشد کی ہے یہ یادگار فیض روحانی

تبسم ہی تبسم تھی ادائے گفتگو جس کی  
تبسم ہی تملطف ہی تملطف جس کا ہر انداز ہوتا تھا  
محمد کی غلامی کی سعادت سے مشرف تھا  
ولی اللہ تھا اللہ کے پیاروں کا پیارا تھا  
شریعت میں وہ راسخ تھا طریقت میں وہ کامل تھا  
حقیقت سے وہ واقف تھا فقری کا سہارا تھا  
ضائے حق کا طالب، سنت نبوی پہ عامل تھا  
عزیزوں کا دلارا تھا مریدوں کا وہ پیارا تھا  
بناؤں کیا میں اے زوار کیا کچھ تھا مرا مرشد  
میری آنکھوں کا تارا تھا میرے دل کا سہارا تھا



بالآخر آیا پیغام اجل منجانبِ مولا

کہا لبیک اور رخصت ہو وہ حضرت والا

مبارک تجھ کو لے زوار! پھر روزِ سعید آیا  
 نری سوئی ہوئی تقدیر کے بیدار کرنے کو  
 خدا کی راہ میں مٹ جا خدا کے نام پر یک جا  
 مٹا کر اپنی ہستی جب ہوا اللہ سے وصل  
 شریعت کے پیغام ہیں طریقت بھی حقیقت بھی  
 تجھے پھر یادِ مرشد نے اس محفل میں بلوایا  
 محمدؐ کی صحبت کا سنگھانے لکھنے آیا  
 یہی ایسی تجارت ہے کہ جس کو بے خطر پایا  
 تجھے ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آیا  
 مجددِ الفِ ثانی نے ہے یہ ارشاد فرمایا

محمدؐ کی غلامی سے سر موہو نہ تو باہر

یہی تعلیم دیتے تھے ہمارے مرشد و پیر

ہزاروں رحمتیں نازل ہوں انکم میرے مرشد پر  
 مقامِ قرب میں یارب! نہیں ہر دم ترقی دے  
 نڈا یاد وہاں میں ان کی اولاد اقرار ک  
 اور ان کے سب مُریدوں کو سدا یارب ترقی دے  
 ہمارے سینے تیرے فیض سے معمور ہو جائیں  
 ادا ان کے مرقدا طہر کو یارب پُرضیا کر دے  
 انھیں خلدِ یریں میں رتبہ اعلیٰ عطا کر دے  
 سعادت مند کر دے با مراد و با صفا کر دے  
 ان کو کامیاب و کامراں روزِ جزا کر دے  
 ہمیں راہِ طریقت میں خداوند افسا کر دے

ہمیں یارب تو اپنے راستہ پر استقامت دے

نبیؐ اور آل و اصحابِ نبیؐ کی ہم کو الفت دے

## قطعاتِ تاریخ وصال

(از جناب حکیم محمد عبدالقیوم صاحب عباسی پانی پتی)

این چه کردی تو اے فلکِ ظلمے  
 کہ براں غم زده کلاں و خورد  
 آہ محمد سعید کامل شیخ  
 بود یکتا درے ز کس نبی  
 روز جمعہ چار دہ اپریل  
 ۱۱۸ ۲۱۳ ۲۳۰ ۲۲۳  
 ہاتف از غیب بانگ زد قیوم  
 آہ درویش بے نظر بگرد  
 ۲ ۵۲۰ ۱۲ ۱۱۹۰ ۲۲۶  
 ۶۱۹۲۲

## دیگر

این وصل شیخ بر ہمہ شاق و شدید رفت  
 چوں شامِ غم در آید و صبح امید رفت  
 می کرد و با بخلق در کنتر معنوی  
 آں کس کہ بود مشعلِ راہِ نبی نماید  
 زندہ است نام شیخ کہ کردش جہادِ نفس  
 ماہِ ربیعِ ثانی و تاریخِ نوزدہ  
 پر سم چو سالِ وصل ز ہاتف مرا بگفت

بادی حق طریق محمد سعید رفت

۲ ۱۰۸ ۳۱۹ ۲۲۶ ۶۸۰ ۵۱۳۶۳

## قطعہ تاریخ وصال

(از جناب مولانا اختر شاہ خاں صاحب اختر امر وہوی ثم المیرٹھی)

نور سلوک طریق خدانہ چوں محضوں  
شود نہ تیرہ و اندوہ چوں رُخ عرفاں  
بہ روز جمعہ و در نوزدہ ربیع دگر  
جناب حاجی محمد سعید گشت رواں  
سب زہا شتم و شرب مجددی می داشت  
و حید عصر پدو شیخ کامل دوراں  
وطن ببلدہ احمد پور از بہاول پور  
کہ بہت فخر ریاست ملک ہندوستان

شہید سال وصالش زہا تھے اختر

کسوف بدر سہ ماہ سعادت افروزاں

۱۳ ۶ ۳

## قطعہ تاریخ وصال

(از جناب پروفیسر ڈاکٹر علامہ مصطفیٰ خاں صاحب ایم اے ایل ایل بی بی ایچ ڈی)

۱۳۶۳	محمد سعید آن قریشی نجابت	از عطا بر رحمت بہ خلد بریں شد ۱۹۴۴
۱۳۶۳	بہ طفلی یتیم و بہ عرفان قرباں	یتیم آمد و افضل الواصلین شد ۱۹۴۴
۱۳۶۳	راحسان و حسنہ نشا طے بیکشتہ	طریقت شکوہے بہ جنت بکین شد ۱۹۴۴
۱۳۶۳	شہنشاہ اقلیم دل اوج عزت	بہ فردوس ذی جاہ مستنشین شد ۱۹۴۴
۱۳۶۳	بہ خاصاں سعید زیاں قطب دواں	تہ مخلصین مرجع السالکین شد ۱۹۴۴

(نوٹ: اس قطعہ کے ہر مصرعہ اول سے سالِ ہجری اور ہر مصرعہ دوم سے سالِ عیسوی برآد ہوتا ہے)  
لہ کسوف - سورج و چاند دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

# شجرہ مبارک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اور درود و نعت مولیٰ مجتبیٰ کے واسطے	حمدِ کُل ہے رب کی ذاتِ کبریا کی واسطے
فضل کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے	اے خدا تو اپنی ذاتِ کبریا کے واسطے
صدق دے کمال تو ایسے پر صفا کی واسطے	حضرت صدیق اکبر یا غارِ مصطفیٰ
درود اپنا دے مجھے اس جاں قدا کی واسطے	حضرت سلمانِ فارس شمسِ برجِ معرفت
عالی ہمت کر مجھے اس ذوالعلا کی واسطے	حضرت قاسمؒ تھے پوتے حضرت صدیق کے
مطمئن مجھ کو بنا اس زوی عطا کی واسطے	حضرت جعفر امام اتقیا و اصفیا
نورِ عرفاں دے مجھے نور الوری کی واسطے	قطبِ عالم غوثِ اعظم شیخ اکبر بایزید
ذکرِ قلبی دے مجھے اس با صفا کی واسطے	خواجہ حضرت بوالحسن جو ساکن خرقان تھے
دور کر عصیاں مرے اُس پر جیا کی واسطے	حضرت خواجہ ابوالقاسم جو تھے گرگان میں
دے مجھے اعمالِ صالح اولیا کی واسطے	فارس دی شیخ عالم خواجہ حضرت بوعلی
نفس ہو مغلوب میرا مقتدا کے واسطے	حضرت خواجہ ابو یوسف جو تھے ہمدان کے
دل منور کر مرا شمس الضحیٰ کی واسطے	نجد روانی خواجہ عبدالخالق شیخ کمال
اپنا عارف کر مجھے اس پیشوا کی واسطے	حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری
دے مجھے تو بے بہا کی واسطے	ساکن انجیر فغنه یعنی محمود ولی
نام تیرا ہو ریا کی واسطے	حضرت خواجہ عزیزان علی رامبستی
عشق صادق دے ہمیں اُس با صفا کی واسطے	خواجہ بابا سماسی عاشقِ ذاتِ خدا

میر میراں حضرت شاہ کلال متقی  
 حضرت خواجہ بہاؤ الدین جو تھے نقشبند  
 حضرت خواجہ علاؤ الدین جو عطار تھے  
 حضرت یعقوب چرخ بیگوں کے دستگیر  
 حضرت خواجہ عبداللہ جو احرار تھے  
 حضرت خواجہ محمد زاہد زید کمال  
 خواجہ درویش محمد میرور و پشیاں ہوئے  
 خواجگی خواجہ محمد واقف اسرا یہ حق  
 حضرت خواجہ محمد باقی بانہ رازداں  
 حضرت خواجہ میر دالف ثانی بکر علم  
 عرفۃ الوثقی محمد خواجہ معصوم اہل دل  
 خواجہ سیف الدین صاحب سیف جو دین کے  
 حافظ محسن ولی دہلوی تھے باخدا  
 سید نور محمد تھے بدایونی ولی  
 مرزا مظہر جان جاناں تھے حبیب اللہ شہید  
 خواجہ عبداللہ شاہ جو تھے مجدد دہلوی  
 بو سعید احمد کہ جو غوثِ زماں تھے بے گماں  
 خواجہ احمد سعید دہلوی مدنی ہوئے  
 حاجی دوست محمد ساکن قندھار تھے  
 کرر واسب حاجتیں اس پر سخا کے واسطے  
 کر منقش دل مرانور الہدی کے واسطے  
 دل معطر ہو مرا اس خوش لقا کے واسطے  
 میری عقلت دور کر اس باعطا کیواسطے  
 دہمدم ہو عشق زائد دل ربا کے واسطے  
 مجھ کو زاہد کر دے اس شاہِ ولا کیواسطے  
 خاص درویشوں سے کر اس حق نما کیواسطے  
 مجھ کو بھی خواجہ بنا مردِ خدا کیواسطے  
 رازداں مجھ کو بنا اس دل کشتا کیواسطے  
 مجھ کو صبر و شکر دے بدرالذی کیواسطے  
 دل منور کر مرا اس باصفا کیواسطے  
 سر کئے حرص و ہوا کا ذی لقا کے واسطے  
 معرفت دے مجھ کو اس شمس الہدی کیواسطے  
 عشق و عرفاں کر عطا اس پیشوا کیواسطے  
 رکھ شریعت پر مجھے پیر ہدی کے واسطے  
 خاص بندوں سے بنا اس رہنما کے واسطے  
 مجھ کو بھی اسعد بنا اس باوقا کیواسطے  
 عشق دے اپنا مجھے اس بے ریا کیواسطے  
 قلبِ ذاکر رکھ مرا اس خوش ادا کیواسطے

خواجہ عثمان دامانی جو قطبِ وقت تھے  
 شہ سراج الدین شانِ حق سراجِ معرفت  
 شاہِ تاجِ الاولیاءِ فضلِ علیؑ بے عدیل  
 قطبِ دریاں روحِ عرفانِ سعیدینِ خواجہ سعید

مجھ کو بھی ویسا بتا شیرِ خدا کے واسطے  
 قلب روشن کر مرا اس با صفا کیواسطے  
 دے سیدِ دل کی دوا اس پرِ ضیا کے واسطے  
 دل ہوا تو اس قریشی پارسا کے واسطے

کر قبول ان ناموں کی برکت سے ہر جائز دعا  
 میرا دل رکھ دائمًا ذاکرِ بزرگِ اسمِ ذات  
 بحرِ عصیاں میں الہی میں سراپا غرق ہوں  
 اے خدا مجھ کو یہی دستی کی کلفت سے بچا  
 میرے ہر دشمن کو اپنے فضل سے مغلوب کر  
 یا الہی شرِ شیطانی سے تو محفوظ رکھ  
 ہو متور قبر میری اور دے مجھ کو نجات

یا رب اپنی رحمتِ بے انتہا کے واسطے  
 اے خدا جملہ مقدس اصفا کے واسطے  
 فضل تیرا چاہئے مجھ بتلا کے واسطے  
 اپنے فضل و رحم اور جود و سخا کے واسطے  
 اپنی رحمانی رحیمی اور عطا کے واسطے  
 ہر عمل ہو بے ریا تیری رضا کے واسطے  
 اے خدا حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے

### ختم شریف حضرت خواجہ محمد سعید صبا قریشی احمد پوری قدس سرہ

اول و آخر درود شریف صد صد بار۔ درمیان میں پانصد بار وَمَنْ يَتَوَكَّلْ  
 عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔

بقلم احقر الانام ننگِ اسلام خاکسار ذرہ بمقدار زوارِ حسین عفی عنہ وغفرلہ  
 حال مقیم ۲۰ سلا۔ ایچ۔ ناظم آباد ۳۔ کراچی ۱۸۔

## مؤلف کتابِ ہذا

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب کی دیگر تصانیف

**عمدۃ الفقہ** | حضرت شاہ صاحب مدظلہ العالی کی یہ وہ معرکہ الآراء تصنیف ہے جس پر حضرت

ممدوح سالہا سال سے نہایت درجہ محنت و کاوش فرما رہے ہیں۔ جملہ متعلقہ مسائل کو نہایت اقیانوس کے ساتھ شامی، عالمگیری، درمختار، غایۃ الاوطار، طحاوی، نور الایضاح وغیرہ عربی کی بہت سی کتابوں سے اخذ کیا ہے۔ حقیقت یہ کہ حضرت شاہ صاحب موصوف نے جزئیات و مسائل کا اتنا استقصاء فرمایا ہے کہ اردو و فارسی کی کسی ایک کتاب میں اتنا ذخیرہ مشکل سے نظر آئے گا۔ نہایت عمدہ شگفتہ اور سلیس اردو میں اتنا ذخیرہ اسی کتاب کی خصوصیت ہے۔ کتابت طباعت

اور کاغذ نہایت عمدہ اور دیدہ زیب ہے۔ یہ کتاب بالخصوص علمائے کرام اور مفتیانِ عظام کے لئے بہت مفید ہے۔ حصہ اول کتاب الایمان، کتاب المطہارة، حصہ دوم کتاب الصلوٰۃ، حصہ سوم کتاب الزکوٰۃ و کتاب الصوم، حصہ چہارم کتاب الحج

**زبدۃ الفقہ** :- خلاصہ عمدۃ الفقہ۔ یہ عوام کے لئے بہت جامع ہے جو عمدۃ الفقہ کی طرز پر مرتب کی گئی ہے۔ حصہ اول کتاب الایمان و کتاب المطہارة، حصہ دوم کتاب الصلوٰۃ، حصہ سوم کتاب الزکوٰۃ و کتاب الصوم۔

**عمدۃ السلوک** :- یہ حضرت شاہ صاحب کی سب سے پہلی تالیف ہے جو کئی مرتبہ شائع ہو کر مقبولیت حاصل کر چکی ہے۔ جتنی حضرات کیلئے لائحہ عمل، نصح اور مخصوص دعائیں ہیں۔ اور انتہی حضرات کیلئے تعلیم و تشریح اسباق سلسلہ اور مختصر حالات حضرات نقشبندیہ میں۔ آخر میں تعویذات وغیرہ ہیں۔

**طریقہ حج اور دعائیں** :- مختصر حج کے فضائل اور طریقہ حج کے علاوہ حج ذریعات حرمین شریفین کی جامع اور مفصل دعائیں مع اردو ترجمہ۔

**حضرت مجدد الف ثانی** :- یہ کتاب حضرت مجدد الف ثانی اور ان کے اسلاف و اجداد کے حالات میں ہر انوار معصومیہ، حضرت مجدد کے ماجزایہ و جانشین حضرت خواجہ محمد معصوم کی میرت اور آپ کی اولاد در اولاد کے حالات میں۔ نیز اذکار معصومیہ اور حیات المحرمین بھی شامل کتاب ہے۔

**مکتوبات معصومیہ** کے ہر سہ دفتر کا اردو ترجمہ جو پہلی بار ترجمہ کیا گیا ہے۔

مبادی و معاد۔ اور معارف لدنیہ۔ ہر دو رسالے فارسی مع اردو ترجمہ

”ادارہ مجددیہ“ کی ایک منفرد اور شاندار پیشکش

## معجم القرآن

تالیف: حافظ سید فضل الرحمن صاحب قلف الرشید حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب علیہ الرحمہ  
قرآن کریم حق سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا پڑھنا، پڑھانا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کا اولین  
فرض ہے۔ نزولِ قرآن سے آج تک اس کے علوم و معارف، تفاسیر و تراجم اور لغات وغیرہ پر خدای جانے  
کس قدر مجلدات شائع ہو چکے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ پیش نظر تالیف ”معجم القرآن“ ایک جامع  
مکمل، مختصر اور آسان لغت ہے جو اپنی خوبیوں کی وجہ سے بہت مقبولیت حاصل کر چکی ہے جس میں  
قرآن مجید کا ہر لفظ زبر، زیر، پیش وغیرہ کے فرق والا جدا جدا درج کیا گیا ہے۔ پھر اس کا باب، ترجمہ  
ماضی، مضارع مصدر اور مذکر و مؤنث وغیرہ لکھے گئے ہیں۔ نیز واحد کا جمع اور جمع کا واحد بتا کر  
صرفی و نحوی تشریح کر کے سورت اور آیت کے حوالے بطور اشاریہ دیدیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے  
قرآن شریف کی آیات بھی آسانی سے نکالی جاسکتی ہیں۔ غرض قرآن کریم کے معانی سمجھ کر پڑھنے والے  
حضرات کے لئے ”معجم القرآن“ ایک بیش بہا تحفہ ہے۔

اس رسالہ میں عربی اصطلاحات، قواعد صرف و نحو، ماضی مضارع اور  
**گلدستہ عربی** ان کی گردائیں، اسماء مشتقہ، اسم عدد، ضمائر اور حروف، تعلیلات  
احادیث اور ضرب الامثال وغیرہ نہایت آسان اور عام فہم انداز میں مرتب کی گئی ہے۔  
ان دونوں کتابوں کا بڑا مقصد قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا، اس کا سمجھنا اور عمل کرنا  
حق سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے لئے یہ کتابیں نافع قرارے۔ آمین۔

ادارہ مجددیہ: ۵/۲، ایچ۔ ناظم آباد، ۳/۳، کراچی ۱۸



# ادارہ مجددیہ کی جملہ مطبوعات

عمدة السلوك

• اثبات النبوة (عربی شرح اردو ترجمہ)

گلدستہ مناجات

• الوارِ معصومہ

معجم القرآن

• تہلیلہ

مبدأ و معاد

• حضرت مجدد الف ثانیؑ

معارف لدنیہ

• حیات سعیدیہ

مقات زوارہ

• ریڈیو تقاریر

مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؑ (فارسی)

• زیۃ الفقہ حصہ اول

مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؑ (اردو ترجمہ)

• زیۃ الفقہ حصہ دوم

مکتوبات معصومیہ فارسی ہر سہ دفتر

• زیۃ الفقہ حصہ سوم

مکتوبات معصومیہ دفتر اول

• زیۃ الفقہ حصہ چہارم

مکتوبات معصومیہ دفتر دوم

• شرح رباعیات

مکتوبات معصومیہ دفتر سوم

• طریقہ حج اور دعائیں

ہدایت الطالبین

• عمدة الفقہ حصہ اول

• عمدة الفقہ حصہ دوم

• عمدة الفقہ حصہ سوم

• عمدة الفقہ حصہ چہارم

ادارہ مجددیہ  
نظم آباد  
۲۵  
سرخی